



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَلَّمَكَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
وَلَقَدْ لَعَنَّكَ إِذْ أَتَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْتَ كُنْتَ مِنَ الْمُنْكَرِينَ

اشعار
تیمان القرآن

مؤلف

علامہ حافظ آس محمد سعیدی

فریدیکہ محل

۲۸، اولیاء اللہ روڈ

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں فری

حاصل کرنے کے لیے

ٹیلیگرام چینل لنک

<https://t.me/tehqiqat>

آرکائیو لنک

<https://archive.org/details>

[@zohaibhasanattari](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

بلوگسپوٹ لنک

<https://ataunnabi.blogspot>

[.com/?m=1](https://ataunnabi.blogspot.com/?m=1)

طالب دعا - زوہیب حسن عطاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَنْ لَمْ یَلْمِ الْکُفْرَ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ
اِنَّ کُلَّ کُفْرٍ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ
اِنَّ کُلَّ کُفْرٍ لَمْ یَلْمِ الْاِسْلَامَ

اشاریہ تبیان القرآن

مُرتب

مولانا حافظ آس محمد سعیدی

ناشر

فریدنگہ ٹال ۳۸۔ اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



ترتیب و صحیح : مولانا حافظ آس محمد سعیدی
مطبع : روی ہبلی کیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : مکتبہ 1430ھ / جنوری 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای۔میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فہرست مضامین
اشاریہ بیان القرآن (مکمل)

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
☆	احتساب	27	1.11	آگ	48
☆	تعارف مؤلف	29	1.12	آل	48
☆	تبیان القرآن، ارباب و علم فکر کی نظر		1.13	آمن	48
	میں	32	1.14	آکم	48
☆	تاثرات	40	1.15	آیت	48
☆	پیش کشی	43	1.16	آیۃ الکرسی / کرسی	48
	(۱) آ		1.17	آیت تطہیر	48
1.1	آء رسالہ	45	(۲) الف		
1.2	آء قیامت	45	2.1	حضرت ابراہیم علیہ السلام	48
1.3	آفت	45	2.2	ابراہ	48
1.4	آداب	45	2.3	امام اعظم حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ	51
1.5	حضرت آدم علیہ السلام	45	2.4	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	51
1.6	آزر	46	2.5	ابولہب	51
1.7	آزمائش	47	2.6	ابلیس	51
1.8	حضرت آیہ جبرائیل	47	2.7	ابوجہل	51
1.9	آسمان	47	2.8	انص	51
1.10	آواز	48	2.9	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ	52

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
57	اذان	2.34	52	حضرت ابوطالب	2.10
57	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن	2.35	52	ابتداء	2.11
58	استغفار	2.36	52	ابدال	2.12
58	اسلام	2.37	52	سورۃ ابراہیم	2.13
59	استاذ	2.38	52	حضرت ابن مکتوم رضی اللہ	2.14
59	حضرت اسماعیل علیہ السلام	2.39	52	اجر/ اجرت	2.15
59	اسراف	2.40	53	اجتہاد	2.16
59	اسرائیلی روایات	2.41	53	اجماع	2.17
59	اسماء مصطفیٰ ﷺ	2.42	54	اجازت	2.18
60	استمناء بالید	2.43	54	سورۃ الاحقاف	2.19
60	اسماء باری تعالیٰ	2.44	54	سورۃ الاحزاب	2.20
60	استقامت	2.45	54	غزوۃ احزاب	2.21
60	حضرت اسامہ رضی اللہ	2.46	54	احوال آخرت	2.22
60	استجارہ	2.47	54	احسان	2.23
60	اسم اعظم	2.48	54	احکام شریعت	2.24
60	اسباب	2.49	55	احصار	2.25
60	اسماء حسنیٰ	2.50	55	غزوۃ احد	2.26
60	استغانت/ استمداد	2.51	55	اختلاف	2.27
60	استجاء	2.52	55	اختیارات	2.28
61	اصحاب اللغدود	2.53	55	اخلاص	2.29
61	اصول فقہ	2.54	56	سورۃ اخلاص	2.30
61	اصول حدیث	2.55	56	ادب مصطفیٰ ﷺ	2.31
61	اصحاب کہف	2.56	56	ادب	2.32
61	اصحاب الایکہ	2.57	56	حضرت ادريس علیہ السلام	2.33

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
70	امانت	2.82	61	اطاعت	2.58
70	امید	2.83	61	اطمینان	2.59
70	امیر	2.84	61	اعتکاف	2.60
70	انسان	2.85	61	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	2.61
72	سورة الانشقاق	2.86	62	سورة الاعلیٰ	2.62
72	سورة الانشراح	2.87	62	اعتبار	2.63
72	سورة الانفطار	2.88	62	سورة الاعراف	2.64
72	انجام	2.89	62	انغواء	2.65
72	انجیل	2.90	62	اقدار	2.66
72	انعام	2.91	62	اقامت	2.67
72	انذار	2.92	62	اقرار	2.68
73	انگور	2.93	62	اللہ تعالیٰ	2.69
73	انبیاء کرام علیہم السلام	2.94	68	الہام	2.70
74	ان شاء اللہ	2.95	68	الحاد	2.71
74	سورة الانبیاء	2.96	68	حضرت الیاس علیہ السلام	2.72
74	انصار	2.97	68	امام	2.73
74	سورة الانفال	2.98	68	امامت	2.74
75	انفاق فی سبیل اللہ	2.99	68	امتحان	2.75
75	سورة الانعام	2.100	68	امن و سلامتی	2.76
75	انار	2.101	68	امی	2.77
75	انعام یافتہ لوگ	2.102	69	امثلہ	2.78
75	انعامی بانڈز	2.103	69	امر بالمعروف و نہی عن المنکر	2.79
76	اولی الامر	2.104	69	امت محمدی ﷺ	2.80
76	اوس و خزرج (قبائل)	2.105	69	امتیاز	2.81

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
81	(معرکہ) بدر	3.10	76	اولاد	2.106
82	بد دعا	3.11	76	اولوالعزم	2.107
82	بدکار	3.12	76	اہل سنت و جماعت	2.108
82	بدگمانی	3.13	76	اہانت	2.109
82	بدلہ دینا	3.14	76	اہل کتاب	2.110
83	بدلہ لینا	3.15	77	اہل بیت	2.111
83	بدشگون	3.16	77	ایشار	2.112
83	برائی	3.17	77	ایمان	2.113
83	برکات مصطفیٰ ﷺ	3.18	78	ایندهن	2.114
83	بروج	3.19	78	ایلاء	2.115
83	سورۃ البروج	3.20	78	ایشی ہتھیار	2.116
83	برائی سے روکنا	3.21	79	ایذاء پہنچانا	2.117
83	بسم اللہ الرحمن الرحیم	3.22	79	حضرت ایوب علیہ السلام	2.118
84	بسیار خوری	3.23	79	ایصال ثواب	2.119
84	بشارت	3.24	(۳) ب		
84	بشر	3.25	79	بارش	3.1
84	بعث بعد الموت	3.26	80	باطل	3.2
84	بغاوت	3.27	80	بال	3.3
84	بغض	3.28	80	بانڈی	3.4
84	سورۃ البقرہ	3.29	80	بت / بت پرست	3.5
84	بلوغت	3.30	81	بچے	3.6
84	ملکہ سبا / بلقیس	3.31	81	بچھڑا	3.7
85	سورۃ البلد	3.32	81	بخیل	3.8
85	سورۃ بنی اسرائیل	3.33	81	بدعت	3.9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
88	پناہ طلب کرنا	4.8	85	بنو اسرائیل	3.34
88	پوشمارٹم	4.9	86	بنو قریظہ	3.35
88	پہاڑ	4.10	86	غزوة بنو المصطلق	3.36
88	پیش گوئی	4.11	86	غزوة بنو قینقاع	3.37
89	پیشہ	4.12	86	غزوة بنو نضیر	3.38
89	پیوند کاری	4.13	87	بھاگنا (میدان جنگ سے)	3.39
89	پیشوا	4.14	87	بہتان	3.40
89	پیدائش	4.15	87	بھولنا	3.41
(5) ت			87	بیع	3.42
			87	بیٹھنا	3.43
89	تباہ	5.1	87	بٹی	3.44
89	تبلیغ	5.2	87	بیٹا	3.45
89	تبیان القرآن	5.3	87	بیاری	3.46
89	غزوة تبوک	5.4	87	بیعت	3.47
89	عقیدہ تثلیث	5.5	87	سورۃ البینہ	3.48
90	تجوید	5.6	87	بیوی	3.49
90	تخفہ دینا	5.7	88	(4) پ	
90	تحویل قبلہ	5.8			
90	سورۃ التحریم	5.9	88	پاک	4.1
90	تخلیق	5.10	88	پانی	4.2
90	تدبر	5.11	88	پردہ	4.3
90	تدبیر	5.12	88	پرہیز	4.4
90	تربیت	5.13	88	پرنده	4.5
90	ترغیب	5.14	88	پڑوسی	4.6
90	ترہیب	5.15	88	پل صراط	4.7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
94	سلامت کلام پاک	5.40	90	تزکیہ	5.16
94	تمباکو نوشی	5.41	90	تسبیح باری تعالیٰ	5.17
94	تہجد	5.42	91	تصوف	5.18
95	توسل	5.43	91	تصویر	5.19
95	توبہ	5.44	91	تصدیق	5.20
96	تورات	5.45	91	تعظیم رسول ﷺ	5.21
96	توکل	5.46	91	تعلیم/تعلیم	5.22
97	تواضع	5.47	91	تعویذ	5.23
97	سورۃ التوبہ	5.48	91	تعظیم خداوندی	5.24
97	توہین رسالت	5.49	91	تعریف	5.25
97	توحید باری تعالیٰ	5.50	92	تعجب	5.26
99	توریہ	5.51	92	سورۃ التغابن	5.27
99	تیمم	5.52	92	تفسیر کبیر (الامام رازی)	5.28
99	سورۃ التین	5.53	92	تفسیر	5.29
99	تیراندازی	5.54	92	تقویٰ	5.30
(۶) ٹ			92	تقلید	5.31
99	فکس	6.1	93	تقدیر	5.32
(۷) ٹ			93	تقسیم کرنا	5.33
99	ثابت قدمی	7.1	94	تقویم	5.34
99	حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ	7.2	94	تقیہ	5.35
99	ثواب	7.3	94	تکبر	5.36
100	قوم شہود	7.4	94	تکلف	5.37
			94	سورۃ التکویر	5.38
			94	سورۃ الحکاک	5.39

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
			(۸) ج		
106	سورة الجن	8.24			
106	جنازہ نماز	8.25	100	جانور	8.1
107	جنون	8.26	100	جامل/جہالت	8.2
107	جنگ جمل	8.27	100	جادو	8.3
107	جواء	8.28	101	جار (پڑوسی)	8.4
107	جوامع الکلم	8.29	101	جاسوس	8.5
107	جھوٹ	8.30	101	جان بچانا	8.6
107	جھڑنا	8.31	101	سورة الجاثیہ	8.7
108	جہنم	8.32	101	جبریہ	8.8
108	جہاد/جنگ	8.33	101	جبر و قدر	8.9
109	جھوٹی نبوت کے دعویدار	8.34	101	جہلت	8.10
			102	حضرت جبریل علیہ السلام	8.11
			102	جدال	8.12
109	چاند	9.1	102	جزاء	8.13
109	چاندی	9.2	102	جزیہ	8.14
109	چشمے	9.3	102	جلد بازی	8.15
109	چغلی کھانا	9.4	102	حمد المبارک	8.16
109	چلنا	9.5	102	جماعت	8.17
109	چوری کرنا	9.6	103	جماع	8.18
109	چھٹی	9.7	103	جمادات	8.19
109	چھکی	9.8	103	سورة الحمد	8.20
109	چھینک	9.9	103	جمہوریت	8.21
110	چیوٹی	9.10	103	جنت	8.22
110	چینا	9.11	103	جن	8.23
			106		

(۹) ج

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
			ح (۱۰)		
115	حساب	10.24			
115	حسرت	10.25	110	سورة الحاقة	10.1
115	حسن سلوک	10.26	110	حضرت حاطب رضی اللہ عنہ	10.2
115	حسن اخلاق	10.27	110	حاکم	10.3
115	سورة الحشر	10.28	110	حاجت روائی	10.4
115	حشرات الارض	10.29	110	حبیب التجار	10.5
115	حشر	10.30	110	حج و عمرہ	10.6
116	حقوق العباد	10.31	111	حجر (قولی تصرف سے روکنا)	10.7
116	حقیقت	10.32	111	حجت	10.8
117	حق	10.33	111	حج اکبر	10.9
117	حکمت	10.34	111	سورة الحجر	10.10
117	حکومت	10.35	111	سورة الحج	10.11
117	حلال	10.36	111	حجاب	10.12
	حضرت حلیمہ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن)	10.37	112	سورة الحجرات	10.13
117			112	حدود و قصاص	10.14
117	حمد	10.38	112	حدیث	10.15
117	حمل	10.39	113	سورة الحديد	10.16
118	سورة حم السجده	10.40	113	حروف	10.17
118	غزوة حنین	10.41	113	حراہ	10.18
118	حور	10.42	113	حرام	10.19
118	حوارین	10.43	114	حرمت والے مہینے	10.20
118	حضرت حواء علیہا السلام	10.44	114	حرص	10.21
118	حیاء	10.45	114	حروف مقطعات	10.22
118	حیلہ	10.46	114	حسد	10.23

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
122	غزوہ خندق	11.21	118	حیات	10.47
122	خواہش	11.22	119	حیض	10.48
122	خودکشی	11.23	119	حیات النبی ﷺ	10.49
122	خون	11.24	(۱۱) خ		
122	خوفِ خدا	11.25	119	خارجی	11.1
123	خواب	11.26	119	خاموش	11.2
123	خیانت	11.27	119	خاکِ نقیش	11.3
123	خیال	11.28	119	خاندانی منصوبہ بندی	11.4
123	غزوہ خیبر	11.29	119	خبر واحد	11.5
(۱۲) د			119	ختم نبوت	11.6
124	دارالحرب	12.1	120	خدمت	11.7
124	دارالسلام	12.2	120	خراج	11.8
124	دارالکفر	12.3	120	خرج کرنا	11.9
124	داڑھی	12.4	120	حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ	11.10
124	حضرت داؤد علیہ السلام	12.5	120	خسارہ	11.11
125	سورۃ الدخان	12.6	120	خشوع و خضوع	11.12
125	درود شریف	12.7	121	خشیت الہی	11.13
125	درایت	12.8	121	خصائص مصطفیٰ ﷺ	11.14
125	درگور کرنا	12.9	121	حضرت خضر علیہ السلام	11.15
125	دشمن	12.10	121	خلیفہ/ خلافت	11.16
125	دعوت دین	12.11	121	خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم	11.17
125	دعا	12.12	121	خمر و دیگر منشیات	11.18
127	دل	12.13	122	خمس	11.19
127	دماغ	12.14	122	خنزیر	11.20

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
132	ذوی القربی	127	14.5	دم درود	12.15
132	ذوی الارحام	127	14.6	دنیا	12.16
132	ذوالقرنین	128	14.7	دن	12.17
133	حضرت ذوالکفل علیہ السلام	128	14.8	دودھ	12.18
133	ذوالحجہ	129	14.9	دوزخ	12.19
(۱۵) ر				دوست	12.20
133	رات	130	15.1	دھمکی دینا	12.21
133	راحت	130	15.2	دھواں	12.22
133	راہب / رہبانیت	130	15.3	دھریہ	12.23
133	راز	130	15.4	دھمال	12.24
133	رب	130	15.5	سورۃ الدھر	12.25
133	ربا	130	15.6	دھوکہ دینا	12.26
134	ربانین	131	15.7	دین	12.27
134	رجم	131	15.8	دیت	12.28
134	سورۃ الرحمن	131	15.9	دیدار الہی	12.29
134	رحمت باری تعالیٰ	131	15.10	دیہاتی	12.30
134	رزق	(۱۳) ڈ			
135	رسالت / رسول	131	15.12	ڈاکو / ڈاکہ	13.1
135	رشوت	131	15.13	ڈکار	13.2
136	رشتہ دار	(۱۴) ذ			
136	رضائے الہی / مصطفیٰ	131	15.15	سورۃ الذاریات	14.1
136	سورۃ الرعد	132	15.16	ذبیحہ	14.2
136	رقص و سرود	132	15.17	ذخیرہ اندوزی کرنا	14.3
136	رکون (کفار سے میل جول)	132	15.18	ذکر الہی	14.4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
140	زمین	16.9	136	رمضان المبارک	15.19
141	سورۃ الزمر	16.10	136	رہل	15.20
142	زندیق	16.11	136	روزہ	15.21
142	زنا	16.12	137	روح القدس	15.22
142	زندگی	16.13	137	روضہ رسول اللہ ﷺ	15.23
142	زوجہ	16.14	137	روح	15.24
142	زوج	16.15	138	رونا	15.25
143	زہد	16.16	138	روٹی	15.26
143	زیارت رسول کریم ﷺ	16.17	138	سورۃ الروم	15.27
143	زیورات	16.18	138	رہائش	15.28
143	زیتون	16.19	138	رہن (گروی رکھنا)	15.29
143	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	16.20	138	رؤیت باری تعالیٰ	15.30
143	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	16.21	139	ریاکاری	15.31
143	زینت	16.22	139	ریشم	15.32
143	زیارت قبور	16.23	139	ریب	15.33

(۱۷) س

(۱۶) ز

144	سامری	17.1	139	زبور	16.1
144	سالک	17.2	139	سورۃ الزخرف	16.2
144	سائل/سوال کرنا	17.3	139	زرہ	16.3
144	سازش	17.4	139	زکوٰۃ	16.4
144	سورۃ سبا	17.5	140	حضرت زکریا علیہ السلام	16.5
144	سجان	17.6	140	زلزلہ	16.6
144	سبب نزول	17.7	140	سورۃ الزلزال	16.7
144	سابقہ امتیں	17.8	140	زمزم	16.8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
149	سمندر	17.33	145	قوم سبا	17.9
149	سنت	17.34	145	السیع الثانی	17.10
149	سود	17.35	145	ستارہ	17.11
149	سورۃ	17.36	145	شہ باری	17.12
149	سورج	17.37	145	سجدہ	17.13
149	سونا	17.38	145	سجدۃ تلاوت	17.14
150	سہو	17.39	146	سورۃ السجدہ	17.15
150	سیارہ	17.40	146	سجدۃ تعظیمی	17.16
150	سیدھا راستہ	17.41	146	سج	17.17
(۱۸) ش			146	سحر	17.18
			146	سرقہ کرنا (چوری کرنا)	17.19
150	شام	18.1	146	سرجی	17.20
150	شب برات	18.2	146	سرگوشی کرنا	17.21
150	شجرۃ الزقوم	18.3	146	سزا	17.22
150	شح	18.4	146	حضرت سعد رضی اللہ عنہ	17.23
150	شر	18.5	146	سفر	17.24
150	شرح صدر	18.6	146	سکوت	17.25
150	شرک	18.7	146	سگریٹ نوشی	17.26
151	شریعت	18.8	146	حضرت سلیمان علیہ السلام	17.27
151	شرم گاہ	18.9	147	سلام / معانقہ	17.28
151	شعور	18.10	148	سلطان	17.29
151	شعر	18.11	148	سلطنت	17.30
152	حضرت شعیب علیہ السلام	18.12	148	سماع موتی	17.31
152	شعائر اللہ	18.13	148	سماع	17.32
152	سورۃ الشعراء	18.14	148		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
159	حضرت صالح علیہ السلام	19.2	152	شفاء	18.15
160	صالح	19.3	152	شفقت	18.16
160	صائبین	19.4	152	شفاعت	18.17
160	صابن	19.5	154	شق صدر	18.18
160	مبر	19.6	154	شق قمر	18.19
161	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	19.7	154	شکر/شاکر	18.20
161	صحیفہ	19.8	154	شک	18.21
162	صدیق	19.9	155	شکوہ/شکایت	18.22
162	صدق	19.10	155	شکار	18.23
162	صدق	19.11	155	شگون	18.24
162	صراط مستقیم	19.12	155	شمس	18.25
162	صغہ	19.13	155	سورۃ الشمس	18.26
162	سورۃ القف	19.14	156	شوہر	18.27
162	جنگ صفین	19.15	156	سورۃ الشوریٰ	18.28
162	صفات باری تعالیٰ	19.16	156	شہادت	18.29
162	سورۃ الصفت	19.17	156	شہید	18.30
162	صلح حدیبیہ	19.18	157	شہد	18.31
163	صلوٰۃ (درود و سلام)	19.19	157	شہاب ثاقب	18.32
164	صلوٰۃ (نماز)	19.20	157	شہاب زہری	18.33
166	صلح	19.21	157	شیطان	18.34
166	صلحی	19.22	159	شیعہ	18.35
166	صوفی باصفا	19.23	159	شیخ	18.36
166	صور	19.24	(۱۹) ص		
167	صیغہ امر	19.25	159	سورۃ ص	19.1

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
				(۲۰) ض	
20.1	ضالین	167	22.3	ظہار	170
20.2	سورۃ الفصحی	167		(۲۳) ع	
20.3	ضد	167	23.1	عاجزی کرتا	171
20.4	ضمانت	167	23.2	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	171
			23.3	عالمین	171
			23.4	عالم	171
			23.5	سورۃ العادیات	172
			23.6	قوم عاد	172
			23.7	عابد/عبادت	172
			23.8	العاص بن وائل	173
			23.9	عاشورہ	173
			23.10	سورۃ العنکبوت	173
			23.11	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ	173
			23.12	عبرت	173
			23.13	عبداللہ بن ابی	173
			23.14	عتاب	174
			23.15	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	174
			23.16	عجلت	174
			23.17	عدت	174
			23.18	عدل	174
			23.19	عذاب	175
			23.20	عذر	177
			23.21	عرش	177
			23.22	عرس	177
				(۲۱) ط	
21.1	سورۃ الطارق	167			
21.2	طالوت	167			
21.3	طاعون	167			
21.4	طار	167			
21.5	طریقہ	168			
21.6	طریقہ انتخاب	168			
21.7	طعام	168			
21.8	طعنہ	168			
21.9	سورۃ الطلاق	168			
21.10	طلاق	168			
21.11	سورۃ الطور	169			
21.12	طواف	169			
21.13	سورۃ طہ	169			
21.14	طہارت	170			
21.15	طیب	170			
				(۲۲) ظ	
22.1	ظالم/ظلم	170			
22.2	ظن	170			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
183	علم نبوی ﷺ	23.47	178	عربی زبان	23.23
183	علاج	23.48	178	عراف	23.24
184	علامات قیامت	23.49	178	عزت	23.25
184	علوم خمسہ	23.50	178	عزیمت	23.26
184	عمارت	23.51	178	عزت لکھنی	23.27
184	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	23.52	178	حضرت عزیر علیہ السلام	23.28
185	عمران کی بیوی	23.53	178	عشر	23.29
185	عمر	23.54	178	عصا	23.30
185	عمری	23.55	178	عصمت انبیاء	23.31
185	عمل	23.56	179	سورۃ العصر	23.32
186	سورۃ العنکبوت	23.57	179	عطا کرتا	23.33
186	عورت	23.58	179	غفور درگزر	23.34
186	عہد	23.59	179	عقیدہ	23.35
187	عہد شکنی	23.60	179	عقد	23.36
187	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	23.61	179	عقل	23.37
189	عیادت	23.62	180	عقیقہ	23.38
189	عیب	23.63	180	سورۃ اعلق	23.39
189	عیش و عشرت	23.64	180	علم/علم دین	23.40
غ (۲۴)			181	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	23.41
189	سورۃ الغاشیہ	24.1	181	علم جفر	23.42
189	غبن	24.2	181	علم غیب	23.43
189	غریب	24.3	182	علم لدنی	23.44
189	غزوة بدر	24.4	182	علم نجوم	23.45
189	غصہ	24.5	182	علم باری تعالیٰ	23.46

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
191	فہای آلاء ربکما تکذبن	25.9	189	غفلت/ غافل	24.6
191	فتح	25.10		مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی	24.7
191	فتویٰ	25.11	189	صاحب	
191	فتنہ	25.12	189	غلام	24.8
192	سورۃ الفتح	25.13	190	غلام احمد قادیانی	24.9
192	فطر	25.14	190	غلو	24.10
192	سورۃ الفجر	25.15	190	مال غنیمت	24.11
192	فحش کام	25.16	190	غنماء	24.12
192	فخر	25.17	190	غور و فکر	24.13
192	فرعون/ قوم فرعون	25.18	190	غیر اللہ کو پکارنا	24.14
193	فرقے	25.19	190	غیب	24.15
193	فرق	25.20	190	غلطی کرنا	24.16
194	فرقہ بندی	25.21	190	غیبت	24.17
194	فرشتہ	25.22	190	غیرت	24.18
195	فریب	25.23	191	غیظ و غضب	24.19
195	سورۃ الفرقان	25.24	(۲۵) ف		
195	فراست	25.25	191	سورۃ الفاتحہ	25.1
195	فرمانبردار	25.26	191	فاتحہ خلف الامام	25.2
195	فساد	25.27	191	حضرت فاطمہ <small>رضی اللہ عنہا</small>	25.3
195	فضول خرچی	25.28	191	فاسق/ بد عقیدہ	25.4
195	فضل	25.29	191	سورۃ فاطر	25.5
195	فضیلت	25.30	191	فاحشہ	25.6
195	فطرت	25.31	191	فال	25.7
195	فصل	25.32	191	فارس	25.8

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
202	قرض	26.15	196	فقہ	25.33
202	قرامطہ	26.16	196	فقیر/فقر	25.34
202	قرأت خلف الامام	26.17	196	فلسطین	25.35
203	قربانی	26.18	196	فلفہ	25.36
203	قریش	26.19	196	سورۃ الفلق	25.37
203	سورۃ القریش	26.20	196	فواہ	25.38
203	قرعہ اندازی	26.21	196	فیصلہ	25.39
204	قرض خواہ	26.22	196	سورۃ الفیل	25.40
204	قسم	26.23	196	فئے	25.41
204	قصہ	26.24	(۲۶) ق		
204	قصاص	26.25	196	سورۃ ق	26.1
204	سورۃ القصص	26.26	196	قاضی	26.2
205	قضاء	26.27	196	قائیل/حائیل	26.3
205	قلب	26.28	197	قارون	26.4
205	سورۃ القلم	26.29	197	سورۃ القارعہ	26.5
205	قمار	26.30	197	قبر	26.6
205	سورۃ القمر	26.31	197	قبلہ	26.7
205	قتاعت	26.32	197	قبول اسلام	26.8
205	دعائے قنوت	26.33	197	قبح	26.9
205	قوت	26.34	197	قتل	26.10
205	قواعد فقہیہ	26.35	198	قدرت باری تعالیٰ	26.11
205	قیاس	26.36	198	سورۃ القدر	26.12
206	قید/قیدی	26.37	198	تذف	26.13
206	قیام تعظیسی	26.38	198	قرآن مجید	26.14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
217	کن قلیون	27.22	206	قیامت	26.39
218	سورۃ الکولث	27.23	209	سورۃ القیامہ	26.40
218	کوزے	27.24	(۲۷) ک		
218	کھیل	27.25	209	کائنات	27.1
218	کھانا کھانے کے آداب	27.26	209	کاہن	27.2
218	کھجور	27.27	209	سورۃ الکافرون	27.3
218	سورۃ الکھف	27.28	209	کامیابی	27.4
(۲۸) گ			209	کبوتر بازی	27.5
218	گدھا	28.1	209	کتا	27.6
218	گداگری	28.2	209	کتاب	27.7
219	گرفت	28.3	210	کذب	27.8
219	گردی رکھنا	28.4	210	کرامت	27.9
219	گستاخ رسول	28.5	210	کرانا کاتبین	27.10
219	گمراہ/گمراہی	28.6	210	کسب	27.11
219	گمان	28.7	210	کعبہ	27.12
219	گنبد خضریٰ	28.8	210	کفر/کفار	27.13
219	گناہ	28.9	216	کفارہ	27.14
221	گوشت	28.10	216	کفریہ کلمات	27.15
221	گوہ	28.11	217	کفو	27.16
221	گواہی دینا	28.12	217	کلمہ طیبہ	27.17
(۲۹) ل			217	کلمہ حق	27.18
221	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	29.1	217	کلام	27.19
221	لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم	29.2	217	کلام باری تعالیٰ	27.20
221			217	کم عقل	27.21

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	(۳۰) م		221	لاثری	29.3
225	مال	30.1	221	لا لاج	29.4
225	مال غنیمت	30.2	221	لہاس	29.5
225	سورۃ المائدہ	30.3	221	لذت	29.6
225	ماشاء اللہ	30.4	221	لذیذ	29.7
225	سورۃ الماعون	30.5	221	لکھن	29.8
225	مہلبہ	30.6	221	لعان	29.9
225	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا	30.7	222	لعنت	29.10
226	مباشرت	30.8	222	لغو	29.11
226	مالوس ہونا	30.9	222	لقب	29.12
226	متقی	30.10	222	لقط	29.13
226	متعد	30.11	222	لقیط	29.14
226	متفرقات	30.12	222	سورۃ لقمان	29.15
226	مٹی	30.13	222	حکیم لقمان	29.16
226	مجرم	30.14	222	لکھنا	29.17
226	مجمع البحرین	30.15	222	لوح محفوظ	29.18
226	مجدوب	30.16	223	لوح قرآنی	29.19
226	مجتہد	30.17	223	لواطت	29.20
226	مجلس	30.18	223	حضرت لوط علیہ السلام	29.21
227	مجوی	30.19	224	سورۃ الملعب	29.22
227	سورۃ المجادلہ	30.20	224	لوبا	29.23
227	مچھلی	30.21	224	لہو و لعب	29.24
227	محسن	30.22	224	سورۃ اللیل	29.25
227	محراب	30.23	224	لیلۃ القدر	29.26

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
238	سورة المزمل	30.48	227	محرم الحرام	30.24
238	مسکین	30.49	227	سورة محمد	30.25
238	سجد	30.50	227	محبت	30.26
239	سج	30.51	227	سیدنا محمد عربی ﷺ	30.27
239	مسلمان	30.52	235	محمد بن عبدالوہاب نجدی	30.28
240	مشابہت	30.53	235	محکم	30.29
240	مشرق	30.54	235	مخلوق	30.30
240	مشرك	30.55	235	مدائنت	30.31
242	مشکل الفاظ کے معانی	30.56	236	مدافعت	30.32
249	مشورہ	30.57	236	مدد حاصل کرنا	30.33
250	مصیبت	30.58	236	سورة المدثر	30.34
250	مصارف زکوٰۃ	30.59	236	مدینہ منورہ	30.35
251	مصاہرت	30.60	236	مدعی نبوت	30.36
251	مضطر	30.61	236	مذاق کرنا	30.37
251	سورة المطففين	30.62	236	مذہب	30.38
251	سورة المعارج	30.63	236	حضرت مریم علیہا السلام	30.39
251	معاف کرنا	30.64	237	مرتد	30.40
251	معجزہ	30.65	237	مردار	30.41
252	معرفت	30.66	237	سورة مریم	30.42
252	مغذور	30.67	237	مرغ	30.43
252	معصوم	30.68	238	مردوں کو زندہ کرنا	30.44
252	معراج النبی ﷺ	30.69	238	مرجھ	30.45
253	معاد	30.70	238	سورة المرسلات	30.46
253	معاملہ	30.71	238	مزارات	30.47

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
260	موشی	30.96	253	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ	30.72
261	مولوی	30.97	253	مغضوب	30.73
261	موالات	30.98	253	مظرت	30.74
261	مہر	30.99	253	مغرب	30.75
261	مہمان نوازی	30.100	254	مفتوحہ علاقے	30.76
261	مؤمن	30.101	254	مقابلہ	30.77
263	سورۃ المؤمنون	30.102	254	مقتول	30.78
263	سورۃ المؤمن	30.103	254	مقام محمود	30.79
263	میت	30.104	254	مکہ مکرمہ / اہل مکہ	30.80
263	میقات	30.105	255	مکس	30.81
263	میثاق	30.106	255	مکزی	30.82
263	میزان	30.107	255	ملت	30.83
263	میلاد رسول ﷺ	30.108	255	ملائکہ	30.84
264	میاندردی	30.109	255	لمحہ	30.85
(۳۱) ن			255	سورۃ الملک	30.86
			255	سورۃ الممتحنہ	30.87
264	نام	31.1	255	منت مانگنا	30.88
264	سورۃ الناس	31.2	255	منطق	30.89
264	ناپ تول	31.3	255	مناظرہ / مباحثہ	30.90
264	سورۃ النباء	31.4	255	منافق	30.91
264	نبوت / نبی	31.5	255	سورۃ المنافقون	30.92
266	نجات	31.6	257	موت	30.93
266	نجات از جہنم طلب کرنا	31.7	257	حضرت موسیٰ علیہ السلام	30.94
266	سورۃ النازعات	31.8	257	مواخذہ	30.95
266	نجاشی	31.9	260		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
271	تقصان	31.34	266	نجوی	31.10
271	تکاح	31.35	266	سورۃ النجم	31.11
272	تکاء	31.36	266	سورۃ النمل	31.12
272	نماز	31.37	266	نحوست	31.13
272	نمرود	31.38	267	نداء یا رسول اللہ ﷺ	31.14
272	سورۃ النمل	31.39	267	نذر	31.15
272	حضرت نوح علیہ السلام	31.40	267	نسخ	31.16
274	سورۃ نوح	31.41	267	سورۃ النبأ	31.17
274	نور	31.42	267	نسیان	31.18
274	سورۃ النور	31.43	268	نسب	31.19
274	نوحہ کرنا	31.44	268	نسبت	31.20
274	نیت	31.45	268	نشانی	31.21
274	نیزد	31.46	268	نصب	31.22
274	نیک اعمال	31.47	268	سورۃ النصر	31.23
275	نیک لوگ	31.48	268	نصاری	31.24
275	نیکی	31.49	268	نصیحت	31.25
275	نیکی کا حکم دینا	31.50	268	نطفہ	31.26
	(۳۲) و		268	نذر لگنا	31.27
275	والدین (ماں + باپ)	32.1	268	نعمت	31.28
276	والدین کریمین رضی اللہ عنہما	32.2	270	نفس	31.29
276	وادئ حجر	32.3	270	نفل	31.30
276	وادئ طوی	32.4	270	نفاق	31.31
276	واعظ	32.5	270	نفع و ضرر	31.32
276	وارث	32.6	271	نفع رسائی	31.33

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
280	ہجرت/مہاجرین	33.3	277	سورۃ الواقعہ	32.7
281	ہدیٰ	33.4	277	وجاہت	32.8
281	ہدہ	33.5	277	وجد	32.9
281	ہدایت/ہادی	33.6	277	وجود باری تعالیٰ	32.10
282	ہڈی	33.7	277	حضرت وحشی رضی اللہ	32.11
282	ہلاکت	33.8	277	وہی	32.12
282	سورۃ الہمزہ	33.9	278	وراثت	32.13
282	ہم جنس پرستی	33.10	278	وزیر/وزارت	32.14
282	ہنسہ/تبسم/قبچہ	33.11	278	وسیلہ	32.15
282	سورۃ ہود	33.12	279	دوسرہ	32.16
282	حضرت ہود علیہ السلام	33.13	279	وصیت	32.17
(۳۴) ی			279	وضو	32.18
			279	وعدہ/وعید	32.19
283	یا جوج و ماجوج	34.1	279	وعدہ	32.20
283	یاد	34.2	279	وکیل	32.21
283	یتیم	34.3	279	ولایت	32.22
284	حضرت یحییٰ علیہ السلام	34.4	279	ولی	32.23
284	یزید	34.5	279	ولید بن عقبہ	32.24
284	سورۃ یسین	34.6	280	ولید بن مغیرہ	32.25
284	حضرت یعقوب علیہ السلام	34.7	280	ووث	32.26
285	یقین	34.8	280	وہم	32.27
285	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	34.9	280	(۳۳) ۵/۵	
285	سورۃ یوسف	34.10			
285	حضرت یوسف علیہ السلام	34.11	280	حضرت ہارون علیہ السلام	33.1
289	یوم	34.12	280	ہاروت وماروت	33.2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
			289	یوم حساب	34.13
			289	یوم حشر	34.14
			289	یوم عرفہ	34.15
			289	یوم میلاد	34.16
			289	یوم نحر	34.17
			289	سورہ یونس	34.18
			290	حضرت یونس علیہ السلام	34.19
			290	یہود و نصاریٰ	34.20

مقتات



انتساب

میں اپنی اس علمی کاوش کو ان دو عظیم شخصیات کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے علمی فیضان سے یقیناً ایک عالم مستفیض و مستفید ہو رہا ہے جن کا وجود مسعود مسلمانانِ عالم کے لیے باعثِ رحمت اور مینارۂ نور ہے

میری مراد ہیں

محدث عصر، سعید ملت، جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والفسیر
حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب

اور

میرے محسن و مربی، میرے استاذ محترم، میرے راہبر و رہنما
حضرت علامہ مولانا پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب
امد اللہ ظلہما علیٰ جمیع المسلمین والمسلمات



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف مؤلف اشاریہ تبیان القرآن

حضرت مولانا حافظ آس محمد سعیدی زید علمہ و فضلہ واسعدہ اللہ فی الدارین نہایت تخلص اور جلیل القدر عالم دین ہیں انہوں نے نہایت محبت اور اخلاص سے تفسیر تبیان القرآن کا اشاریہ ترتیب دیا ہے جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے مضامین تبیان کی فہرست بنائی ہے، مثلات کے باب میں ایک عنوان ہے: توصل اس کی فہرست اس طرح بنائی ہے:

توصل

وسیلہ کا معنی

187/1

انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ

188/1

توصل بعد از وصال پر اعتراضات کے جوابات

196/1

توصل بعد از وصال کے متعلق علماء کرام کے نظریات

198/1

حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا

448/1

وسیلہ بمعنی ذریعہ تقرب

171/3

انبیاء و اولیاء کے وسیلہ سے دعا کرنا

171-173/3

وسیلہ بمعنی درجہ جنت

174/3

دعا اذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق

174/3

دعا اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق

175/3

وسیلہ بمعنی مرشد کامل

176/3

پیدائش و ابتدائی حالات

حافظ آس محمد سعیدی کے والد کا نام محمد الیاس ہے، حافظ آس محمد 1987ء میں بہاولپور پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر میں حاصل کی، ان کے استاذ گرامی حافظ عون محمد سعیدی ہیں، دوسرے استاد جن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا علامہ اللہ وسایا سعیدی ہیں اور شیخ المیراث علامہ احمد دین صاحب سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن مجید حافظ محمد سلیمان کے پاس تین سال میں حفظ کیا، جب سے اب تک دو مرتبہ تراویح میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی اور باقی سالوں میں قرآن مجید کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ اپنے استاد حافظ عون محمد سعیدی صاحب سے 2005ء میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور حافظ عون محمد سعیدی غزالی زماں بیہقی و دوران حضرت علامہ سید سعید احمد شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز کے دست اقدس پر بیعت ہیں۔

2002ء میں ثانوی عامہ اور میٹرک پاس کیا، 2003ء میں فاضل عربی پاس کیا اور بہاولپور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی 2004ء میں ثانوی خاصہ اور I.com پاس کیا۔ 2006ء میں B.com اور عالیہ پاس کیا، پھر 2008ء میں تنظیم المدارس سے شہادت عالیہ کی سند حاصل کی۔ 2006ء میں کمپیوٹر بارڈ ویز اور سوفٹ ویئر کی تعلیم حاصل کی۔ عامہ خاصہ عالیہ اور عالیہ میں ممتاز مع شرف کی ڈگری حاصل کی جب کہ میٹرک I.com اور B.com پہلی ڈویژن (1st Division) کے ساتھ پاس کیا۔ 2007ء میں استاذ عون محمد سعیدی صاحب سے دورہ حدیث مکمل کیا۔ 2006ء میں مرکز تحقیق فیصل آباد میں تربیتی کورس مکمل کیا۔ تنظیم المدارس کے امتحان عالیہ کے لیے جو مقالہ تحریر کیا اس کا عنوان تھا: قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلہ حجاب۔

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیرہ شریف میں آل پاکستان مقابلہ تحریر منعقد ہوا اس میں مقالے کے عنوان تھا: فروغ دین میں مدارس کا کردار اس مقابلے میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

دورانِ تعلیم مختلف رسائل و جرائد میں مضامین لکھے رسائل کے نام یہ ہیں: (۱) السعید (ملتان) (۲) نور الحیب (بصیر پور) (۳) ماہنامہ نظامیہ (لاہور) (۴) ماہنامہ عرفات (لاہور) (۵) مجلہ الہدایت (ملتان) اس کے علاوہ آسان جنرل ریاضی، محبت رسول ضروری کیوں اور قربانی کے مسائل و فضائل کے نام سے کتابیں لکھیں جو طبع ہو چکی ہیں۔

2005ء میں اپنے استاذ کے مدرسے دارالعلوم حسینیہ قادریہ سعیدیہ میں تدریس شروع کی جس میں صرف 'نحو انگریزی ریاضی اور سراجی پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایل۔ ایل۔ بی کر رہے ہیں۔

سماجی خدمات

سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی اور اس کے چیئرمین منتخب ہوئے اس تنظیم کی طرف سے کثیر تعداد میں غرباء میں آٹا تقسیم کیا اور عید الفطر میں عید گفٹ پیک تقسیم کیے۔

اشاریہ تبیان القرآن شائع کرنے کا داعی اور محرک

حافظ آس محمد نے سب سے پہلے فقیر ناکارہ کی کتاب معاشرے کے ناسور پڑھی، پھر مقالات سعیدی، تذکرۃ المحدثین، شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کے کچھ حصے پڑھے اور پھر نعمۃ الباری، ایک مرتبہ ان کے استاذ حافظ عون محمد سعیدی تبیان القرآن کی فہرستوں میں ورزش کے عنوان سے کچھ مواد تلاش کر رہے تھے استاد شاگرد تقریباً 50 منٹ تک ڈھونڈتے رہے پھر کہیں جا کر انہیں مطلوبہ مواد ملا۔ پھر انہیں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو اس سے اپنا مطلوبہ عنوان تلاش کرنے میں اتنی ہی کاوش کرنی پڑتی ہوگی اور وقت صرف کرنا پڑتا ہو گا، تو کیوں نہ تفسیر تبیان القرآن کا ایک اشاریہ مرتبہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو علمی اور تحقیقی کام کرنے میں سہولت میسر ہو، پہلے انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کی بارہ (12) جلدوں کی فہارس کو اکٹھا کیا، پھر انہوں نے حروفِ حجبی کے اعتبار سے کسی ایک عنوان کے تحت اس عنوان کے موافق جو مضامین مختلف جلدوں میں پھیلے ہوئے تھے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور یوں پوری تبیان القرآن کی فہرست بنا دی، ظاہر ہے اس میں انہوں نے بہت مشقت اٹھائی لیکن اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر صرف ایک مہینے میں یہ کام مکمل کر لیا، شروع میں آپ نے یہ کام چھوڑ دیا مگر رمضان کے مہینے میں خواب میں مجھ سے ملاقات کے بعد اس کام کو پھر اسی ذوق و شوق سے شروع کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل ان کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکور فرمائے اور قارئین تبیان القرآن کو اس سے زیادہ سے زیادہ

استفادہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین! بجاہ سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین

غلام رسول سعیدی غفرلہ، خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی



تبیان القرآن ارباب علم و فکر کی نظر میں

قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز

بسم الله الرحمن الرحيم ط الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على حبيبه

سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين . اما بعد :

تفسیر قرآن (تبیان القرآن) پر جو کام فخر الاماثل شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی زید مجدہم نے کیا ہے اس پر وہ صرف میرے ہی شکر یہ کے مستحق نہیں بلکہ تمام اہلسنت کے شکر یہ کے مستحق ہیں۔ جو خدمت مسلک اور دین کی ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ تبیان القرآن علامہ سعیدی زید مجدہم کا ایک عظیم علمی و تحقیقی شاہکار اور ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر کہا جائے: بحر لاساحل لہ تو بجا ہے۔

مولیٰ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور مزید خدمت دین کی توفیق بخشے (آمین)

فقیر شاہ احمد نورانی صدیقی غفرلہ

(ملخصیات سعید ملت، ص: ۸۴ + حقائق شرح صحیح مسلم و حقائق تبیان القرآن، ص: ۱۸)



حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب (مہتمم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله و حده اذلی ابدی لا اول له ولا آخر له صمدی سرمدی لا ضد ولا

ندله و الصلوة والسلام على من لانبی بعده سيدنا و مولانا محمد النبی الامی

و على كل من صحبه و تبعه باحسان بعده .

”تبیان القرآن“ عہد جدید کی نہایت جامع، کامل اور مکمل تفسیر ہے میرے محدود مطالعہ کے مطابق اردو اور عربی کی کسی تفسیر میں اتنا ذخیرہ معلومات یکجا نہیں ہے اگرچہ ہر تفسیر میں آپ کو جتہ جتہ تمام علوم و فنون سے متعلق معلومات ملیں گی، لیکن بالعموم ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی رنگ غالب ہے، مثلاً ابن جریر طبری اور ابن کثیر کی تفاسیر میں احادیث اور روایات پر زیادہ انحصار کیا گیا ہے، علامہ جار اللہ زبیری کی تفسیر میں قرآن کی ادبیت اور بلاغت کی شان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، امام راغب اصفہانی نے لغت کے بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، علامہ زجاج نے صرفی اور نحوی ابحاث کو اپنا موضوع بنایا ہے، علامہ ثعلبی نے اسرائیلیات اور تاریخی رطب و یابس کو جمع کر

دیا ہے علامہ ابوبکر جصاص کی تفسیر میں فقہی رنگ غالب ہے انہوں نے فقہ حنفی کی برتری ثابت کی ہے علامہ قرطبی کی تفسیر یوں نہایت جامع ہے لیکن اس میں فقہ مالکی کو ترجیح دی گئی ہے علامہ احمد جیون کی تفسیر بھی آیات احکام پر مشتمل ہے امام رازی نے اپنی شان جامعیت کے ساتھ ساتھ فقہی موضوعات میں اگرچہ فقہ شافعی کو ترجیح دی ہے لیکن ان کی تفسیر کا خاصہ باطل فرقوں کا دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ردِ بلیغ ہے تفسیر روح المعانی میں دیگر امور کے علاوہ صوفی و نحوی ترکیب پر کافی توجہ دی گئی ہے تفسیر روح البیان اور تفسیر مظہری میں تصوف کا رنگ غالب ہے سید قطب کا مرکزی موضوع مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات اور جواہر طناوی کا مرکز نظر قرآن اور سائنس میں تطبیق ہے۔ ہمارے اس خطے پاک و ہند کی اردو تفاسیر میں ہر مفسر کے ذہن پر اس کا مخصوص مکتبہ فکر مسلک مذہب اور سیاسی سوچ غالب نظر آتی ہے چنانچہ وہ قرآن کا مطالعہ اسی سیاق و سباق میں کرتے ہیں اور قرآن کی جامعیت آفاقیت ابدیت اور ہمہ گیریت کا حق انہیں کر پاتے۔

الغرض "کلام ربانی" کی تفسیر کے تمام شعبوں کا کسی ایک تفسیر میں کما حقہ احاطہ کرنا نہایت دشوار امر ہے اور نہ کسی تفسیر کو حرف آخر کہا جاسکتا ہے۔ تاہم بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کی موجود اور دستیاب تفاسیر میں جو شان جامعیت و کاملیت "تبیان القرآن" کو حاصل ہے اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دوران تفسیر اردو زبان کے قارئین کے لیے مختلف موضوعات پر اتنا عظیم تحقیقی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ جو کہیں اور کسی جگہ دستیاب نہیں ہے مستقبل کا کوئی بھی مفسر و محقق صاحب "تبیان القرآن" کے کسی بھی نتیجہ فکر سے اختلاف تو کر سکتا ہے اور یہ اس کا حق ہے لیکن اس سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔

"تبیان القرآن" کی تمام زبانوں کی موجود تمام تفاسیر میں یہ بھی امتیازی شان ہے کہ اس میں ہر بات جدید معیار تحقیق کے مطابق کتاب صفحہ مصنف مطبع اور سن طباعت کے حوالوں کے ساتھ نقل کی گئی ہے یہ چیز دیگر کتب تفاسیر میں بہت مخصوص موضوعات کے ضمن میں خال خال تو ملے گی لیکن اس کا کلی التزام نہیں ملے گا۔

بلاشبہ "تبیان القرآن" علم تفسیر اور اس منبع علم سے پھوٹنے والے مختلف علوم و فنون کا انسائیکلو پیڈیا اور انمول خزانہ ہے اور یہ آفتاب علم مطبع علم پر صدیوں جگمگاتا رہے گا کسی نے سچ کہا ہے:

بلوح الخط فی القرطاس دھرا و کاتبہ رمیم فی التراب

(صفحہ پر لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ چمکتی رہتی ہے اس وقت بھی جبکہ اس کا لکھنے والا مٹی میں گل سڑ چکا ہوتا)

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کو تمام تر جسمانی، علمی، عملی، فکری اور ذہنی قوی کی کامل سلامتی کے ساتھ تبیان القرآن کی تکمیل کے بعد بھی تادیر مزید دینی و علمی عنوانات پر اپنے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! یا رب العلمین بجاہ سید المرسلین علیہ و علی آلہ و صحبہ افضل الصلوٰۃ و التسلیمات و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

پروفیسر مفتی منیب الرحمن (مہتمم: دارالعلوم نعیمہ کراچی)

چیئر مین: مرکزی رویت ہلال کمیٹی، پاکستان

رکن: اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان

(ماخوذ از: حقائق شرح صحیح مسلم و دقائق تبیان القرآن ص: ۲۳-۲۸)

حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب (مہتمم جامعہ رضویہ شمس العلوم کراچی)

علامہ غلام رسول سعیدی صاحب! جلیل القدر محدث، مفسر، خطیب اعظم، نامور محقق اور قبحر عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی فکر، جدت نظر، وسعت مطالعہ اور اظہار مافی الضمیر کی بے پناہ قوت عطا فرمائی ہے۔ علامہ سعیدی صاحب کی محققانہ شان اپنے مرتبہ کمال پر نظر آتی ہے۔ آپ نے تحقیق کی روش کے تسلسل کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اسے آگے بھی بڑھایا ہے۔ کسی بھی تفسیر، حدیث اور فقہی کاوش کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس میں سابق مفسرین اور محققین کی تفسیری کاوشوں اور تحقیقات پر کس قدر اضافہ کیا گیا ہے اس کے پیش نظر مجھے یہ کہنے میں کچھ بھی تامل نہیں ہے کہ علامہ سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن اس معیار پر پوری اترتی ہے تفسیر تبیان القرآن میں مسائل حاضرہ، عبادات، معاملات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ احکام و مسائل میں تمام مذاہب آئمہ کو ان کی اصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں اسلام کے مسلمہ عقائد کو دلائل سے مزین کیا گیا ہے تفسیر میں مذکورہ احادیث کی تخریج کی گئی ہے۔ ماخذ و مراجع کی فہرست سنین و فوات کے ترتیب سے مرتب کی گئی ہے اس نوع کی یہ انفرادی فہرست ہے جس کے ذریعہ پتہ چل جاتا ہے کہ محدث، مفسر، فقیہ اور مصنف کا تعلق کس زمانے اور کس دور سے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تفسیر ”تبیان القرآن“ کو شرف قبول عام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

(ماخوذ از: حیات سعید ملت، ص: ۸۴-۸۵)



حضرت علامہ مولانا پروین سرفراز خان صاحب (مدیر: جامعہ حسنیہ نزد سبزی منڈی بہاولپور)

تبیان القرآن اس دور کے محقق اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بے مثال اور بے بدل تفسیر ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی وہ شخصیت ہیں کہ ان جیسے لوگ صدیوں بعد صفحہ ہستی پر نمودار ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو خلافت الہیہ کی یاد تازہ کرا جاتے ہیں۔

دنیا کے حسین گلشن میں ہر قدم پر بول ملتے ہیں
کچھ انہی سے وقار گلشن ہے دو گھڑی کو جو پھول کھلتے ہیں

علامہ سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم (۷ جلد) تبیان القرآن (۱۲ جلد) اور نعمۃ الباری لکھ کر اہل سنت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ وہ صدیوں تک ان کا قرض نہیں چکا سکتے۔ دوں ہمت اور زوال پذیر اہلسنت محسن کشی میں اپنی مثال نہیں رکھتے یہ ہر اس شخص کے مخالف ہوتے ہیں جو انہیں بقاء اور عزت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہر اس شخص کے قدموں میں گرتے ہیں جو خود بھی خواب خرگوش میں ہوتا ہے اور انہیں بھی میٹھی نیند کی لوریاں سناتا ہے۔ یہ تو مسلک اہلسنت کی حقانیت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ سے ان میں ایسے جلیل القدر افراد بھیج دیتا ہے جو انہیں حیات نو کی نوید سنا جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی، علامہ فضل حق خیر آبادی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

خان قادری، غزالی، زماں، علامہ سید احمد سعید کاظمی اور حضرت علامہ غلام رسول سعیدی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بڑے بڑے اساطین علم ان کے سامنے بالشتیے نظر آتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلک اہل سنت کے مخالفین خواہ کتنی ہی کثیر تعداد میں اپنے علماء تیار کریں وہ سارے مل کر ہمارے صرف ایک شاہکار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہیرا لاکھوں ٹھیکریوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو سارے کا سارا دارالعلوم دیوبند ہے اور دوسری طرف تنہا اعلیٰ حضرت۔ مگر بخدا! اعلیٰ حضرت کے آفتاب کے سامنے وہ چراغ بھی نہ بن سکے البتہ چراغ پا ضرور ہو گئے..... اسی طرح اس دور میں بھی بے شمار بد مذہب، علم و تحقیق کا پرچم لے کر اٹھے مگر جب علامہ غلام رسول سعیدی کی ہستی ان کے سامنے آئی تو یہ لوگ ان کے فخنوں کو بھی نہ چھو سکے۔ یقیناً علامہ سعیدی صاحب نے اہل سنت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر دور میں ایک ایسے محقق کی بہر حال ضرورت ہوتی ہے جو اس دور کے مسائل کا ادراک کر کے ان کا صحیح حل پیش کر سکے۔

علامہ صاحب کی تفسیر قرآن ہو یا شرح حدیث دونوں چندے آفتاب و چندے ماہتاب ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین و مسلک کے نام وقف کر دی ہے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں عبیدین و صدیقین کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی دین و مسلک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ (آمین)

عصر حاضر میں چونکہ یونیورسٹیز اور جامعات میں تحقیق کو باقاعدہ ایک فن کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اور اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں (اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ دینی مدارس کے علماء نے اپنے زمانے کے ہر علم و فن میں اپنا لوہا منوایا ہے) لہذا ضرورت تھی کسی ایسے عالم دینی کی جو دینی تحقیقات کو یونیورسٹیز اور جامعات کے مقابلہ میں زیادہ بہتر فنی انداز میں پیش کر سکے تو یہ سہرا اللہ تعالیٰ نے مولانا غلام رسول سعیدی کے سر باندھا، جنہوں نے جدید تحقیقی انداز کو اختیار کر کے تنہا اتنا بڑا کام کر دیا کہ آنے والی صدیوں میں کئی جامعات مل کر بھی اس فرد واحد کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ساری زندگی ایک کمرہ میں بیٹھ کر کم و بیش ۲۰۰ انٹینٹیوٹس کا کام ایک ہی شخص نے کر دکھایا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اس طرح کا کام مسلک حق اہل سنت کے نمائندہ نے کیا ہے۔ اس کی جزاء انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے طرز تحقیق کو اختیار کر کے دیگر مصنفین بھی اپنی کتب میں مکمل حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ علماء کرام میں تحقیق کا یہ انداز سب سے پہلے انہوں نے ہی اختیار کیا۔ لہذا اب جتنا بھی تحقیقی کام آگے بڑھے گا اس کا ثواب علامہ صاحب کے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ تحقیق کا یہ طریقہ کار کوئی آسان کام نہیں، اگر کوئی مصنف اس طرز پر لکھنا شروع کر دے تو چند ہی دنوں میں پریشان ہو جائے گا۔ شرح صحیح مسلم و تبیان القرآن جیسا ایک صفحہ لکھنا بھی مشکل کام ہے مگر علامہ صاحب نے اکیلے ہی ہزاروں صفحات لکھ کر ہر صفحہ کو بیسیوں حوالہ جات سے مزین کر دیا ہے۔ پھر مزید ارباب بات یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کو تشنہ نہیں چھوڑا، تقریباً ہر موضوع پر لکھا اور باکمال لکھا۔ اگر کسی کے پاس آپ کی تصانیف ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ساری زندگی کے لیے آپ کی کتب ہی کافی رہیں گی اور دوسری کتب کی اس کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔

علمی تحقیقات کے حوالے سے ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ان میں اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ نیز کسی بھی شخصیت سے علمی و تحقیقی آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف رائے کوئی برا کام نہیں ہے۔ لیکن ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور حسد کی بناء پر کسی کے پیچھے پڑ جانا یقیناً ایک بدترین کام ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم کہا کرتے ہیں کہ جس شخص سے تم اختلاف کرنے جا رہے ہو پہلے اس جتنا اور ویسا کام

کر کے دکھاؤ پھر اختلاف کرو تو تمہیں زیب بھی دیتا ہے ورنہ ”چھوٹا منہ بڑی بات“ کا محاورہ تمہارے لیے ہی بتایا گیا ہے۔ بہر حال ہم علامہ صاحب کے طرز تحقیق کے بے حد شیدائی ہیں وہ ہر موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایسے ایسے گوبر پائے گرا نما یہ پیش کرتے ہیں کہ آدمی ششدر رہ جاتا ہے۔ وہ نہایت اخلاص کے ساتھ معروضی انداز میں تحقیق فرماتے ہیں۔ لگی بندھی سوچ کے پیچھے چلتا ان کی عادت نہیں اور اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر وہ لگی بندھی سوچ کے مالک ہوتے تو آج یقیناً اس مقام پر نہ ہوتے۔

چند احمق قسم کے لوگ آپ پر بھبتی کتے ہیں کہ ”وہ تو مجتہد ہیں“ تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ الحمد للہ یقیناً وہ مجتہد ہیں۔ آج امت مسلمہ میں اجتہاد مفقود ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں مجتہدین کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں کوئی مجتہد موجود ہے جس کا اعتراف تم بھی اپنی زبان سے کر رہے ہو۔ اگر مولانا بھی تمہاری طرح لگی بندھی سوچ کے مالک ہوتے تو وہ بھی تمہاری طرح خشک مقلد ہی ہوتے اور ہمیں ایسے مقلدین کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو مجتہدین کی ضرورت ہے اور اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ مجتہد کی تمام صفات علامہ صاحب میں پائی جاتی ہیں وہ قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل پیش کرنے کی کامل صلاحیت رکھتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا حق بھی کسی مجتہد ہی کو ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی ان سے اختلاف کرے گا وہ مجتہد بن جائے گا نہ ہر کہ سر بتر اشد قلندر است۔ وہ ایسے زبردست محقق ہیں کہ جس مسئلہ کے متعلق وہ مزید غور فرماتے ہیں اور ان پر حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سابقہ رائے سے رجوع کر لیتے ہیں جس کی مثالیں ان کی کتب میں کئی جگہ پر موجود ہیں۔ بہر حال ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان مولانا غلام رسول سعیدی جیسی باوقار، صالح، مجتہد، علمی شخصیت موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے۔ راقم الحروف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ کے مبارک قدموں کو اپنے سر پر رکھ چکا ہے۔ شاید یہ اعزاز دنیا میں کسی کو بھی نصیب نہ ہوا ہو گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا قدم جس کے سر پر ہونا کامی اس کے مقدر میں کبھی نہیں لکھی جائے گی۔

کچھ اشاریہ کے بارے میں

مولانا آس محمد سعیدی صاحب جو کہ دارالعلوم حسنیہ کے ماہر اساتذہ میں سے ہیں اور اسی ادارہ سے ہی مکمل تعلیم حاصل کی ہے ان کی ہمت بڑے بڑے امور کو اپنی جولانگاہ بناتی ہے۔ سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر کے انہوں نے خلق خدا کی خدمت کا عظیم سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مختلف مقالات اور مضامین بھی لکھ چکے ہیں مکتبہ حسنیہ کو بھی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کے عزائم بہت بلند ہیں انہوں نے میری تحریک پر تبیان القرآن کا انڈیکس تیار کرنے کا ارادہ کیا جو بہر حال ایک محنت طلب کام تھا اور پھر گونا گوں مصروفیات کے ہوتے ہوئے یہ جان جو کھوں کا کام بن جاتا ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے کامل توجہ اور انتہائی عرق ریزی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ و مرداں جنینس کنند۔ اشاریہ کی تکمیل کے بعد کراچی جا کر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت سراہا اور اسی وقت فرید بک شال کے مالک جناب سید محسن اعجاز صاحب کو فون کر کے اس کی اشاعت کا عندیہ دیا جسے انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔ ہزاروں صفحات اور سینکڑوں عنوانات پر محیط تبیان القرآن میں مطلوبہ مواد کو تلاش کرنا یقیناً ایک مشکل ترین کام ہے اور جس کے پاس وقت نہ ہو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ مولانا آس محمد صاحب نے قارئین کی اس مشکل کو آسان تر بنا دیا ہے۔ حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے تبیان القرآن کے تمام مضامین کو ایک خوبصورت لڑی میں پرو دیا ہے۔ اب علماء، خطباء، محققین اور مطالعہ کے شوقین حضرات کے لیے متعلقہ عنوان تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں رہا۔ وہ چٹکیوں

میں اپنا مسئلہ تلاش کر کے فوری تسلی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے انہیں انٹرنیشنل سکارلر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین ﷺ

پروفیسر عون محمد سعیدی

مدیر: جامعہ حسنیہ نزد سبزی منڈی بہاول پور

25 مارچ 2008ء



جناب محترم و مکرم شیخ عبدالمالک صاحب

شیخ الحدیث مولانا مفتی غلام رسول سعیدی، عصر حاضر کے ممتاز مفسر، عظیم القدر محدث اور وسیع النظر فقیہ ہیں۔ متعدد گراں قدر علمی تصانیف ان کی باقیات الصالحات ہیں۔ خصوصاً سات جلدوں میں صحیح مسلم شریف کی شرح پیش کر کے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں علمی گہرائی، گیرائی اور احتضار میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ مختصر مدت میں ایک مثالی اور جامع علمی کتاب پیش کر دیتے ہیں۔

تفسیر کا مطالعہ کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مصنف مدظلہ العالی نے ان خصوصیات اور اصولوں کی پوری طرح پاسداری کی ہے۔ شاید وہ عصر حاضر کے ان چند مفسرین میں شامل ہیں جو ایک مسلک سے وابستہ ہونے کے باوجود مسلکی تعصب کا شکار نہیں ہوئے اور اپنے مسلک میں مصلب ہونے کے باوجود دوسرے مسلک کا بھی کما حقہ احترام کرتے ہیں۔

مصنف کی تصنیف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مسلکی مسائل میں بریلوی مسلک پر قائم رہتے ہوئے دوسرے مسلک کا احترام کرتے ہیں اور بریلوی مسلک کی توضیح اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے سے دوری کو کم کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ بے شمار علمی عنوانات پر نہایت عالمانہ انداز میں تحقیق کی گئی ہے آیات سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ جو علماء، طلباء اور عامۃ المسلمین کے لیے قیمتی معلومات اور فوائد پر مشتمل ہے۔

علمی تحقیق میں جس جرأت اور دیانت داری اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ نیز ان کی وہ علمی تحقیقات جو خالص علمی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ گراں قدر ہیں اور تمام اہل علم کی ضرورت ہیں اس لیے یہ تفسیر اس بات کی حق دار ہے کہ ہر صاحب علم کی الماری کی زینت ہو۔ مصنف نے جس تیزی سے تفسیر لکھنے کا کام شروع کیا ہوا ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاویں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس تفسیر کو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ اور ایک دوسرے سے استفادے کی بنیاد بنا دے۔ دوسرے علماء کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔

آمین (ماہنامہ ترجمان القرآن، ص ۷۰-۶۵، باب ماہ اپریل ۱۹۹۹ء، لاہور) (ماخوذ از: حیات سعید ملت، ص: ۸۵-۸۶)



استاذ العلماء علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب (ناظم تعلیمات: دارالعلوم نعیمیہ، کراچی)

الحمد لله الذي هدانا الى طريق اهل سنة وجماعة بفضلہ العظيم، والصلوة والسلام
على سيدنا محمد الذي كان على خلق عظيم وعلى اله الطيبين الطاهرين
و اصحابه المكرمين الداعين الى صراط مستقيم.

قرآن عظیم و حدیث رسول کریم ﷺ میں ارباب علم و فضل اصحاب فکر و نظر اور صاحبان عقل و تدبیر کے جو فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ کسی صاحب فہم و فراست پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات طیبہ اور حضور اکرم ﷺ نے بے شمار احادیث مقدسہ میں ان کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا ہے۔ احقر اس وقت صرف تین آیات قرآنیہ اور دو احادیث نبویہ ﷺ پر اکتفا کرتے ہوئے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. (المجادلہ ۱۱:۵۸)

اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. (الزمر ۹:۳۹)

تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا. (البقرہ ۲:۱۶۹)

اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے حکمت دے اسے بہت بھلائی ملے۔

من ير د الله به خيرا يفقهه في الدين. من ير د الله به خيرا يفقهه في الدين.

اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. ایک فقیہ ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہوتا ہے۔

ان آیات کریمہ اور احادیث سنید کی روشنی میں ایک عالم حقانی و فقیہ ربانی کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے خالق کائنات نے اس خاکدان عالم میں بے شمار مصنوعات و مخلوقات کو تخلیق فرمایا لیکن جو مقام و مرتبہ حاطین ایمان و علم کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک ایسے خادم دین اور درویش صفت شخصیت کو تلاش کرتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو ہمہ وقت خدمت دین متین کے لیے (یعنی درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے لیے) وقف کر دیا۔ جس کی زندگی جہد مسلسل اور سعی پیہم سے عبارت ہے وہ ہیں عالم شہیر محمد ثکیر نقیہ بے نظیر ابو الوفا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کو مولائے کریم نے اپنے پیارے حبیب رؤف رحیم ﷺ کے صدقے ذہانت و فراست، قوت و حافظہ ذکاوت اور تقہ فی الدین کی دولت سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے نیز یہ کہ مبداء فیاض نے علامہ موصوف کو جو زمین و قاذ طبع اخاذ مزاج نقاد اور قلم سیال کی جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ شاید یہی

وجہ ہے کہ معاصرین میں سے بعض حضرات حسد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رسول کریم ﷺ کی برکت سے موصوف جب کسی موضوع یا کسی مسئلے پر قلم اٹھاتے ہیں تو تحقیق و تدقیق اور تشریح و توضیح کا حق ادا کر دیتے ہیں بالخصوص (حوادث و نوازل) یعنی جدید مسائل جن پر ان کی شرح مسلم شریف اور تبیان القرآن شاہد عادل ہیں، موصوف ایک عالم و شارح ہی نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب بھی ہیں۔ علامہ موصوف کے مجتہدات و تحقیقات سے صرف نظر کرتے ہوئے احقر عرض کرتا ہے کہ علامہ سعیدی صاحب کی دونوں کتابیں (شرح صحیح مسلم و تبیان القرآن) حقائق و دقائق معانی و معارف کا خزینہ اور تحقیق و تخلیق کا گنجینہ ہیں۔ احقر مندرجہ بالا حروف و الفاظ اور عبارت کو اگر مجتمع کرے تو ایسی شخصیت تشکیل پاتی ہے جو علم و آگہی، فکر و نظر، ذہانت و ذکاوت، تدبر و تفکر اور تفقہ فی الدین کی جامع ہو اور یہ ہیں علامہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک ﷺ کے صدقے علامہ سعیدی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ مرحمت فرمائے۔ آمین

جمیل احمد نعیمی

استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات، دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

(ماخوذ از: حقائق شرح صحیح مسلم و دقائق تبیان القرآن ص: ۲۹-۳۱)



مولانا محمد ناصر خان چشتی صاحب

حضرت سعید ملت کی مایہ ناز اور شہرہ آفاق تصنیف لطیف ”تفسیر تبیان القرآن“ جو اب تک بارہ عظیم و ضخیم جلدوں اور جہازی سائز کے تقریباً بارہ ہزار صفحات پر مشتمل تحقیقات نادرہ و عجیبہ اور قدیمہ و جدیدہ سے لبریز عظیم علمی و فقہی انسائیکلو پیڈیا ہے۔ جس میں آیات قرآنیہ کا بے مثال، سلیس رواں اور با محاورہ اردو ترجمہ و بعدہ اس کی جامع اور مبسوط تفسیر اور تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ سے ایمان و ایقان، علم و معرفت اور مکارم و محاسن کی عظیم و بے مثال جواہر پارے و شہر پارے نکھر کر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ ان آیات مبارکہ سے بے شمار علمی و فقہی شہہ پارے تحقیق و تدقیق کے رنگ سے مزین ہو کر منصفہ وجود میں آئے، تفسیر تبیان القرآن کے ان انمول موتیوں اور لاجواب جوہر کو احاطہ تحریر و تقریر میں لانا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خصوصاً عصر حاضر کے پیچیدہ اور دقیق مسائل کا بہترین اور صائب جواب آپ کو تفسیر تبیان القرآن کے علاوہ شاید خال ہی نظر آئے۔ اس لیے ہم بانگِ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر تبیان القرآن! قدیم و جدید علمی و فقہی تحقیقات کا حسین امتزاج ہے اور یہ اس صدی کی سب سے عظیم اور بہترین تفسیر ہے، بلکہ اس صدی کا عظیم مذہبی شاہکار ہے۔

محمد ناصر خان چشتی

فاضل دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

(ماخوذ از: حیات سعید ملت، ص: ۸۷)

تاثرات

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد (ایم اے پی۔ ایچ۔ ڈی اعزازِ فضیلت)

برادرِ مزید مجدکم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! عنایت نامہ موصول ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ آپ فقیر کو جانتے پہچانتے نہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی سے فقیر کے دیرینہ مراسم ہیں وہ اہل سنت کا اثاثہ ہیں اور ان کی تصانیف اہل سنت کا سرمایہ ہیں، فقیر کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ فقط والسلام

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد

۹ شوال المکرم ۱۴۲۸ھ / ۲۱ اکتوبر ۲۰۰۷ء

۱۷/۲ سی۔ پی۔ ای۔ سی۔ ایچ سوسائٹی کراچی



محترم مولانا عبد الرشید صاحب

علامہ غلام رسول سعیدی دامت فیوضہم کی جلالت علمی کسی سے مخفی نہیں چنانچہ تبیان القرآن ان کی جلالت علمی کا ایک عظیم شاہکار ہے، موصوف نے یقیناً اس کتاب کی تصنیف میں بے پناہ عرق ریزی اور محنت فرمائی، کتاب کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، باقی تفاسیر کے مقابلے میں اس کو درج ذیل امور میں انفرادیت حاصل ہے:

- (1) کسی مسئلہ کو تشنہ نہیں چھوڑا گیا (خصوصاً دورِ حاضر کے مسائل)
- (2) بہتر اور معتد و احسن قول کی نشاندہی فرمائی اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں۔
- (3) روحِ قرآن یعنی اعجازِ قرآنی اور مقامِ محمدی ﷺ کی خوب وضاحت کی گئی۔
- (4) یقیناً احادیث مبارکہ کا ایک عظیم ذخیرہ پیش کیا گیا اور مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تفسیر بالحدیث کو اہمیت دے کیونکہ احادیث کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر یقیناً مشکل ہے۔
- (5) عموماً احادیث کی نشاندہی نمبروں کے ساتھ کی گئی اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے مدارس میں صحاح ستہ جو مروج اور مطبوعہ ہیں وہ نمبرنگ سے خالی ہیں اگر نمبرنگ کے ساتھ ساتھ مذکور کتاب کے صفحہ یا باب کو بھی لکھ دیا جاتا تو یقیناً اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوتا

اور مطلوبہ حدیث کی تلاش آسان ہو جاتی ' شاید بعد کے کسی ایڈیشن میں اس پر عملدرآمد ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مولانا عبدالرشید

انجمن مدرسہ غوثیہ ہدایت القرآن

ممتاز آباد ملتان



مولانا شیر محمد خان صاحب

محترمی و مکرمی جناب قبلہ آس محمد سعیدی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ! خیریت موجود عافیت مطلوب

آپ کا مراسلہ باصرہ نواز ہوا تبیان القرآن از شیخ الحدیث علامہ سعیدی صاحب پر تبصرہ کرنے کا حکم نامہ موصول ہوا۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اگرچہ تبیان القرآن کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، بہر حال حاصل علامہ سعیدی صاحب کے کام کے بارے اہل سنت والجماعت کی اکثریت معترف بھی نظر آتی ہے اور شکر گزار بھی اس ناچیز کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جو دل سے علامہ سعیدی صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو طویل عمر عطا فرمائے اور ہر موڑ پر آپ کی دستگیری فرمائے۔

اگرچہ بعض مسائل میں اختلاف رائے ممکن ہے، اور علماء نے اختلاف کیا بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اختلاف رائے کو خصامت کا رنگ دے دیا جائے، علمی اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہر دور میں ہوتے رہے یہ "اِخْتِلَافٌ اُمَّتِنِی رَحْمَۃٌ" کے زمرے میں آتے ہیں۔

سعیدی صاحب نے جو کچھ لکھا اس پر دلیل قائم کرنے کی سعی بلیغ فرمائی اور اپنی رائے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں بار بار التجائیں کیں کہ گرج حق ہے تو قبول فرما، یہ من جانب اللہ ہے اور خطا ہوئی تو معاف فرما، تو بڑے رقت انگیز انداز میں دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ اپنی معروضات کو پیش کیا گیا، یہ چیز خوفِ خدا پر دلالت کرتی ہے۔

اور ان کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اپنی رائے سے رجوع کرنے میں جھجک محسوس نہیں فرماتے بلکہ بڑی جرأت سے اپنی رائے سے رجوع کر لینے کی ہمت رکھتے ہیں، جب کہ یہ صفت دورِ حاضر میں بہت حد تک ناپید ہو چکی ہے، اگرچہ بعض باتوں میں بزرگوں سے اختلاف رائے کیا ہے لیکن اس میں بھی کافی حد تک محتاط انداز اختیار فرمایا، تحریر کے لب و لہجہ کو کنٹرول رکھنے کی کوشش فرمائی، لہذا ان کی فکر سے جن احباب کو اختلاف ہو وہ بھی اسی قسم کا انداز اختیار فرماتے ہوئے دلائل سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں تو بہت مناسب رہے گا۔

آپ نے بہت سارے جدید موضوعات کو صفحہ قرطاس کی زینت بنایا اور اپنی قیمتی آراء سے امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا، اسے آپ کا طرہ امتیاز بھی کہا جاسکتا ہے۔

بائیں ہمہ ناچیز کو ان کی ہر رائے سے اتفاق نہیں بلکہ بعض مقامات پر اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا اور مجال تحقیق و جستجو میں ایسا ہونا ایک مثبت اقدام ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، علماء کرام کو کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ وسعت

ظرفی کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔

ناچیز کی خواہش اور تمنا ہے کہ حضرت موصوف کو اللہ کریم توفیق ارزانی فرمائے کہ مختلف موضوعات پر ذخیرہ احادیث سے جو مواد پیش کیا جاتا ہے، اُس کی چھان بین کر کے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے قواعد جرح و تعدیل کے پیش نظر کوئی مستقل رسالہ یا کتاب اگر وجود میں آجائے وہ بہت مفید رہے گا۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبول سے نوازے۔ تاخیر ہونے پر معذرت قبول ہو۔

راقم الحروف:

شیر محمد خان

خادم دارالافتاء الحمدیہ النوشیہ، بحیرہ الشریفہ ضلع سرگودھا

۲۹ اپریل ۲۰۰۸ء



پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلٰی آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ . آمِیْن . اَمَّا بَعْدُ !

محدث عمر سعید ملت، مفسر قرآن، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ العالی بے بدل مصنف اور عظیم محقق و مجتہد ہیں۔ ویسے تو آپ کی تمام تصانیف، آپ کے تبحر علمی اور فقہی تحقیقات سے مملو ہیں، مگر آپ نے خصوصاً ”تبیان القرآن“ میں جو علم و حکمت اور علمی و فقہی تحقیقات قلم بند کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔

بلاشبہ! آپ نے تفسیر ”تبیان القرآن“ میں سینکڑوں تفاسیر قرآن کا خلاصہ و نچوڑ اور لب لباب بڑے خوبصورت، دلنشین اور سہل انداز میں پیش کر کے ایک عظیم کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ آپ مدظلہ العالی اپنی تفسیر کے انداز تحریر اور اسلوب کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”میں نے اس تفسیر (تبیان القرآن) کو متوسط طریقہ پر لکھا ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے نہ بہت اختصار ہے، مسائل حاضرہ پر میں نے بہت شرح و وسط کے ساتھ شرح صحیح مسلم میں لکھ دیا ہے، اسی طرح عبادات اور معاملات پر سیر حاصل بحث اس میں آگئی ہے، تاہم جو مسائل اور مباحث اس میں آنے سے رہ گئے ہیں ان شاء اللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ معاصرین اور عہد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے اور جہاں میری رائے ان کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی، میں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔“ (تبیان القرآن ج: ۱، ص: ۳۸-۳۹)

عصر حاضر میں تفسیر ”تبیان القرآن“ کو جو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی تسلی و تشفی کا سامان ہے جو قرآن مجید کو جدید انداز و اسلوب اور قدیم ذخیرہ سے استفادہ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں۔

بلاشبہ و شبہ تفسیر ”تبیان القرآن“ علم و معارف کا ایک بحر بے کراں ہے، جس سے مطلوبہ حکمت کے موتیوں کو تلاش کرنا، کہ وہ کون کون سی جلدوں کے کن کن صفحات پر ہیں، ایک دقت طلب اور وقت طلب معاملہ تھا، لہذا اس کا ایسا اشاریہ مرتب کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ جسے تشنگان علم کے لیے Key کی حیثیت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے کاتب الحروف کو یہ کام کرنے کی ہمت و سعادت بخشی۔

اس اشاریہ کو ترتیب دیتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے:

☆ اشاریہ مضامین کے بجائے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، کئی عنوانات، مرکبات اضافیہ کی صورت میں ہیں، ان میں سے بعض میں مضاف کا اعتبار کیا گیا ہے، مثلاً: ”بیت اللہ“، ”علم غیب“ اور ”علم دین“ بالترتیب ”با“ اور ”عین“ کے تحت درج

کیے گئے ہیں۔ بعض عنوانات مضاف الیہ کی مناسبت سے لکھے گئے ہیں مثلاً: ”غزوة احد“ ”غزوة بدر“ اور ”نماز جنازہ“ بالترتیب ”الف“ ”با“ اور ”جیم“ کے تحت درج کیے گئے ہیں جن واقعات میں متعدد اشخاص اور جگہوں کے نام آتے تھے ان میں اشخاص و مواضع کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ہی عنوان کئی جگہوں پر تحریر کیا گیا ہے۔ مثلاً ”مشرکین پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ“ کو ”مشرک“ اور ”عذاب“ دونوں کے تحت تحریر کیا گیا ہے، عنوانات ترتیب دیتے وقت زیادہ تر مشہور الفاظ کا لحاظ رکھا گیا ہے البتہ سہولت کے لیے غیر مشہور الفاظ بھی ذکر کر دیئے گئے ہیں سوائے امت محمدیہ کے بقایا تمام امتوں کا ذکر ان کے انبیاء کے ساتھ ہی کر دیا گیا ہے۔ جیسے ”قوم ثمود“ اور ”قوم عاد“ کو بالترتیب ”حضرت صالح علیہ السلام“ اور ”حضرت ہود علیہ السلام“ کے تحت درج کیا گیا ہے۔

راقم نے تمام مندرجات کی لفظی و معنوی اور حوالہ جاتی صحت کا اپنی طرف سے پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اس کے باوجود تقاضائے بشریت غلطی کا امکان رد نہیں کیا جاسکتا لہذا دوران مطالعہ کسی محترم و مکرم اہل علم و تحقیق کو کوئی قابل اصلاح چیز نظر آئے تو براہ کرم اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔

اس اشاریہ کی ترتیب و تالیف کے دوران جن جن حضرات کا تعاون شامل رہا، راقم الحروف ان سب حضرات کا تہ دل سے شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

نیز فرید بک سنال لاہور کے مالک جناب محترم و مکرم سید محمد محسن اعجاز شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے جنہوں نے اس کی طباعت و اشاعت کا اہتمام فرمایا۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس میں دعا ہے کہ وہ اس خدمت کو قبول فرماتے ہوئے راقم ناشر کمپوزر اور ہر قاری کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ طہ و یسین ﷺ

آس محمد سعیدی

(فاضل درس نظامی، فاضل عربی، فاضل اردو، بی کام، ایل ایل بی)

چیئر مین: سعیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن

گلبرگ روڈ، نزد نادرا آفس، بہاول پور

0300-6818535, 0321-6850235

15 اپریل 2008ء / ۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ



صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
776/10	آخرت میں کفار کے عذاب کی وعید	17		آ	
777/10	آخرت میں متقین کے اجر و ثواب کی بشارت	18		آثار صحابہ	1
825/10	آخرت سے ڈرانا اور اللہ کی حمد و تسبیح کرنا	19	456/3	آثار صحابہ کی حجت پر دلائل	1
825/10	آخرت میں برے کاموں کی بری اور ڈراؤنی صورتیں	20		آثار قیامت	2
324/11	آخرت چلانے والے اور گواہی دینے والے کا مصداق	21		دیکھئے "49: علامات قیامت" صفحہ 184	1
361/11	متقین کے آخرت میں احوال	22		آخرت	3
739/12	آخرت میں توبہ اور ندامت کا بے فائدہ ہونا	23		دار آخرت کا معنی	1
	آداب	4	924/1	آخرت کے لیے نیکیاں بھیجنا	2
191/8	پیری و مریدی کے آداب	1		مسلمانوں کو آخرت میں دوستی اور سفارش سے نفع	3
124/12	اپنے ماتحت لوگوں اور اولاد کو ادب سکھانا	2	599/3	مال و دولت اور شرک کے پرستاروں کی آخرت میں محرومی	4
	حضرت آدم علیہ السلام	5	116/7	پہاڑوں کو چلانا۔ زمین کا صاف میدان ہونا	5
337/1	آدم کی لفظی تحقیق	1	723/7	آخرت میں کفار کی اقسام	6
337/1	حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل	2	726/7	آخرت میں مؤمنوں کے انعامات	7
337/1	حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ	3	915/7	آخرت میں کفار کے چار اوصاف	8
338/1	حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم	4	916/7	آخرت میں حساب کے متعلق احادیث	9
339/1	حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ	5	356/8	آخرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی	10
349/1	آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رکھا گیا یا زمین کے کسی باغ میں؟	6	357/8	آخرت میں مسلمانوں کی اولاد کی نفع رسانی	11
345/1	حضرت آدم علیہ السلام کا کجی سے کھانا معصیت تھا یا نہیں	7	65/9	عقیدہ آخرت کی تعلیم	12
351/1	حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتیں	8	115/9	دار آخرت کا حقیقی زندگی ہونا	13
			219/9	آخرت پر یقین کا معنی	14
			338/9	مؤمن اور فاسق کا آخرت میں مساوی نہ ہونا	15
			579/10	آخرت کی طرف رغبت کی فضیلت	16

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
9	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات	352/1	26	حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور توبہ کرنا	83/4
10	حضرت آدم علیہ السلام کو دوبار نیچے اترنے کا حکم دینے کی توجیہ	357/1	27	حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتہ اور دائی بننے کی طمع پر اعتراضات اور ان کے جوابات	85/4
11	عصمت آدم علیہ السلام پر حشویہ کے اعتراضات کے جوابات	357/1	28	حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوع سے کھانا	85/4
12	قصہ آدم و ابلیس میں حکمتیں	361/1	29	حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب	91/4
13	حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت	125/2	30	حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا اپنے بیٹے کا نام	489/4
14	حضرت آدم و عیسیٰ علیہ السلام میں وجوہ مماثلت	186/2	31	عبدالرحمان رکھنا	489/4
15	حضرت آدم علیہ السلام سے محمد عربی ﷺ تک کا زمانہ	143/3	32	بنو آدم کے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے کا معنی	604/4
16	حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح	58/4	33	نسیان کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب نہ ہونا	484/7
17	حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق	59/4	34	حضرت آدم علیہ السلام کا اولوالعزم رسول نہ ہونا	484/7
18	حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا مشاہدہ کرانا	60/4	34	ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام سے عداوت کی وجوہ	487/7
19	حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش	61/4	6	آزر	
20	حضرت آدم علیہ السلام کا محمد عربی ﷺ کے وسیلہ سے دعا کرنا	62/4	1	آزر کے متعلق مختلف اقوال	553-558 3
21	حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کیلئے حضرت حوا کی تخلیق	63/4	2	آزر کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی توجیہ	275/5
22	حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری	64/4	3	قیامت کے دن آزر کی شفاعت کی توجیہ	275/5
23	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات	64/4	4	آزر کو شیطان سے متفر کرنے کی وجہ	283/7
24	حضرت آدم علیہ السلام کا برزخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مباحثہ	64/4	5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر کیلئے دعا کی توجیہ	351/8
25	حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس سے افضل ہونا	69/4	6	قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر سے ملاقات	352/8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	آسمان کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور	3	353/5	قیامت کے دن آزر کی شفاعت	7
602/3	توحید پر دلائل		354/8	آزر کو دوزخ میں ڈالنے پر خلف و عدو وعید	8
155/4	آسمان کو سات دنوں میں بنانا	4		آزمائش	7
876/5	آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں	5	337/5	اللہ تعالیٰ کے آزمانے پر ایک اعتراض کا جواب	1
225-226 6	آسمان کی تبدیلی کے متعلق اقوال وغیرہ	6		میدان قیامت میں بچوں اور دیگر کا امتحان ہونا	2
529/7	آسمان بنانے کی حکمتیں	7	671/6		
545/7	آسمان کے فتح اور رقیق کا معنی	8	43/7	انسان کو امتحان میں جلا کرنا	3
554/7	آسمان کی حفاظت	9	558/7	اچھی اور بُری دونوں حالتوں میں آزمانا	4
150/9	آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات	10	648/7	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں جلا کرنا	5
	آسمانوں کا گول اور ایک دوسرے سے منفصل ہونا	11	114/10		
236/9			228/8	اہل نعمت و اہل مصیبت کی آزمائش	6
	آسمان سے اترنے اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں	12	40/9	رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آزمائش	7
597/9			41/9	سابقہ امتوں کی آزمائشیں	8
697/9	آسمانوں کی حفاظت فرمانا	13	175/11	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا مطلب	9
860/9	آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا	14	919/11	اہل و عیال کا آزمائش ہونا	10
561/10	آسمانوں کی چابیوں کے محال	15		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا	8
761-765 10	آسمان کا دھواں لانے سے کیا مراد ہے؟	16		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا راہِ حق میں مظالم برداشت کرنا	1
906/11	آسمان کے خزانے	17	132/12		
912/11	آسمان کا زبانِ قائل سے تسبیح کرنا	18		حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	2
385/11	آسمان کی بناء کو متعدد بار ذکر کرنے کی حکمت	19	132/12		
712/12	آسمان میں نشانیاں	20		آسمان	9
676/12	آسمان کو ذات المرجع فرمانے کی توجیہات	21	446/3	آسمان پر سیرگی لگانے کا معنی	1
515/12	آسمان کے دروازوں کا ثبوت	22	541/3	آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
351/7	نقش نعل پاک پر آیت لکنا	5		آغاز	10
853/8	ایک آیت دو بار ذکر کرنے کی وجہ	6		دیکھئے ”11:ابتداء“ صفحہ 52	1
81/12	سب سے زیادہ امید افزاء آیت	7		آگ	11
	آیۃ الکرسی / کرسی	16		آگ کے اوپر تلے حصوں کو آگ کے	1
926/1	آیۃ الکرسی کے مفردات و جملوں کی تشریح	1	206/10	سابان کہنے کی توجیہ	
928/1	آیۃ الکرسی کے فضائل	2	680/11	آخرت کی آگ کی شدت	2
928/1	کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق	3		آل	12
929/1	کرسی کا معنی	4	397/1	آل کا لغوی معنی	1
929/1	چارزانو بیٹھنا	5	398/1	حضور ﷺ کی آل کے مصداق	2
	آیت تطہیر	17		آمین	13
437/9	آیت تطہیر کے مصداق	1	217/1	آمین کا معنی	1
437/9	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کا مراد ہونا	2	218/1	نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ	2
438/9	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	3	219/1	آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث	3
			219/1	آمین بالجبر کے متعلق احادیث	4
			220/1	آمین بالسر کے متعلق احادیث	5
			221/1	آمین کا قرآن کی جزء ہونا	6
				آنکھ	14
520/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام	1		آنکھوں کی خیانت	1
541/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشی کلمات	1	339/10	آیت	15
543/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مطلق ذریت کیلئے دعا کرنے کی وجہ	2		سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت	1
547/1	مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق	3	93/1	سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت	2
547/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مسلمان کرنے کی دعا	4	784/6	حقدین کی پسندیدہ آیات	3
547/1	فقط اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا	5		علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی پسندیدہ آیات	4
548/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی تعلیم	6	784/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
565/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے ملکوت کا بیان	21	548/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عظیم رسول کی بشت کی دعا کی؟	7
567/3	ستارے، چاند اور سورج کی الوہیت کے عقیدہ کو باطل کرنا	22	552/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح	8
567/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو "بہدا ربی" کہنا	23	561/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین یہودیت و عیسائیت پر نہ ہونا	9
568/3	استدلال سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا	24	587/1	دعائے ابراہیم میں تزکیہ کا مؤخر جبکہ دعائے استجابت میں مقدم ہونا	10
568/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مباحثہ	25	939/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا پس منظر	11
572/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا تسلسل	26	941/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل	12
614/7	حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی اولاد میں ذکر نہ کرنے کی وجہ	27	943/1	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیات بعد الممات کا مشاہدہ کرانا	13
573/3	نواسوں کا اولاد میں داخل ہونا	28	193/2	آپ علیہ السلام کی طرف یہود و نصاریٰ کی نسبت کا باطل اور مسلمانوں کی نسبت کا برحق ہونا	14
574/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کی تعداد	29	267/2	مقام ابراہیم کی نشانیاں	15
582/5	فرشتوں کے سلام کے الفاظ	30	809/2	ظلیل کا معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظلیل اللہ ہونا	16
583/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے کی وجوہ	31	811/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد ﷺ کے مقام خلعت کا فرق	17
589/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے فرشتہ ہونے کا علم تھا یا نہیں؟	32	552/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام وغیرہ	18
590/5	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ	33	562-565/3	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات	19
591/5	فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مباحثہ	34	212/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابوین کا ایمان والا ہونا	20
594/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح سرائی	35			
595/5	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تشریح	36			
211/6					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
70/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی اعتبار کی ترغیب	54	199/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غیر آباد وادی میں اپنے اہل کو چھوڑنے کا پس منظر و پیش منظر	37
329/8 897/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	55		حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے کی وجوہ	38
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت	56	281/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر جمیل کا جاری رہنا	39
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب پرستی	57	286/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانا	40
899/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتروں کی طرف دیکھنے کا محل	58	602/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانا	41
899/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کو بیمار کہنے کا پس منظر	59	603/7	بتوں کو توڑنے کی بڑے بت کی طرف نسبت	42
898/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر تین جھوٹ	60	608/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا خود کو ظالم کہنا	43
901/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ”میں بیمار ہوں“ کہنے کی توجیہات	61	608/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا	44
914/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹا طلب کرنا	62	609/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟	45
904/9	کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بیماری کو طاعون سمجھا تھا؟	63	613/7 68/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت فرمانا	46
909/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش میں جلا کرنے کی حکمتیں	64	811/7	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کا باپ فرمانا	47
926/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سچا ہونا	65	343-346 8	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت طلب کرنا	48
911/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولین مہاجر ہونا	66	349/8	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مطلوب	49
380/11	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے مکالمہ	67	329/8	قوم کا معنی اور مصداق	50
	ابرار	2	611/7 66/9, 908/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	51
	دیکھئے ”48: نیک لوگ“ صفحہ 275	1		حضرت لوط علیہ السلام و سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا	52
	امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ	3	67/9	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت	53
			69/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فضل الامت ہونا	15		امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق، زہد و تقویٰ، عبادت اور خوفِ خدا	1
720/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں احادیث و آثار	16	432/5		4
793/12				حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	
	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پر دلیل	17	209/2	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شمار کی وضاحت	1
245/11			496/2	تصدیقِ معراج کا صلہ	2
	آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سورۃ اللیل کا نزول	18	720/2	خصوصیات و فضائل	3
787/12			215/3	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت	4
	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کتب شیعہ کی تصریحات	19	217-220 3	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل	5
802/12				حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلان برأت کرنا خلافتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں وجہ طعن نہیں ہے	6
	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا	20	52/5		
791/12			69/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نعمین زکوٰۃ سے قتال	7
	ابولہب	5		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار ثور میں رفاقت	8
	ابولہب کا نام اور رسول اللہ ﷺ سے اس کی عداوت	1	137/5		
1029/12			140/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کی وجوہ	9
1030/12	ابولہب کی عبرت ناک موت	2	427/5	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ اور خوفِ خدا	10
1030/12	ابولہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام	3		حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمانوں کی حدیث سے استنباط شدہ مسائل	11
1032/12	ابولہب کی بیوی کی مذمت	4	887/7		
1032/12	ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید	5		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی منفرد فضیلت و خصوصیت	12
	ابلیس	6	87/11		
	دیکھئے "34: شیطان" صفحہ 157	1		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک اعتراض کا جواب	13
	ابوجہل	7	92/11		
884/12	ابوجہل کی مذمت	1		فقہاء مہاجرین کا صادق ہونا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے صادق ہونے کو مستلزم ہے	14
885/12	ابوجہل کے لیے عذاب کی وعید	2			
	ابرہہ	8	816/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
425/5	نجات اور نجاتیہ وغیرہ کی تعداد	4	981/12	پرنڈوں سے ابرہہ کے لشکر کو فنا کرنا	1
	سورۃ ابراہیم	13		اصحاب الفیل سے انتقام لینے میں رسول اللہ ﷺ کی فضیلت کے نکات	2
127/6	سورۃ کانام	1	982/12		
127/6	سورۃ ابراہیم کا زمانہ نزول	2	983/12	ابرہہ کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی کم درجہ ہونا	3
	سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم کی آپس میں مناسبت	3		حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ	9
128/6				حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا موجودہ قرآن کے خلاف پڑھنا اور اس کی توجیہات	1
128/6	سورۃ ابراہیم کے مضامین و مقاصد	4	780-782 12		
228/6	سورۃ ابراہیم کا اختتام	5		حضرت ابوطالب	10
	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ	14	425-429 3	ایمان ابوطالب کی تحقیق	1
	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو تمام مغازی میں خلیفہ بنانا	1	271/5	ابوطالب کا مرتے وقت کلمہ نہ پڑھنا	2
295/4			271/5	ابوطالب کے ایمان کے متعلق ایک روایت	3
566/12	حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ	2	839/8	ایمان ابوطالب کے متعلق آیات و احادیث	4
	رسول اللہ ﷺ کا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے اعراض کرنے کی وجہ	3	839/8	ایمان ابوطالب کے متعلق مفسرین اہلسنت کی تصریحات	5
576/12				ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پر مختلف علماء کے تبصرے	6
	اجر/اجرت	15	841-844 8		
584/2	تعلیم قرآن و دیگر عبادات پر اجرت لینا	1		ابتداء	11
822/2	فقط دنیاوی اجر کی مذمت	2			
	دس گنا، سات سو گنا اور بے حساب اجر کے حامل	3	703/8	براہم کام کی ابتداء بسم اللہ، الحمد للہ اور صلوة و سلام سے کرنا	1
699/3				ابدال	12
820/5	کسی چیز کو ڈھونڈنے کی اجرت کی تحقیق	4		ابدال کے متعلق احادیث و آثار اور ان کی فنی حیثیت	1
236/7	نیک کاموں کے ظہور پر خوش ہونے کا اجر	5	421/5		
630/7	ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینا	6	423/5	احادیث ابدال کا معنا متواتر ہونا	2
634/7	موشیوں کو گھیا بھن کرنے کی اجرت لینا	7	425/5	احادیث ابدال کی مزید توثیق	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
630/7	لاؤڈ سپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنے کے متعلق اجتہاد	14	786-788 7	اللہ کی راہ میں مقتول اور طبی موت مرنے والے کا اجر	8
630/7	روزہ کی حالت میں انجکشن لگوانے کے متعلق اجتہاد	15	371/8	مواعظ اور خطابات پر اجرت لینا	9
630/7	اجتہاد		795/8	اجرت لے کر کام کرنے کا جواز	10
630/7	ریڈیو اور ٹی وی کی مرمت کی اجرت لینے کے متعلق اجتہاد	16	678/9	اللہ تعالیٰ کا زیادہ اجر عطا فرمانا	11
630/7	اجتہاد			حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مادی اجر کی نفی کی ہے	12
631/7	حالت اضطرار میں مریض کو خون دینے کے متعلق اجتہاد	17	460/11		
631/7	اجتہاد		86/12	دودھ پلانے کی اجرت لینا	13
631/7	ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک دواؤں کے استعمال کے متعلق اجتہاد	18		اجتہاد	16
631/7	اجتہاد		476 478-482/3	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اجتہاد	1
633/7	بعض دیگر مسائل اجتہادیہ	19	477/3	صحابہ کرام کا اجتہاد	2
633/7	ائمہ اربعہ کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا معنی	20		آپ ﷺ کا وحی کی اتباع کرنا اجتہاد کے معنی نہیں ہے	3
603/8	اجتہاد کی تعریف	21	478/3	اجتہاد کی تعریف	4
553/10	رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنے کی تحقیق	22	35/6	اجتہاد کا لغوی و اصطلاحی معنی	5
554/10	عہد رسالت میں اجتہاد کے ثبوت پر دلائل	23	35/6	اجتہاد پر ایک اعتراض کا جواب	6
483/11	رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد کی تحقیق	24		اجتہاد کا اجتہاد	7
483-487 11	رسول اللہ ﷺ کے اجتہاد میں مذہب فقہاء	25	627/7	انبیاء علیہم السلام کا اجتہاد	8
807/11	صحابہ کے اجتہاد کی تصدیق	26	627/7	عصر حاضر میں اجتہاد کرنے کی تحقیق	9
	اجماع	17	628/7	ضرورت اجتہاد	10
456/3	اجماع کی حجیت پر دلائل	1	628/7	مجتہد کی ضرورت	11
432/4	اجماع کے حجت ہونے پر دلائل	2	629/7	طبقات فقہاء	12
			629/7	چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کے متعلق اجتہاد	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				اجازت	18
353/9	غزوہ احزاب میں وقوع پذیر ہونے والے معجزات	3		تین اوقات میں گھر میں دخول کیلئے اجازت لینا	1
388/9	غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر اللہ کا خصوصی فضل	4	183/8		
			184/8	اجازت کا حکم منسوخ ہے یا باقی؟	2
				سورۃ الاحقاف	19
400/9	غزوہ احزاب اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کے محال	5	35/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	احوال آخرت	22	35/11	الاحقاف کا معنی	2
			102/11		
	دیکھئے ”3: آخرت“ صفحہ 45	1	36/11	الاحقاف کا محل وقوع	3
	احسان	23	36/11	سورۃ الاحقاف کا زمانہ نزول	4
553/6	احسان کا معنی	1	36/11	سورۃ الاحقاف کے اغراض و مقاصد	5
555/6	احسان اور عدل میں فرق	2	121/11	سورۃ الاحقاف کا خاتمہ	6
	احکام شریعت	24		سورۃ الاحقاف کی آیت: ۳۵ منسوخ ہے یا نہیں؟	7
641/2	احکام شریعیہ پر عمل	1	120/11		
642/2	شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے	2	$\frac{55-68}{11}$	سورۃ الاحقاف کی آیت: ۹ کا منسوخ ہونا؟	8
765/2	احکام شریعیہ کا مدار	3			
804/7	احکام شریعیہ کی اقسام	4	349/9	سورۃ الاحزاب	20
	جب عزیمت پر عمل کرنا مشکل ہو تو رخصت پر عمل کرنا فرض ہے	5	349/9	سورۃ الاحزاب کا نام	1
807/7			350/9	سورۃ الاحزاب کا زمانہ نزول	2
820/7	احکام شریعیہ کی تعداد، تعریفات اور مثالیں	6		سورۃ الاحزاب کے مشمولات	3
821/7	فرض و واجب کی تحقیق	7	403/9	سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہما کی شہادت سے ملنا	4
822/7	سنت مؤکدہ کی تحقیق	8	587/9	سورۃ الاحزاب کا اختتام	5
823/7	سنت غیر مؤکدہ کی تحقیق	9		غزوہ احزاب	21
824/7	مستحب کی تحقیق	10	351/9	غزوہ احزاب کا مختصر ذکر	1
825/7	حرام اور مکروہ تحریمی کی تحقیق	11	352/9	غزوہ احزاب میں قضا ہونے والی نمازیں	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
498/2	احد کی ہزیمت پر مسلمانوں کو تسلی	9	826/7	اساءت کی تحقیق	12
	اختلاف	27	827/7	مکروہ تنزیہی کی تحقیق	13
290/2	عقائد حقہ میں اختلاف کی ممانعت	1	828/7	خلاف اولیٰ کی تحقیق	14
	باہمی بغض، حسد اور عصبیت کی وجہ سے	2	829-831 7	مباح کی تحقیق	15
291/2	اختلاف		374/8	احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہیں	16
294/2	فرعی واجتہادی مسائل میں اختلاف	3	122/10	مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کا گناہ نہ ہونا	17
307/2	بنی اسرائیل کے اختلاف کی مذمت کا سبب	4		احکام شرعیہ پر عمل کرنے پر ثواب کی بشارت	18
708-709 2	دلائل کی بناء پر اکابر سے اختلاف	5	89/12	اور تا فرمائی پر عذاب کی وعید	
649/4	اختلاف رائے کی بناء پر مخالفت	6	388-395 12	کیا کفار احکام شرعیہ کے مخاطب ہیں؟	19
	مسائل فقہیہ میں آئمہ مجتہدین کے اختلاف	7		احصار	25
296/5	کے اسباب		730/1	احصار کی تعریف	1
	اختلاف کے مذموم ہونے کے باوجود	8	731/1	احصار کے متعلق مذاہب اربعہ	2
652/5	مجتہدین کے اختلاف کا محمود ہونا		733/1	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کا تعین	3
	اختیارات	28		ضرورت کی وجہ سے منیٰ میں پہنچنے سے پہلے	4
111/7	اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں	1	734/1	سرمنڈوانا	
	اخلاص	29		غزوہ اُحد	26
396/2	اخلاص کا بیان	1	334/2	غزوہ اُحد کا مختصر تذکرہ	1
95/4 280/6	اخلاص کا معنی	2	336/2	غزوہ اُحد کے لیے صحابہ سے مشورہ	2
95/4	قرآن میں اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم	3	337/2	غزوہ اُحد کے متعلق احادیث	3
95/4	عمل میں اخلاص کے فوائد	4	401/2	غزوہ اُحد میں مسلمانوں کی پسپائی	4
97/4	عمل میں اخلاص نہ ہونے کا نقصان	5	403/2	مسلمانوں کو غم اٹھانے کا عادی بنانا	5
99/4	اخلاص سے کیا ہوا کم عمل	6	407/2	بھاگنے والے مسلمان	6
281/6	کیا چیز اخلاص کے منافی ہے؟	7	408/2	مسلمانوں کی خطا	7
281/6	اخلاص کے مراتب و درجات	8	455/2	چند شبہات کے جوابات	8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ادب مصطفیٰ ﷺ	31		دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کیلئے عبادت کرنا اخلاص ہے لیکن کامل اخلاص اللہ کی رضا جوئی ہے	9
275/11	نبی ﷺ کے قول و فعل پر اپنے قول و فعل کو مقدم کرنے کی ممانعت	1	282/6		
	حضور ﷺ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بولنے کی ممانعت	2	283/6	اخلاص کے متعلق قرآن مجید کی آیات	10
275/11			283/6 235/7	اخلاص کے متعلق احادیث و آثار	11
	بلند آواز سے بولنے کو دو مرتبہ منع کرنے کے الگ الگ محمل	3	284/6	اخلاص کے متعلق صوفیاء اور مشائخ کے اقوال	12
276/11				دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کرنا بھی اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے	13
	اپنی ضرورت اور آپ ﷺ کی نعت کے کلمات کو آپ ﷺ کے سامنے بلند آواز سے پڑھنے کا جواز	4	285/6	کیا اصحاب اخلاص کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا؟	14
276/11			289/6		
	رسول اللہ ﷺ کے سامنے آواز پست رکھنے والے صحابہ	5	234/7 116/9 166/10	اخلاص کا لغوی و اصطلاحی معنی	15
278/11			908/12		
	رسول اللہ ﷺ کو حجروں کے باہر سے ندا کرنے والوں کے مصداق	6	116/9	مومن اور کافر کے اخلاص میں فرق	16
279/11					
	ادب	32	166/10	اخلاص کی حقیقت	17
	دیکھئے "4: آداب" صفحہ 45	1		اخلاص کی ترغیب اور ترہیب کے متعلق احادیث	18
	حضرت ادریس علیہ السلام	33	166/10		
	حضرت ادریس علیہ السلام کی سوانح	1	168/10	اخلاص کے متعلق اقوال علماء	19
290/7				اخلاص کی اہمیت	20
	حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے یا چھٹے آسمان پر ہونا	2	951/12		
293/7				سورۃ الاخلاص	30
	حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہونا	3	1034/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
293/7				سورۃ الاخلاص کے فضائل	2
	حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھانا اور ان کی زندگی	4	1034/12		
294/7			1039/12	سورۃ الاخلاص کا خلاصہ	3
	حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق قول فیصل	5	1041/12	سورۃ الاخلاص کی تکمیل	4
295/7					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ	6
420/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر زیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ	9	653/7	اذان	34
				اذان کی ابتداء	1
422/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو دگنا اجر عطا فرمانا	10	225/3	کلمات اذان	2
			226/3	اذان کا جواب	3
423/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باہمی فضیلت	11	229/3	دعا بعد الاذان	4
			229/3	اذان کی فضیلت	5
437/9	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مراد ہونا	12	230/3	اذان کی فضیلت میں احادیث	6
			496/10	اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا	7
445/9	ازواج مطہرات کا احادیث کو پہنچانا	13		مسجد میں اذان دینے کا شرعی حکم	8
515/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حق مہر آیا نبی ﷺ پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟	14	497/10	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن	35
520/9		15	499/10	حضور ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بیان	1
				تعداد ازواج کا آپ ﷺ کی خصوصیت ہونا	2
530/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے متعلق دل میں برا خیال لانا بھی قابل مواخذہ ہے	16	558/2	آپ ﷺ کے تعداد ازواج کی تفصیل وار حکمتیں	3
529/9	نبی ﷺ کی ازواج دنیا و آخرت میں آپ ﷺ کی ازواج ہیں	17	559/2	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے نمونوں کی مائیں ہونے کی وضاحت	4
528/9	ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے بات کرنے کا حکم	18	559-566/2	حضور علیہ السلام کا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن عنہن کو طلاق کا اختیار دینا	5
119/12	کیا کوئی خاتون ازواج مطہرات سے افضل ہو سکتی ہے؟	19	382/9	طلاق کا اختیار دینے کا سبب اور اس کی نوعیت	6
122/12	رسول اللہ ﷺ کے ایک ماہ ازواج سے ناراض رہنے کی وجہ	20	414/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی تفصیل	7
123/12	ازواج مطہرات کو دنیا و آخرت میں اختیار دینے کا سبب	21	415/9	ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مقام بیان فرمانا	8
119/12	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کی ناراضگی	22	417/9		
			419/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
544/2	اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز	11		استغفار	36
809/2	دین اسلام کا برحق ہونا	12	384-390 10	حضور ﷺ کو استغفار کا حکم دینے کی توجیہ	1
567/2	مہر مقرر کرنا مذہب اسلام کی خصوصیت ہے	13	748/10	استغفار کے متعلق احادیث صحیحہ	2
65/3	دین اسلام کے احکام کا بتدریج نزول	14	749/10	والدین اور اعزہ کے لیے استغفار	3
66/3	اسلام کا کامل دین ہونا	15	750/10	استغفار کو لازم رکھنے کے متعلق احادیث صحیحہ	4
280/3	اسلام معتدل، بہل اور دین فطرت ہے	16	365/11	طلب مغفرت کے لیے وقت سحر کی خصوصیت	5
648/3	اسلام کے لیے شرح صدر کی علامت	17	367/11	استغفار کے کلمات اور اس کی فضیلت	6
	جن علاقوں میں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا وہاں	18	356/12	اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا	7
655/3	کے باشندوں کا حکم			استغفار کی فضیلت میں آیات، احادیث و آثار	8
	اسلام کی نعمت سے عرب کے مخالف دھڑوں	19	250/12		
686/4	کا باہم شیر و شکر ہو جانا		285/12	استغفار کرنے سے دنیا و آخرت کی نعمتوں کا ملنا	9
126/5	تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ	20	1020-1023 12	رسول اللہ ﷺ کے استغفار کے محال	10
481/5	اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا	21		اسلام	37
	جس کے اسلام لانے کا اللہ نے نون نہیں دیا	22	716/1	اسلامی تقویم	1
132/6	اس کے اسلام لانے میں اس کا کیا قصور ہے؟		687/1	اسلام دین یسر ہے	2
	اسلام کی نشر و اشاعت آپ ﷺ کی تعلیم	23	752/1	دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت	3
132/6	سے ہوئی یا دلائل سے؟		931/1	دین اسلام میں جبر نہیں ہے	4
402/6	اسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرنا	24	91,237/2 458/5 450/9	اسلام کا معنی	5
651/6	اسلام سب سے مستحکم دین ہے	25	309,381/11		
569-571	اسلام کے خلاف یہودی کا اعتراض اور اس	26	237/2	اسلام قبول نہ کرنے کے نقصانات	6
10	کا جواب		256/2	اسلام میں احکام کا آسان ہونا	7
	دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ	27	283/2	دین اسلام پر استقامت کے ذرائع	8
	جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ		288/2	تاحیات اسلام پر قائم رہنے کا حکم	9
823/10	مکلف ہیں یا نہیں؟		473/2	دین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی	10

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
38	استاذ				
1	استاذ کا ادب و احترام	181/7	1	نظمی صدقہ میں کیا چیز اسراف ہے اور کیا نہیں؟	672/3
2	استاذ کی تعظیم اور حقوق کے متعلق آیات	255/9	2	تہذیب کا معنی	698/6
3	استاذ کی تعظیم اور حقوق کے متعلق احادیث	258/9	3	مبذریں کو شیطان کا بھائی فرمانا	698/6
4	استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت کے دلائل	262/9	4	جو لوگ فضول خرچی نہیں کرتے	270/8
5	استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق فقہاء اور علماء کے اقوال	259/9	5	اسراف کا محمل	596/10
39	حضرت اسماعیل علیہ السلام		6	لذت و آسائش کے لیے مال خرچ کرنا اسراف نہیں ہے	596/10
1	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	202/6	41	اسرائیلی روایات	
2	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات	279/7	1	اسرائیلی روایات کا رد علامہ زفشری سے	99/10
3	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ	653/7	2	اسرائیلی روایات کا رد امام رازی سے	100/10
4	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا	915/9	3	اسرائیلی روایات کا رد علامہ ابوالحیام اندلسی سے	101/10
5	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر و پیش منظر	916/9	4	اسرائیلی روایات کا رد علامہ اسماعیل حقی سے	102/10
6	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈے کا مصداق	917/9	5	اسرائیلی روایات کا رد علامہ آلوسی سے	103/10
7	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	918-922/9	42	اسماء مصطفیٰ ﷺ	
8	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے سے محفوظ رہنا	923/9	1	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ	331/7
9	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والد اور بھائی سے منفصل کرنے کی توجیہ	126/10	2	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کے معانی	334/7
40	اسراف		3	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کی تعداد	333/7
			4	رسول اللہ ﷺ کے اسماء مبارکہ کے متعلق علماء کی تحقیق	337/7
			5	نقش نعل پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا	351/7
			6	نبی ﷺ کے اسماء اور آپ ﷺ کی صفات	503/9
			7	اسم محمد (ﷺ) کی تشریح و تحقیق	127/11
			8	نام محمد (ﷺ) کے فضائل و خصوصیات	127/11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
480/10	صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے استقامت کی تفسیر	6	128/11	آپ ﷺ کا نام محمد ہونا آپ ﷺ کے کمال مطلق ہونے کی دلیل ہے	9
481/10	استقامت کے حصول کا دشوار ہونا	7	130/11	نام محمد (ﷺ) وصف اور علمیت کا جامع ہے	10
	حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ	46	131/11	اسم محمد (ﷺ) کی خصوصی عظمتیں	11
553-556	حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی شکایات کی توجیہات	1		استمناء بالید	43
9			855/7	استمناء بالید کا شرعی حکم	1
	استخارہ	47		اسماء باری تعالیٰ	44
59/3	استخارہ کرنے کا طریقہ	1	157/1	اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھنے اور پڑھنے کے آداب	1
851/8			424/4	اللہ کے اسماء حسنیٰ کا معنی	2
59/3	درپیش مہم کے وقت استخارہ کرنا	2	425/4	اسم مسمی کا عین ہے یا غیر	3
850/8	استخارہ کے متعلق احادیث	3	426/4	اللہ تعالیٰ کے اسماء کا توفیقی ہونا	4
	اسم اعظم	48	428/4	اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء کی تفصیل	5
429/4	اسم اعظم کی تحقیق	1	430/4	اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کی تفصیل	6
482/7	اسم اعظم کے متعلق احادیث	2	133/6	لفظ اللہ کے نام ہونے پر دلائل	7
	اسباب	49	435/7	اسماء حسنیٰ کا بیان	8
224/8	رزق اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے اسباب تلاش کر کے اختیار کرنا	1		اللہ تعالیٰ کے نام کے نقص اور عیب سے پاک ہونے کی وجوہ	9
226/8	ترک اسباب کیسا؟	2	683/12		
853/8	اسباب معیشت کی نعمتیں	3		استقامت	45
	اسماء حسنیٰ	50	639/5	استقامت کا لغوی و شرعی و عرفی معنی	1
	دیکھئے "44: اسماء باری تعالیٰ" صفحہ 60	1	640/5		
	استعانت / استمداد	51	479/10	صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی	2
	دیکھئے "33: مدد حاصل کرنا" صفحہ 236	1	436/10	استقامت کا معنی اور اس کی اہمیت	3
	استنجاء	52	437/10	استقامت کو استغفار پر مقدم کرنے کی توجیہ	4
261/5	پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کی فضیلت	1		نبی کریم علیہ التحیۃ والسلام سے استقامت کی تفسیر	5
			479/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
307/6	اصحاب الایکہ کا معنی و مصداق	1		اصحاب الاخدود	53
308/6	اصحاب الایکہ کا ظلم اور ان سے اللہ کا انتقام لینا	2	652/12	اخدود کا معنی	1
	اطاعت	58	652/12	اصحاب اخدود کے واقعہ کی تفصیل	2
164/6	فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے ملک میں آباد کرنا	1	657/12	خندق کھودنے والوں کا انجام	3
				اصول فقہ	54
164/8	کتاب، سنت اور حکام مسلمین کی اطاعت	2	189/9	مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	1
288/8	اختیاری اطاعت اور جبری اطاعت	3	252/9	لفظ عام سے عموم و خصوص مراد لینے کا ضابطہ	2
649/8	شیخ، امام یا امیر کی اطاعت کا ضروری ہونا	4		اصول حدیث	55
	شرک و معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم	5	677/8	خبر واحد اور خبر متواتر کی تعریف و احکام	1
45/9				اصحاب کہف	56
45/9	والدین کی اطاعت کے متعلق احادیث	6	48/7	اصحاب کہف کے واقعہ کا شان نزول	1
150/9	ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے	7	49/7	اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کی سوانح	2
919/11	ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے	8	56/7	اصحاب کہف کی دعا	3
958/12	اطاعت میں کثرت طلب کرنا	9	63/7	اصحاب کہف کا کھڑا ہونا	4
	اطمینان	59	65/7	اصحاب کہف کے جسم کی حفاظت	5
573/10	اطمینان سے کام کرنے کی فضیلت	1	67/7	اصحاب کہف کا کروٹیں بدنا	6
	اعتکاف	60	70/7	اصحاب کہف کا نیند سے اٹھنا	7
704/1	اعتکاف کا معنی مع اقسام	1		اصحاب کہف اور ان کے شہر والوں کے درمیان ماجرا	8
704/1	اعتکاف کی شرائط	2	76/7	اصحاب کہف کی صحیح تعداد	9
704/1	اعتکاف کے آداب	3	84/7	اصحاب کہف کے اوصاف	10
705/1	اعتکاف کے مفادات	4	85/7	غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت	11
705/1	اعتکاف کے ضروری مسائل	5	93/7	آیا اصحاب کہف زندہ ہیں یا نہیں؟	12
	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	61	93/7	اصحاب الایکہ	57

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اقامت	67	142/1	اعوذ باللہ کے مفردات و اعراب کا بیان	1
22/3	کلمات اقامت	1	143/1	اعوذ باللہ کو نماز و غیر نماز میں پڑھنا	2
	اقرار	68	571/6	قرآن کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ پڑھنا	3
596/10	اقرار کا محمل	1		سورۃ الاعلیٰ	62
	اللہ تعالیٰ	69	681/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
148/1	لفظ اللہ کا معنی اور اس کا وصف و علم ہونا	1	681/12	سورۃ الاعلیٰ کے مشمولات	2
	اللہ تعالیٰ کے اسماء کو لکھنے اور پڑھنے کے	2	703/12	سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر کا اختتام	3
162/1	آداب			اعتبار	63
169/1	رب کا لغوی و شرعی معنی	3	806/11	اعتبار کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
171/1	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	4		سورۃ الاعراف	64
177/1	اللہ، رب، رحمان و رحیم میں وجہ ارتباط	5	27/4	سورۃ کا نام	1
	اللہ کے کلام کے قدیم ہونے پر اعتراض اور	6	28/4 144/4	الاعراف کا معنی و مصداق	2
282/1	اس کا جواب			سورۃ الاعراف کی آیتوں کی تعداد اور ان کی	3
	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو ممکنات کے ساتھ	7	30/4	صفات	
282/1	مکلف کرنا		31/4	سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول	4
283/1	محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنا	8	31/4	سورۃ الاعراف کے مضامین اور مقاصد	5
298/1	اللہ کے استہزاء کی توجیہ	9		سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کی باہمی	6
301/1 633/3 537/5	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے	10	32/4	مناسبت	
	اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی اور اس کا	11	147/4	اصحاب الاعراف کو دخول جنت کا اذن	7
302/1	کذب پر محال ہونا		526/4	سورۃ الاعراف کا اختتام	8
	اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے قریب ہونے کے	12		انغواء	65
303/1	باوجود یا ایہا الناس سے ندا کرنے کی توجیہ		77/4	انغواء کا معنی	1
305/1 310/1	اللہ تعالیٰ کا خالق اور لا شریک ہونا	13		اقتدار	66
336/1	اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم	14	765/7	جن کو اقتدار عطا کیا جائے گا ان کے مصداق	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
495/2	اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین آمیز کلام کرنا	35	472/1	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت میں فرق	15
	من عرف نفسه فقد عرف ربه کی	36	507/1	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	16
520/2	تشریح		559/1	اللہ تعالیٰ کی مثل پر ایمان لانا	17
544/2	خالق کی عظمت	37	560/1	اللہ تعالیٰ کا رنگ	18
651/2	اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف تمنا کرنا	38	574/1	اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی پر اشکال کا جواب	19
	اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی کو	39	621/1	واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	20
669/2	شریک نہ ٹھہرانا			اللہ تعالیٰ کے وجود، وحدت اور اس کے علم پر	21
675/2	اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کا معنی	40	623/1	دلائل	
675/2	اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب بڑھانے کا مطلب	41		اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے	22
812/2	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	42	647/1	کی توجیہ	
821/2	بندوں کے شکر سے اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا	43	649/1	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی	23
116/3	اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا عہد و میثاق	44	743/1	اللہ تعالیٰ کے جلد حساب لینے کی تفسیر	24
	کیا اللہ نے کافر کے کفر یا اس کے ایمان کا	45	874/1	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا	25
176/3	ارادہ کیا تھا؟			دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی	26
238/3	یہ اللہ کا معنی	46	67/2	طرف	
329/3	اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکو کار و بدکار	47	120/2	جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے	27
	قیامت کے دن انبیاء کافر مانا کہ ”ہمیں کچھ	48	122/2	جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا	28
358/3	علم نہیں“		239/2	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا مطلب	29
361/3	اللہ تعالیٰ پر اسماء کے اطلاق کا ضابطہ	49		مرتدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکال کے	30
381/3	اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت	50	239/2	جوابات	
	تمام تعریفوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ	51	289/2	اللہ تعالیٰ کی رسی کا بیان	31
392/3	خاص ہونا		401/2 516/2	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں	32
	اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی	52	406/2	اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا مطلب	33
393/3	دلیل			اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا دنیاوی تمام	34
			413/2	لذتوں سے افضل ہونا	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا	72	396/3	53
299/4			404/3	54
437/4	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت پر دلائل	73	404/3	55
451/4	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کا منحصر ہونا	74		56
600/4	اللہ تعالیٰ کی معلومات واقعہ اور فریضہ	75	411/3	56
603/4	اللہ تعالیٰ کا انسان اور اس کی دل کے درمیان حائل ہونا	76	465/3	57
605/4	رحمان کی دو انگلیوں سے مراد	77	470/3	58
609/4	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا	78	504/3	59
610/4	اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ممانعت	79	511/3	60
612/4	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت	80	585/3	61
621/4	اللہ تعالیٰ کا فضل	81	610/3	62
158-166 4	اللہ کا عرش پر استواء فرمانا	82	614/3	63
336/4	کلام باری تعالیٰ	83		64
705/4	اللہ تعالیٰ کا علم تمام زمانوں کو محیط ہے	84	633/3	64
187/5	اللہ تعالیٰ کے بھلانے کا مطلب	85	657/3	65
227/5	بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت سے مستغنی نہیں	86	658/3	66
231/5	اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا	87	660/3	67
264-266 5	اللہ تعالیٰ کا جنت کے بدلہ میں مومنوں کی جانوں اور مالوں کا خریدنا	88	674/3	68
355/5	اللہ تعالیٰ کے حجاب سے مراد	89	133/4	69
409/5	اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مصداق	90	195/4 206/4	70
			297/4	71

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
97/6	رضن کے انکار کا شان نزول	105	448/5	اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا محال ہونا	91
133/6	لفظ اللہ کے نام ہونے پر دلائل	106	479/5	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلیل	92
134/6	اللہ تعالیٰ کا کسی سمت کے ساتھ مختص نہ ہونا	107		اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود اپنے بندوں کو نفع	93
193/6	بندوں کی جفا کے صلہ میں اللہ کی وفا	108	482/5	پہچانا ہے نہ کہ ضرر پہچانا	
244/6	اللہ تعالیٰ کو واحد اور جمع کے صیغوں سے تعبیر کرنا	109	538/5	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق متاخرین کا مسلک	94
460/6	الہ کا معنی	110		اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق متقدمین کا مسلک	95
464/6	اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت پکارنا اور بعد میں بھول جانا	111	539/5	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق قرآنی آیات	96
470/6	اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات کا معنی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کا توفیقی ہونا	112	541/5	اللہ تعالیٰ کی صفات تشابہات کے متعلق احادیث	97
521/6	اللہ تعالیٰ کے لیے مثال گھڑنے کے محال	113	542/5	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	98
814/6	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے	114	553/5	اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے	99
815/6	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	115	547/5	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا جمادات کو خطاب	100
222/7	اللہ تعالیٰ کے کلمات کا غیر متناہی ہونا	117	550/5	اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کا معنی	101
276/7	اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونا	118	559/5	اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل	102
276/7	اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس کے تقاضے	119	764/5	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے اور ہدایت دینے کے محال	103
279/7	اللہ تعالیٰ پر وارث کا اطلاق	120		عرش پر استواء اور دیگر صفات کے متعلق متقدمین و متاخرین کے نظریات	104
303/7	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام "اللہ" نہیں	121			
356/7	اللہ تعالیٰ کا سوال کہ "تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟"	122	94/6		
357/7	اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم ﷺ سے ہم کلام ہونا	123			
371/7	اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا معنی	124	37/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
309/9	اللہ تعالیٰ کا تدبیر کرنے کا معنی	145	380/7	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلائل	125
312/9	عالم الغیب کا معنی	146	783/7	اللہ تعالیٰ کی تعظیم	126
313/9	ہر چیز اور ہر مخلوق کو حامل حسن بنانا	147	533/7	اللہ تعالیٰ کو عرش عظیم کا رب کہنا کیسا؟	127
621/9	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	148	536/7	اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہونے پر دلیل	128
680/9	اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے	149	652-653/7	اللہ تعالیٰ کے رحم الرحیم ہونے کی وجوہ	129
725/9	اللہ تعالیٰ کا بے نیاز اور نکتہ نواز ہونا	150	884/7	اللہ تعالیٰ کے ظلم نہ کرنے کی وجوہ	130
726/9	اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنا	151		مخلوقات کے تنوع سے اللہ کی ذات پر استدلال	131
850/9	اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی	152	161/8		
	اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں مناسبت	153	199/8	اللہ تعالیٰ کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر دلیل	132
972/9			865/8		
	اللہ تعالیٰ کی صورت اور اس کے ہاتھوں کی تفسیر	154	213/8	اللہ تعالیٰ کی توحید کی تمہید	133
143/10			367/8 468/8	اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا	134
153-156 10	کیا دنیا میں سب کچھ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے؟	155	407/8	اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے قہر و غضب کے تقاضے	135
172/10	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سزا فرمانا	156	849/8	اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں	136
	اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہونا	157	43/9	اللہ تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا	137
176/10			60/9	اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ	138
177-181 10	اللہ تعالیٰ کا تمام افعال کا خالق ہونا	158		اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر روزمرہ کے مشاہدات سے استدلال	139
181/10	اللہ تعالیٰ کا کفر اور معصیت کو پسند نہ فرمانا	159	112/9		
206/10	اے میرے بندو! اس کے مخاطب کون ہیں؟	160	153/9	اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کہنا ظلم ہے	140
253/10	اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے	161	264/9	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے	141
	اللہ تعالیٰ کو بندروں اور خنزیروں کا مالک کہنا کیسا؟	162	274/9	اللہ تعالیٰ کے پاس حسن انجام کا پانا	142
288/10			276/9	اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی وجہ	143
296/10	اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعضاء	163	277/9	اللہ تعالیٰ کا غیر متناہی ہونا	144

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
644/11	اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کا معنی اور اس کی رحمت کے تقاضے	182	334/10	اللہ تعالیٰ خود بلند ہے اور مخلوق کے درجات بلند کرنے والا ہے	164
265/11	اللہ تعالیٰ کے انشاء اللہ فرمانے کی توجیہات	183	469/10	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ظن رکھنا چاہیے؟	165
321/11	اللہ تعالیٰ کے شرک سے زیادہ قریب ہونے کا معنی	184	473-476 10	کیا اللہ تعالیٰ گناہ کا ارادہ کرتا ہے؟	166
386/11	اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں	185	542/10	اللہ تعالیٰ علی الاطلاق عظیم اور بلند ہے	167
387/11	اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کے محامل	186	565/10	اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے مماثلت کی نفی	168
393-398 11	آیا اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں یا نہیں؟	187	574/10	اللہ تعالیٰ کے بندوں پر لطیف ہونے کا معنی	169
398/11	اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی ہے	188	825/10	اللہ تعالیٰ کے بھلا دینے کی توجیہ	170
458/11	اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے محامل	189	822/10	اللہ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعارض کا جواب	171
459/11	اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیوں کو ثابت کرنا پرلے درجہ کی حماقت ہے	190	41/11	اللہ عزوجل کا انکار، استخفاف اور استحقار کفر ہے	172
569/11	اللہ تعالیٰ کے ہنسانے اور رلانے کی توجیہات	191	76/11	اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کا خوف	173
138/12	”بارک“ کا معنی اور اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	192	179/11	اللہ تعالیٰ کے مستغنی ہونے کی وضاحت	174
141/12	اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے اور آزمانے کی توجیہ	193	180/11	اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی جگہ کس قوم کو دے گا؟	175
141/12	رحمن کے نظام تخلیق میں کسی قسم کی کمی کا نہ ہونا	194	920/11	اللہ تعالیٰ کو قرض حسد دینے کا معنی	176
142/12	بار بار دیکھنے کے حکم کی توجیہ	195	881/11	اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف تعبیریں	177
153/12	اللہ تعالیٰ پر آسمان والے کے اطلاق کی توجیہ	196	779/11	اللہ تعالیٰ کا سرگوشیوں پر مطلع ہونا	178
155/12	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر دلائل	197	713/11	اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں سب اسی کے محتاج ہیں	179
356/12	اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا معنی	198	714/11	اللہ تعالیٰ کے اول و آخر، ظاہر و باطن ہونے کے معانی	180
352/12	اللہ تعالیٰ کی تعظیم و توقیر	199	670/11	اللہ تعالیٰ کے خاص افعال کا مخلوق کی طرف نسبت کرنے کا جواب	181
254/12	اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارشی بنانے کا عدم جواز	200			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
201	اللہ تعالیٰ کی تعظیم اس کو وسیلہ بنانے کے منافی ہے		73	امام	
		255/12	1	امام کا لغوی معنی	522/1
202	”اللہ اور رسول چاہے“ کہنا موہم بے ادبی ہے	256/12	2	اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک امام کا شرعی معنی	522/1
203	اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو بتدریج پیدا فرمانا	256/12	3	امام کا معصوم ہونا	525/1
204	اللہ کے نزدیک کفار کی ذلت اور مؤمنوں کی عزت و وجاہت	297/12	4	امام کا تقرر	526/1
205	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	171/10 1038/12	5	اہل تشیع کے بارہ امام	529/1
70	الہام		74	امامت	
1	الہام کا معنی	767/12	1	امامت منعقد کرنے کا طریقہ	529/1
2	نیک کاموں کا الہام نیکی کی جدوجہد کرنے والوں کو ہوتا ہے	768/12	2	خواتین کی امامت	374/1
3	الہام سے مراد اچھے اور برے کاموں کا لزوم ہے	769/12	3	خواتین کی امامت کے متعلق احادیث	374/1
4	نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث	769/12	4	سمجھدار اور نابالغ لڑکے کی امامت	378/1
71	الحاد		5	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	376/1
1	الحاد کا معنی	733/7	6	امامت کے مسائل	529/1
2	الحاد کا معنی اور اس کا مصداق	514/10	7	امامت کا واجب ہونا	530/1
3	جعلی پیروں اور بناوٹی صوفیوں کا الحاد	515/10	8	نماز میں فاسق کی امامت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	531/1
72	حضرت الیاس علیہ السلام		75	امتحان	
1	حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب اور ان کا مصداق	576/3	1	دیکھئے ”7: آزمائش“ صفحہ 47	
2	حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی سوانح	947/9	76	امن و سلامتی	
3	حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نبی ﷺ سے ملاقات	948-950 9	1	امن و سلامتی کا ایمان و اسلام پر مقدم ہونا	210/6
4	حضرت الیاس علیہ السلام کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی روایت	950/9	2	امن و سلامتی کی تفسیر	295/6
			77	امی	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
254/5	امر بالمعروف ونہی المنکر کی وجہ	13	357/4	امی کا معنی	1
396/8	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی فرضیت	14	356/4	قرآن و سنت میں نبی پر امی کا اطلاق	2
397/8	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ترک نہ کیا جائے	15		امثلہ	78
307/2	امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں ملائمت کو اختیار کیا جائے	16	105/7	مالدار کافر اور مومن کی مثال	1
399/8				امر بالمعروف ونہی عن المنکر	79
	امت محمدی ﷺ	80		امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق قرآنی آیات	1
570/1	امت مسلمہ کا دیگر امتوں پر گواہ ہونا	1	297/2		
314/2	امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونا	2	298/2	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق احادیث	2
505/5	قرآن و حدیث میں لفظ "امت" کے اطلاقات	3	422/7		
160/6	امت محمدی ﷺ کا سب سے زیادہ ہونا	4	300/2	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تفصیل و تحقیق	3
594/6 660/7 880/7 672/10	امت کا معنی	5	301/2	نبی عن المنکر کے لیے تادیب اور تعزیر کے مراتب	4
595/6	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمانا	6	303/2	بغیر علم کے وعظ و تقریر کرنا کیسا؟	5
597/6	ملت ابراہیم کی اتباع کی توجیہ	7	400/1 306/2 398/8	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے خود نیک ہونا	6
814/7	اس امت کا نام امت مسلمہ کس نے رکھا؟	8	306/2	ہتھیاروں سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا کیسا؟	7
818/8	امت محمدی ﷺ کے فضائل	9	399/8		
498/9	امت محمدی کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	10		کسی شخص سے محبت کی وجہ سے امر بالمعروف ترک کرنا	8
504/9	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	11	307/2		
506/9	رسول اللہ ﷺ کا اعمال امت پر شاہد ہونا	12	307/2	امر بالمعروف میں ملائمت اختیار کرنا	9
679/9	امت مسلمہ کا قرآن مجید کا وارث ہونا	13	234/3	امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ کرنے کی مذمت	10
446/10	امت محمدی ﷺ سے کون کون سا عذاب اٹھایا گیا ہے؟	14	344/3	نجات کیلئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ضروری ہونا	11
	امتیاز	81	344/3	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
757/1	ابتدا میں نوع انسانی کا دین حق پر ہونا	2		اسلام میں ذات پات کا امتیاز نہ کرنے پر	1
757/1	تمام انسانوں کا دین فقط اسلام ہے	3	306/11	احادیث سے دلائل	
123/2	انسان، فرشتوں سے افضل ہیں	4		امانت	82
186/2	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں	5	699/2	امانت ادا کرنے کے متعلق آیات	1
222/2	بشر کا معنی	6	700/2	امانت ادا کرنے کے متعلق احادیث	2
	انسان کے نفس سے وجود باری تعالیٰ اور توحید	7	700/2	اللہ کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	3
603/3	پر دلائل		701/2	خلق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	4
604/3	تمام انسان نسلًا برابر ہیں	8	702/2	اپنے نفس کے ساتھ معاملہ میں امانت داری	5
479/5	انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار مطلق	9	613/4	امانت کے متعلق حکم قرآن	6
	انسان کے افعال کی قدرت میں مذاہب	10	613/4	امانت کے متعلق حکم حدیث	7
534/5	مشکلمین اور جبر و قدر کی وضاحت		856/7	امانت کی حفاظت کرنا	8
573/5	انسان کو زمین سے پیدا کرنے کے دو محل	11	578/9	امانت کے متعلق احادیث	9
	انسان کی پیدائش سے وجود باری تعالیٰ پر	12		آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی گئی	10
573/5	استدلال		579/9	امانت	
	انسان کی خلقت کے مادہ میں مختلف آیات	13	586/9	جنس انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت	11
271/6	کی توجیہ		236/12	امانت کی رعایت	12
	انسان کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور	14		امید	83
270/6	وحدانیت پر استدلال		239/6	دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت	1
427/6	انسان اور بشر کو نبی اور رسول بنانے کی تحقیق	15	241/6	مستقبل سے امیدیں وابستہ رکھنا	2
655/6	انسان کا جلد باز ہونا	16		امیر	84
660/6	انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے	17	680/6	امیر و غریب کے طبقاتی فرق کی حکمتیں	1
756/6	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجوہ	18	600/10	بعض لوگوں کو امیر بنانے کی مصلحتیں	2
783/6	انسان کا کمزور دل اور ناشکر ہونا	19		انسان	85
42/7	انسان کا با اختیار ہونا	20	756/1	تاریخ انسانیت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	چالیس سال کی عمر میں انسان کا اپنی قوت کے کمال کو پہنچ جانا	40	43/7	انسان کو امتحان میں جلا کرنا	21
83/11			435/7	لوگوں کی اقسام	22
913/11	انسان کی صورت سب سے حسین ہے	41	481/7	لوگوں کے آگے اور لوگوں کے پیچھے کی تفسیر	23
	انسان کی دنیا میں غفلت اور آخرت میں اس کی نگاہ کا تیز ہونا	42	763/7	بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور کرنا	24
324/11			456/8	انسان کو خیر و شر کا اختیار ہے	25
393/11	انسانوں کی وجہ تخلیق	43	313/9	انسان کو مٹی سے بنانا	26
525/11	انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کے متعلق احادیث	44	524/11 257/12		
1053/12	انسان کی باقی مخلوق پر فضیلت	45	314/9	انسان کو پانی کی ایک حقیر بوند سے بنانا	27
686/12	انسان کی درست تخلیق کا مطلب	46	665/9	مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش	28
668/12	انسان کے محافظ اور نگہبان کی تحقیق	47		انسان کو اپنی اصلاح کیلئے کتنی عمر کی ضرورت ہے؟	29
	فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟	48	692/9		
671/12				انسان کو پیدا کر کے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازنا	30
674/12	انسان کو لوٹانے کے دو مجمل	49	174/10		
	انسانوں کا مختلف احوال اور منازل میں منتقل ہونا	50		انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کو زمین کی پیداوار پر قیاس کرے	31
541/12			215/10		
872/12	انسان کی بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ	51		انسان کے دل میں اللہ کے نور کا معیار اور اس کی علامتیں	32
944/12	انسان کا اپنے ”الکنود“ ہونے پر گواہ ہونا	52	217/10		
976/12	تمام انسانوں کا خبارے میں مبتلا ہونا	53	710/7 411/10	تخلیق انسان کے مراحل	33
	انسان پر ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی نیک بنائے	54	467-468 10	قیامت کے دن انسان کے اعضاء کا نطق	34
973/12			468/10	آنکھ، کان اور کھال کی خصوصیت کی توجیہ	35
608/12	انسان کے مقدم اور موخر اعمال کے محامل	55	522/10	انسان کی ناسپاسی اور ناشکری	36
609/12	انسان کی تخلیق کی تفصیل	56	634/10	مذکر اور مؤنث کی پیدائش کی علامات	37
610/12	انسان کی معتدل صورت بنانا	57		مٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر ترجیح دینے کی وجہ	38
429/12	انسان کے مصداق میں متعدد اقوال	58	634/10		
430/12	جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا	59	658/10	انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت کا ہونا	39

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
60	انسان کو اختیار دیا ہے خواہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکر	432/12	88	سورۃ الانفطار	
61	انسان کی اپنے اوپر بصیرت کے دو محمل	410/12	1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	604/12
62	انسان کو عبث پیدا نہ فرمانا	422/12	2	سورۃ الانفطار کا اختتام	614/12
63	انسان کی صرف دو صنفوں پر ایک اعتراض کا جواب		89	انجام	
64	بشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	524/5	1	ہر شخص کا انجام اس کے اعمال کے اعتبار سے ہے	580/11
65	بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے	530/5	90	انجیل	
66	بشر کا معنی	274/6 223/7	1	انجیل کا معنی	53/2
67	کفار کا انبیاء کو بشر کہنے کی وجہ	224/7	2	انجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات	53/2
68	انبیاء کا بشر ہونا ہمارے لیے وجہ احسان	225/7	3	انجیل کے متعلق قرآن کی آیات	54/2
69	رسول اللہ ﷺ کا خود پر بشر کا اطلاق فرمانا	225/7	4	موجودہ انجیل	54/2
70	نبی اور رسول ﷺ کا بشر ہونا	226/7	5	احکام اسلام بمقابلہ تعلیمات انجیل	56/2
71	رسول اللہ ﷺ کا بشر ہونا	227-230/7	6	نزول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ	205/3
72	نبی ﷺ سے "میں بشر ہوں" کہلوانے کی وجہ	231/7	7	عیسائیوں کی موجودہ انجیل کا وجود مشکوک ہے	413/11
73	بشر کی تفسیر	253/8	8	انجیل اربعہ کی اصلیت	413-420 11
74	بشر کا معنی اور اس کا تخلیقی مادہ	147/10	91	انعام	
75	رسول اللہ ﷺ کے بشر ہونے کی تحقیق	434/10	1	اللہ تعالیٰ کے بندوں پر انعامات و احسانات	422/10
86	سورۃ الانشقاق		2	عباد صالحین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات	482/10
1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	633/12	3	فرشتوں کا مومنین کو موت کے وقت انعامات کی بشارت دینا	485/10
2	سورۃ الانشقاق کے مشمولات	633/12	92	انڈا	
3	سورۃ الانشقاق کا اختتام	644/12	1	انڈے کا پاک اور حلال ہونا	884/9
87	سورۃ الانشراح		2	انڈے کے غذائی اجزاء اور بد پرہیزی کے نقصانات	885/9
1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	840/12			
2	سورۃ الانشراح کی تفسیر کی تکمیل	867/12			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
878/2	انبیاء اور اس کی تعداد	15		انگور	93
889/2	انبیاء کافرشتوں سے افضل ہونا	16	607/3	انگور کے خواص	1
128/3	بعض رسولوں کے انکار سے نجات نہیں ہوگی	17	862/7	انگور کے غذائی اور طبی فوائد	2
413/3	انبیاء اور اولیاء، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کے اذن سے تصرف کرتے ہیں	18		انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small>	94
471/3	انبیاء کا مقرر شدہ کام	19	157/1	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کے نام لکھنے اور پڑھنے کے آداب	1
572/3	انبیاء، علماء اور مومنین کے درجات کی بلندی	20	551/1	تمام انبیاء <small>علیہم السلام</small> کا پیدائشی مومن ہونا	2
530/3	قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء کا نسیان	21	558/1	تمام انبیاء <small>علیہم السلام</small> پر ایمان لانے کی وجہ	3
577/3	انبیاء کے ذکر میں ایک نوع کی مناسبت	22		تمام انبیاء <small>علیہم السلام</small> پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے کے محال	4
578/3	انبیاء کا ملائکہ سے افضل ہونا	23	598/1	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کی حیات	5
647/3	نبی کی صفات لازمہ	24		حیات انبیاء <small>علیہم السلام</small> پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے معارضہ کے جوابات	6
237/4	تمام نبی حاصل معجزہ ہیں	25	600/1	وفات کے بعد انبیاء <small>علیہم السلام</small> کے دکھائی دینے کی کیفیت	7
304-310/4	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دینا	26	601/1	رسولوں کی باہمی فضیلت	8
	انبیاء علیہم السلام کی ہمارے نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> پر فضیلت	27	894/1	انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small> کی جسمانی و روحانی خصوصیات	9
312/4			125/2	انبیاء <small>علیہم السلام</small> کا دعوائے الوہیت کرنا عقلاً ممتنع ہے	10
311/4	حیات انبیاء <small>علیہم السلام</small> پر دلائل	28	226/2	انبیاء سابقین پر ایمان لانا	11
654/5 451/5 523/5	انبیاء سابقین کے قصص بیان کرنے کی حکمتیں	29	236/2	انبیاء کی بعثت کا عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہونا	12
577/5	انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small> کی تبلیغ کی ترتیب	30	446/2	انبیاء کرام کو علم غیب	13
619/5	انبیاء سابقین اور ان کی اقوام کے قصص اور واقعات بیان کرنے کے فوائد	31	480-483/2	تمام انبیاء کے صدق پر رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی شہادت	14
106/6	انبیاء کرام کا امر اور نہی سے مکلف ہونا	32	676/2		
141/6	انبیاء سابقین کے ذکر کی حکمت	33			
141/6	تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد واحد ہے	34			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
679/9	انبیاء ﷺ کی ایک دوسرے پر فضیلت	55	160/6	انبیاء کا کافروں کی دھمکیوں سے نہ ڈرنا	35
737/9	انبیاء ﷺ کو کفار کا بدشگون کہنا	56	163/6	کیا انبیاء پہلے کافروں کے دین پر تھے؟	36
810/9	انبیاء ﷺ کا ملائکہ سے افضل ہونا	57	743/6	بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت	37
815/9	انبیاء ﷺ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے	58	110/7	انبیاء ﷺ پر مصائب کا آنا	38
826/9	انبیاء ﷺ کے حواس اور عقل کا ذہلی ہونی	59	224/7	کفار کا انبیاء ﷺ کو بشر کہنے کی وجہ	39
826/9	عمر میں زیادہ فعال ہونا	59	252/7	انبیاء ﷺ کی وراثت	40
895/9	انبیاء سابقین کے قصص	60		اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا انبیاء ﷺ کی سنت ہے	41
121/10	انبیاء ﷺ کا خالص دار آخرت کے ساتھ مشغول ہونا	61	377/7	انبیاء ﷺ کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا جانا	42
236/10	انبیاء ﷺ کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود ہونا	62	373/7	انبیاء ﷺ کا مختلف پٹھے اپنانا	43
320-322 10	کیا فرشتے انبیاء ﷺ سے افضل ہیں؟	63	638/7	انبیاء ﷺ کے ذنوب کی توجیہ	44
634/10	انبیاء ﷺ کو اولاد عطا فرمانے کی تفصیل	64	473/8	انبیاء مبعوثین کی ترتیب	45
	ان شاء اللہ	95	598/8	انبیاء کرام ﷺ کا پرندوں کی باتیں سمجھنا	46
88/7	ان شاء اللہ کہنے کو ترک کرنا	1	631/8	انبیاء کرام ﷺ کا اپنے صالح ہونے کی دعا کرنے کی وجہ	47
89/7	ان شاء اللہ کہنے کے فقہی مسائل	2		انبیاء کرام ﷺ کا علم غیب	48
90/7	ان شاء اللہ کہنے کو بھولنا	3	648/8	انبیاء کرام ﷺ کا منکر کافر ہے	49
	سورة الانبياء	96	660/8	یوم میثاق میں انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے متعدد محامل	50
509/7	سورة کا نام	1	137/9	انبیاء ﷺ سے سوال کے متعدد محامل	51
510/7	سورة طہ اور سورة الانبياء میں باہمی مناسبت	2		انبیاء ﷺ کے ڈرنے کی حقیقت	52
698/7	اختتامی کلمات و دعا	3	384/9	انبیاء ﷺ کا جسمانی عیوب سے بری ہونا	53
	انصار	97	385/9	انبیاء ﷺ کی حیات و وفات کے بعد ان کا قبروں سے نکلنا	54
239/5	انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل	1	459/9		
241/5	انصار کے فضائل	2	574/9		
	سورة الانفال	98	614/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کن لوگوں پر خرچ کرنا انسان پر واجب ہے؟	14	531/4	انفال کا معنی	1
696/6			532/4	سورۃ الانفال کی وجہ تسمیہ	2
700/6	خرچ میں اعتدال کا واجب ہونا	15	532/4	سورۃ الانفال کا زمانہ نزول	3
700/6	خرچ کرنے کی فضیلت	16		ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ الانفال کا	4
702/6	زیادہ خرچ کرنا	17	533/4	مقام، آیتوں کی تعداد اور سبب نزول	
704/6	تمام مال صدقہ کرنا	18	538/4	سورۃ الانفال کے مضامین کا خلاصہ	5
	اپنے اوپر، اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترغیب	19	539/4	سورۃ الانفال کے مقاصد	6
823/11			540/4	انفال کا معنی اور اس کا مصداق	7
	سورۃ الانعام	100	718/4	سورۃ الانفال کا اختتام اور دعا	8
386/3	سورۃ الانعام کے نزول کے متعلق احادیث	1		انفاق فی سبیل اللہ	99
387/3	سورۃ الانعام کی فضیلت	2		آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص	1
388/3	سورۃ الانعام کا موضوع	3	276/1	زکوٰۃ مراد ہے یا عام صدقہ وغیرہ؟	
389/3	سورۃ الانعام کے مضامین	4	276/1	راہِ خدا میں کل مال خرچ کرنا	2
708/3	سورۃ الانعام کا اختتام	5	924/1	راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید	3
	انار	101	647/1	انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف	4
607/3	انار کے خواص	1	948/1	بے حساب اجر دینے کی وجوہات	5
	انعام یافتہ لوگ	102	949/1	صدقات و خیرات کے آداب و شرائط	6
213/1	انعام یافتہ لوگوں کا بیان	1	950/1	متفرق مثالیں	7
213/1	انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان	2	956/1	صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات	8
	انعامی بانڈز	103	968/1 973/1	خفیہ اور علانیہ صدقہ	9
816/1	انعامی بانڈز کا شرعی حکم	1	970/1	اہل ذمہ کو نقلی صدقات دینا	10
713/5	انعامی بانڈز کے جواز کی بحث	2	673/2	اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ نہ کرنا	11
	انعامی بانڈز کے متعلق جسٹس پیر محمد کرم شاہ کا فیصلہ	3	672/3	نقلی صدقہ میں کیا چیز اسراف اور کیا نہیں؟	12
716/5			148/4	اللہ کی راہ میں پانی خرچ کرنا	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
447/11	تابالغ اولاد کا اپنے مسلمان ماں باپ کو جنت میں لے جانا	13	718/5	انعامی بانڈز کے جواز کے متعلق جسٹس شفیع الرحمان کا فیصلہ	4
	اولوالعزم	107		اولی الامر	104
117/11	اولوالعزم کا معنی	1	705/2	اولی الامر کی تفسیر میں متعدد اقوال	1
118/11	اولوالعزم رسولوں کے مصداق ہیں	2	706/2	اولی الامر کی اطاعت بالاتباع ہے	2
	اہلسنت وجماعت	108		قرآن مجید اور احادیث، اقوال صحابہ پر مقدم ہیں	3
571/1	مسک اہلسنت وجماعت کا سب سے افضل ہونا	1	706/2	اوس و خزرج (قبائل)	105
127/4	معمولات اہلسنت کا جواز	2	295/2	اوس و خزرج پر اللہ تعالیٰ کے احسانات	1
	محبت اہل بیت صرف اہلسنت وجماعت کی خصوصیت ہے	3		اولاد	106
588/10	تعمیم صحابہ کا عقیدہ صرف اہلسنت وجماعت کی خصوصیت ہے	4	70/2	اولاد کے ذکر میں حسن ترتیب	1
	احانت	109	617/4	اولاد کا فتنہ ہونا	2
234/8	عقبہ ابی معیط کا حضور ﷺ کی احانت کرنا	1	158/5	اولاد کا سبب عذاب ہونا	3
186-188/9	غیر مسلم اموات کی احانت کا جواز	2	277/8	عام لوگوں کا اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ زمین میں چھوڑنا کیسا ہے؟	4
	اہل کتاب	110	357/8	اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا	5
607/1	اہل کتاب کا نبی ﷺ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	1	633/9	آخرت میں مسلمانوں کی اولاد کی نفع رسانی	6
417/3	اہل کتاب کا اللہ کی مخالفت کرنا	2	78/11	اولاد کی محض کثرت باعث فخر اور پسندیدہ نہیں	7
196/2	اہل کتاب کا رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کرنا	3	734/11	اولاد کے فرائض	8
197/2	اہل کتاب کے امینوں اور خاندانوں کا ذکر	4	446/11	اولاد میں کثرت کی طلب مطلقاً مذموم نہیں ہے	9
202/2	کفر پر مذمت میں اہل کتاب کی تخصیص	5		اولاد پر شفقت کرنے کی ترغیب	10
281/2	اہل کتاب کے گمراہ کن حیلے	6	444/11	مومنوں کے ایمان کی وجہ سے ان کی تابالغ اولاد کا جنت میں داخل ہونا	11
282/2			445/11	مومنوں کی تابالغ اولاد اور کافر اولاد ان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگی	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				مسلمانوں میں عداوت کی آگ بھڑکانا	7
171/9	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	3	282/2	اہل کتاب میں سے ایمان والوں کی تفصیل	8
817/11	ایثار کا لغوی و اصطلاحی معنی	4	89/3, 91/3	اہل کتاب کی تعریف اور ان کا ذبیحہ	9
818/11	ایثار کے متعلق احادیث و آثار	5	91/3	اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح	10
821/11	کس کس کو ایثار کی اجازت ہے؟	6	91/3	اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح	11
822/11	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ	7	812/6	ایمان لانے میں اہل کتاب کا عاجزی کرنا	12
	جان کا ایثار صرف رسول اللہ ﷺ کے لیے کرنا جائز ہے	8	96/9	اہل کتاب کے لقب کے مستحق کون؟	13
824/11			757-760	اہل کتاب میں سے جو شخص ہمارے نبی ﷺ پر ایمان لایا اس کو دو اجر ملنے کی تحقیق	14
436/12	ایثار کی فضیلت میں احادیث	9	11		
437/12	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایثار کرنا	10		اہل بیت	111
	ایمان	113	592/5	اہل بیت کے مصداق کون؟	1
247/1 458/5 450/9 381/11	ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	438/9	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	2
249/1	ایمان کی تعریف	2	440-443/9	اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	3
250/1	نفس ایمان اور ایمان کامل	3	443/9	اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضمائر لانے کی وجہ	4
251/1	مومن ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے	4	444/9	شیعہ کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب	5
252/1	ایمان کی حقیقت	5	681/9	اہل بیت کرام کے فضائل	6
253/1 550/4 473/2	ایمان میں کمی اور زیادتی	6	952/9	آل یاسین سے مراد آل محمد ﷺ ہے	7
256/1	اسلام اور ایمان میں نسبت	7	588/10	محبت اہل بیت صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے	8
282/1	جن کا ایمان نہ انا مقدر ہو چکا ان کو تبلیغ کرنا	8	588/10	محبت اہل بیت کے متعلق احادیث	9
282/1	کفار کے دلوں پر مہر لگانے کے بعد ان سے مواخذہ کیوں؟	9	169/9	ایثار	112
393/1	صحابہ کرام کے ایمان کا معیار	10	170/9	مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل	1
				صرف اصحاب مبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایثار کی اجازت ہے	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
761/5	ایمان پر شکر ادا کرنے کا وجوب	28	413/1	ایمان والوں کو دوبارہ ایمان کا حکم دینا	11
876/5	ایمان لانے کے باوجود شرک کرنے والوں کے مصداقیق	29	1028/1	اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب	12
76/6	ایمان و کفر کی پانی اور جھاگ سے تشبیہ	30	649/1	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی	13
100/7	ایمان لانے میں انسان کا فائدہ	31	314/2 394/10	ایمان کامل کا معیار	14
340/7	ایمان کے مدارج و مراتب	32	476/2	ایمان کے بدلے کفر کو خریدنا	15
428/7	ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے	33	522/2	ایمان کے ساتھ گناہوں پر مواخذہ	16
231/8	ایمان لانے کو مطلق کرنا	34		ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کی توجیہ	17
248/8	ایمان کے سورج کا طلوع ہونا	35	827/2		
288/8	اختیاری ایمان اور جبری ایمان	36	881/2	رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانا	18
6820/8	ایمان کا نبی ﷺ کے ادب سے ملنا	37	628/3	اللہ کا مطلوب بندوں کا اختیاری ایمان ہے	19
740/8	دولت ایمان سے کون کون مشرف ہوں گے؟	38	439/4	بغیر دلیل کے ایمان لانا صحیح ہے یا نہیں؟	20
791-793 10	ایمان والوں میں سے قابل مدح کون؟	39	462/5	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	21
113/11	ایمان لانے سے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض کی؟	40	514/5	تمام اہل ملل پر سیدنا محمد ﷺ پر ایمان لانے کا وجوب	22
126/11	ایمان لانے کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا	41		غیر متمدن دنیا میں رہنے والوں کے لیے فقط توحید پر ایمان لانا ضروری ہے	23
816/11	اس کی توجیہ کہ انصار نے مہاجرین سے پہلے ایمان کی جگہ بتالی	42	515/5		
	ایندھن	114	528/5	پسماندہ اور کمزور لوگوں کا ایمان لانا نبوت میں طعن کا موجب نہیں	24
680/11	ایندھن فراہم کرنے کی نعمت	1	528/5	اللہ کے نزدیک اغنیاء کی بہ نسبت فقراء کا مقرب ہونا	25
	ایلاء	115		طبقاتی فرق اور نام و نسب، فضیلت کا موجب نہیں	26
795/1	ایلاء کا معنی اور اس کے وقوع کے بعد فقہاء کا اختلاف	1	529/5		
	ایٹھی ہتھیار	116	558/5	ایمان اور تقویٰ کے بغیر نسلی امتیاز اور نسبی برتری کی کوئی وقعت نہیں	27

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ایصال ثواب	119	663/4	تیر اندازی کے فضائل	1
562/1 1029/1	ایک شخص کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہونا	1		اس دور میں تیر اندازی کے مصداق انہی میزائل ہیں	2
	ایصال ثواب کیلئے نامزد جانوروں کا حلال ہونا	2	664/4		
340/3			665/4	انہی ہتھیار بنانے کے لیے تکر کرنا اور اس کیلئے سائنسی علوم حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے	3
728/6	ایصال ثواب کے متعلق احادیث	3		جہاد کے لیے بندھے ہوئے گھوڑوں کی فضیلت اور اس دور میں اس کے مصداق	4
727/6	لیس للانسان الاماسعی کی وضاحت	4	667/4		
	کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس پر ایک اور سوال	5	669/4	دشمنان اسلام کو صلب کرنے کی حکمت	6
530/11				ایذاء پہنچانا	117
532-557 11	ایصال ثواب کے عدم جواز پر معتزلہ کا استدلال اور اس کے جوابات و دیگر تفصیلات	6	556/9	اللہ، رسول اور مومنوں کو ایذاء پہنچانے کا فرق	1
				حضرت ایوب علیہ السلام	118
557/11	اس کا جواب کہ زندہ کے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا جاتا؟	7	648/7	حضرت ایوب علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کی بعثت کی ترتیب	1
			648/7 114/10	حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کرنا	2
558/11	اس کا جواب کہ رسول اللہ ﷺ سے ایصال ثواب کا ثبوت کہاں ہے؟	8	650/7	حضرت ایوب علیہ السلام کے نقصانات کی تلافی کرنا	3
560-566 11	ایصال ثواب کے متعلق مزید تحقیق	9	119/10		
			114/10	حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ	4
559/11	اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں دوسرے کیلئے دعا کے ثبوت سے ایصال ثواب کا ثبوت لازم نہیں آتا	10	649/7	حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی تحقیق	5
			114/10		
560/11	اس کا جواب کہ ایصال ثواب کے کھانے سے اغنیاء کیوں کھاتے ہیں؟	11	116/10	حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو بعض مفسرین کا شیطان کی تاثیر قرار دینا	6
	بارش	1	650/7	حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے لیے قسم پوری کرنے میں تخفیف و رعایت	7
252/8	مختلف علاقوں میں بارش نازل فرمانا	1	119/10		
252/8	بارش کا نظام	2	652/7 120/10	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے لطیف نکات	8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
134/6	بت پرستوں کے سخت عذاب کا سبب	12		بارش کے پانی سے بجز زمین کو زرخیز کرنے کا انعام	3
154/6	مشرکین اللہ کو خالق ماننے کے باوجود بت پرستی کیوں کرتے تھے؟	13	346/9	باطل	2
196/6	اولاد ابراہیم کو بت پرستی سے مامون رکھنے کی دعا پر اعتراض کے جوابات	14	641/9	حق و باطل کا فرق	1
382/6	بتوں کے خدا اور سفارشی ہونے کا ابطال	15		بال	3
64/7 282/7	بتوں کی عبادت	16	536/6	خنزیر کے بالوں کا نجس ہونا	1
313/7 894/7	بت پرستی کا رد	17		انسان کے بالوں کا طاہر ہونا	2
	بتوں کا انتقام لینے کے لئے رحمن کی مذمت کرنا	18	855/7	باندگی	4
585/7	بتوں کا عجز اور ان کی پرستش کا باطل ہونا	19		بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی عمل کرنا کیسا؟	1
800/7	بت پرستوں کا اللہ کی قدر نہ کرنا	20	855/7	اس دور میں باندگی بنانا	2
802/7	بتوں میں کوئی اچھائی نہیں	21	136/8	باندیوں کے بعض احکام	3
705/8	صنم کا معنی	22		بت / بت پرست	5
332/8	بتوں کی عبادت کا رد فرمانا	23	223/3	بت پرستوں سے متعلق قرآن کی اصطلاح	1
333/8	بتوں کو دشمن کہنا	24	493/3	بتوں کی عبادت کا خلاف عقل ہونا	2
334/8	بتوں کی عبادت پر عقلی و نقلی دلائل کا نہ ہونا	25	538/3	بت پرستی کا لہو و لعب ہونا	3
697/9	بعل کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر و پیش منظر	26	625/3	بتوں کو برا بھلا کہنا	4
951/9	بعل کی ناکامی وغیرہ	27	660/3	بتوں کے لیے پھلوں اور مویشیوں کی تقسیم	5
547/10	بتوں کو ولی اور کارساز بنانے کی مذمت	28	191/4	بت پرستی کی ابتداء	6
667-672 10	کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے	29	499/4	بتوں کی بے مائیگی اور بے چارگی	7
	مشرکین کا نبی ﷺ کی عبادت کی نسبت اپنے بتوں کی عبادت کو افضل قرار دینا	30		بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دینے میں مشرکین کے نظریات	8
700/10			340/5	بتوں کے صرف اسماء ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	9
			764/5	اللہ نے بتوں کی تعظیم کا ہرگز حکم نہیں دیا	10
			71/6	بت پرستوں کا دلائل کے ساتھ رد	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
418/7	زیورات سے چھڑا ہانا	2		آیا کفار نے اپنے بتوں کو بہتر قرار دیا تھا یا	31
419/7	چھڑے کو معبود قرار دینا	3	701/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟	
	بخیل	8	731/10	مشرکین کو بت پرستی پر ملامت کرنا	32
963/1	بخل کو بے حیائی سے تعبیر کرنے کی وجہ	1		بتوں کے نہ سننے کی قیامت تک کی تحصیل کی	33
485/2	بخل کا معنی	2	45/11	وجہ	
485/2	بخل کی اقسام	3		بتوں کا قیامت کے دن مشرکین کی عبادت	34
486/2	بخل کی مذمت میں قرآنی آیات	4	46/11	سے بے زاری کا اظہار کرنا	
487/2	بخل کی مذمت میں احادیث	5	513/11	بتوں کی پرستش کا ابطال اور توحید کا استحقاق	35
805/6			513/11	لات، عزیٰ اور منات کی تحقیق	36
946/12				بت پرستوں کی ظالمانہ تقسیم	37
780/9	بخل کی مذمت مزید	6	514/11	بتوں کے مؤنث ہونے پر دلائل	38
737/11	بخل کا معنی اور اس کا حکم دینا	7	517/11	وہ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر وغیرہا کی	39
	بخل کے پیدائشی وصف ہونے پر ایک اعتراض	8		تاریخی حیثیت	
229/12	کا جواب		260/12	کیا کفار مکہ اور کفار نوح کے معبود بت ایک	40
	بدعت	9	262/12	ہی تھے؟	
507/1	بدعت اور ابداع کا معنی	1		بچے	6
628/1					
534/1	بدعت کی تعریف و اقسام	2	585/2	زمانہ جاہلیت میں بچوں کو وارث نہ بنانا	1
692/3			669/6	تابالغ اولاد کا اللہ کی مشیت پر موقوف ہونا	2
691/3	بدعات سے اجتناب کا حکم	3	670/6	مسلمانوں کے بچوں کا جنت میں ہونا	3
348/4	بدعت سیئہ کی تعریف	4	670/6	مشرکین کے بچوں کا دوزخ میں داخل ہونا	4
369/9			671/6	مشرکین کی اولاد کا اہل جنت کا خادم ہونا	5
748/11	بدعت کا لغوی و اصطلاحی معنی	5	672/6	تمام بچوں کا جنت میں داخل ہونا	6
749-754	بدعت کی اقسام	6			
11					
	(معرکہ) بدر	10			
72/2	معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	1		چھڑا	7
331/2	غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ	2		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چھڑے کی	1
341/2	بدر کا معنی اور اس کا جغرافیائی محل وقوع	3	417/7	عبادت کرنا	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
693/4	فدیہ لینے کی وجہ سے عتاب کے محال	22	341/2	بدر میں مسلمانوں کا ضعف	4
696/4	بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے جوابات	23	341/2	بدر میں مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب	5
697/4	مشرکین کے قتل سے جنگی قیدیوں کو مستثنیٰ کرنا	24	343-353/2 558-569/4	جنگ بدر میں قتال ملائکہ	6
	بدر میں بلا اذن مال غنیمت لینے کے باوجود	25	533/4	غزوہ بدر کا خلاصہ	7
699/4	عذاب کا نازل نہ ہونے کا سبب		534/4	غزوہ بدر کے متعلق احادیث	8
702/4	بدر میں رسول اللہ ﷺ کی غیب کی خبر	26	557/4	غزوہ بدر کے دن حضور کا گڑ گڑا کر دعا کرنا	9
704/4	بدر کے قیدیوں سے فدیہ	27	572/4	غزوہ بدر میں اللہ کی امداد کی چھ انواع	10
	حاضرین بدر کو ان کی فضیلت کی وجہ سے	28		غزوہ بدر کی رات مسلمانوں پر غنودگی کا طاری ہونا	11
784/11	صف اول میں بٹھانا		573/4		
595/11	جنگ بدر میں کفار کی شکست کی خبر	29		غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی قیام گاہ	12
596/11	جنگ بدر میں حضور ﷺ کی فتح کی دعا	30	573/4	اور بارش کا نزول	
	بدو دعا	11	576/4	رسول اللہ ﷺ کا مقتولین بدر سے خطاب	13
	اپنے آپ کو اور اپنے اموال کو بدو دعا دینے کی ممانعت	1	592/4	کفار بدر کے قتل کی نفی	14
333/5			644/4	فتح بدر میں سیدنا محمد ﷺ کی دلیل نبوت	15
	بدکار	12		کفار اور مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کی حکمت	16
574/5	بدکاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہونا	1	644/4		
676/6	بدکاروں کے لیے وعید	2	655/4	مقتولین بدر کی بوقت موت کیفیت	17
	بدگمانی	13	657/4	کفار بدر کا تبیین فرعون کے مماثل ہونا	18
	بدگمانی دور کرنے کیلئے وضاحت کرنے کا احتیاب	1	691/4	مسلمانوں پر تخفیف کر کے مشکل حکم کو منسوخ کرنا	19
841/5				کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات	20
297/11	مسلمان کے متعلق بدگمانی کا حرام ہونا	2	691/4		
298/11	ظن اور گمان بے جواز اور عدم جواز کے محل	3			
	بدلہ دینا	14		بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ	21
	دیکھئے "13: جزاء" صفحہ 102	1	692/4	کا صحابہ سے مشورہ کرنا	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				بدلہ لینا	15
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں اور آپ کے بالوں سے بیماروں کا شفا یاب ہونا اور دیگر برکتیں	1	603/6	بدلہ لینے میں تجاوز کرنا	1
852/5			604/6	بدلہ کے بجائے صبر	2
	بروج	19		بدلہ نہ لینے میں رسول اللہ ﷺ کی مبارک سیرت	3
252/6	بروج کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	605/6		
	بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	2	619/10	بدلہ لینے اور نہ لینے کی آیتوں میں بظاہر تعارض کا جواب	4
255/6			621/10		
264/8	بروج کا لغوی و عرفی معنی	3	624/10	بدلہ لینے کے جواز میں احادیث	5
648/12					
649/12	بروج کے مصادیق میں اقوال مفسرین	4		بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے کے متعلق احادیث	6
650/12	بارہ برجوں کے معانی	5	622/10		
650/12	ستاروں کی بروج میں گردش	6		بدشگون	16
	سورۃ البروج	20		دیکھئے "24: شگون" صفحہ 155	1
	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1		برائی	17
645/12					
645/12	سورۃ البروج کے مشمولات	2		برائی ہمارے گناہوں کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے	1
645/12	سورۃ البروج کے متعلق احادیث	3	730/2		
646/12	سورۃ البروج سے مقصود	4	704/3	برائی کے موجد کو ذمہ لہذا	2
662/12	سورۃ البروج کا اختتام	5	705/3	دوسرے کے جرم کی سزا	3
	برائی سے روکنا	21		برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی نصیحت اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت میں اس کی مثالیں	4
	دیکھئے "79: امر بالمعروف ونہی عن المنکر" صفحہ 69	1	900-904		
	بسم اللہ الرحمن الرحیم	22	7		
	بسم اللہ کا معنی	1	657/9	برائی کو اچھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم	5
146/1			659/9	عجب الذنب کی تحقیق	6
147/1	بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ	2	503/10	بدی کے متعلق مفسرین کے اقوال	7
150/1	بسم اللہ میں رسول ﷺ کی طرف اشارہ	3		برکات مصطفیٰ ﷺ	18
151/1	بسم اللہ کے متعلق فقہی بحث	4			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	بغض	28	151/1	بسم اللہ کا آیت قرآنی ہونا	5
719/7	رسول اللہ ﷺ سے بغض رکھنا	1	152/1	بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کی جز نہ ہونا	6
	سورۃ البقرہ	29		بسم اللہ کا سورتوں کے شروع میں ان کی جز نہ ہونا	7
231/1	سورۃ البقرہ کا اجمالی تعارف	1	153/1		
232/1	سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ	2	155/1	بسم اللہ کو نماز میں آہستہ پڑھنا	8
	سورۃ البقرہ کا محل نزول اور آیات و حروف کی تعداد	3	157/1	بسم اللہ کے فوائد و حکمتیں	9
233/1			211/8 550/8	بسم اللہ کے معانی	10
234/1	سورۃ البقرہ کے فضائل	4		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مکاتیب میں بسم اللہ لکھنا	11
1027/1	سورۃ البقرہ کے افتتاح و اختتام میں مناسبت	5	681/8		
1030/1	سورۃ البقرہ آخری دو آیتوں کی فضیلت	6	212/9	بسم اللہ کے اسرار	12
	بلوغت	30		بسیار خوری	23
582/2	لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کا معیار	1	105/4	بسیار خوری کا اسراف ہونا	1
	ملکہ سبا بلقیس	31	105/4	بسیار خوری کی مذمت	2
660,661/8	ملکہ سبا کی تحقیق و تعارف	1	217/7	بسیار خوری کے دینی و دنیوی نقصانات	3
	بلقیس کی حکمرانی سے عورت کی حکمرانی پر استدلال	2	411/7	کھانے سے حد سے زیادہ بڑھنے کا معنی	4
664/8				بشارت	24
	عورت کو مردوں کے کسی بھی ادارہ کی سربراہ بنانا	3	208/10	بشارت دینا کیسا؟	1
667/8				بشر	25
669-672/8 675/8	عورت کو سربراہ مملکت بنانا	4		دیکھئے "85: انسان" صفحہ 70	1
675/8	تخت بلقیس کی صفت	5		بعث بعد الموت	26
679/8	بلقیس کو ہد ہ کا خط پہنچانا	6	838/9	بعث بعد الموت پر کفار کے اعتراض کا جواب	1
687/8	بلقیس کے بھیجے ہوئے ہدیہ کی تفصیل	7	838/9 870/9	بعث بعد الموت پر دلائل	2
	بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہونا	8		بغاوت	27
688/8			352/5	بغاوت کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
380/1	یہود کی بے عملی	4	688/8	تحت بلقیس منگوانے کی وجوہ	9
396/1	بنو اسرائیل پر فرعون کا عذاب	5		حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا تحت بلقیس کو حاضر کرنا	10
400/1	بنو اسرائیل کے لیے سمندر چیرنا	6	689/8		
401/1	بنو اسرائیل کی قبولیت توبہ	7		تحت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرنے کی کیفیت	11
404/1	بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر لے جانا	8	691/8		
405/1	ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا	9	694/8	بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل	12
405/1	میدان تہ میں بنو اسرائیل کی سرگرداگی	10	695/8	بلقیس کا نکاح	13
406/1	بنو اسرائیل کا خطہ کو خطہ کہنا	11		سورۃ البلد	32
407/1	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب	12	744/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
412/1	اسرائیل کی حکومت، یہود پر عذاب کے باوجود	13	744/12	سورۃ البلد کی سورۃ الفجر کے ساتھ مناسبت	2
417/1	بنو اسرائیل کے سروں پر پہاڑ معلق کرنا	14	744/12	سورۃ البلد کے مشمولات	3
419/1	موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونا	15	747/12	لا اقسام میں لفظ "لا" کے دو محمل	4
417/1	بنو اسرائیل کی گائے	16	750/12	سورۃ البلد کی تفسیر کی تکمیل	5
435/1	بنو اسرائیل کی تحریف	17	$\frac{747-752}{12}$	وانت حل بهذا البلد کی تفاسیر	6
754/1	بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا	18		سورۃ بنی اسرائیل	33
	بنو اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف	19	612/6	سورۃ کا نام	1
877/1	مسلمانوں اور نبی ﷺ کا جہاد کے لیے جانا			زمانہ نزول اور سورۃ النحل کی سورۃ بنی اسرائیل سے مناسبت	2
881/1	بنو اسرائیل کا تابوت	20	612/6		
127/3	بنو اسرائیل کی عہد شکنی	21	612/6	سورۃ بنی اسرائیل کے مشمولات	3
145/3	بنو اسرائیل کے انبیاء	22	816/6	اختتامی کلمات	4
146/3	بنو اسرائیل کے بادشاہ	23		بنو اسرائیل	34
	بنو اسرائیل کا اپنے زمانے میں سب سے	24	363/1	بنو اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں	1
146/3	افضل ہونا		363/1	بنو اسرائیل اور اللہ کے مابین عہد	2
149/3	میدان تہ میں بنو اسرائیل	25	370/1	بنو اسرائیل کی تلمییس اور کتمان حق	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				بنو اسرائیل کا دوبارہ اندھا اور بہرا ہونا	26
322/8	بنی اسرائیل کو کس زمین کا وارث بتایا گیا تھا؟	45	258/3	تبلغ نہ کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل پر لعنت	27
771/10	بنو اسرائیل کی فضیلت اور ان کی آزمائش	46	267/3	بنو اسرائیل پر نازل ہونے والا طعام	28
800/10	بنو اسرائیل کو دی گئی نعمتیں	47	368/3	بنو اسرائیل کو مصر اور شام پر قابض کرنا	29
	بغض و عناد کی بناء پر بنی اسرائیل کا حق سے انکار کرنا	48	283/4	بنو اسرائیل نے کون سا سمندر پار کیا تھا؟	30
801/10			286/4	بنو اسرائیل کی ناشکری اور احسان فراموشی	31
	بنو قریظہ	35	288/4	بنو اسرائیل کا پچھڑا بنانے اور اس کی پرستش کرنا	32
659/4	بنو قریظہ کی عہد شکنی	1	334/4	توبہ قبول کرنے کے باوجود بنو اسرائیل پر عذاب کی وعید	33
352/9	غزوہ بنو قریظہ کا مختصر تعارف	2		ستر اسرائیلیوں کا انتخاب	34
411/9	غزوہ بنو قریظہ کے متعلق احادیث	3	348/4	بنو اسرائیل کے بوجھ اور ان کے طوق کا اٹھانا	35
410/9	بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا	4	351/4	اللہ کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنو اسرائیل کی نافرمانیاں	36
	غزوہ بنو المصطلق	36	377/4	نافرمانی پر اصرار کرنے والے اسرائیلیوں کو بندر بنانا	37
901/11	غزوہ بنو المصطلق میں منافقین کا مسلمانوں سے جھگڑا کرنا	1	399/4	بنی اسرائیل کے گھروں کو قبلہ بنانے کے محامل	38
	غزوہ بنو قینقاع	37	402/4	بنی اسرائیل کی قوم فرعون سے نجات اور فرعون کا غرق ہونا	39
900/11	غزوہ بنو قینقاع میں منافقوں کے خلاف سازش کرنا	1	459/5	بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلانا	40
	غزوہ بنو نضیر	38	461/5	بنی اسرائیل کو آزمائش میں ڈالنا	41
802/11	غزوہ بنو نضیر	1	410/7	بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ	42
803/11	غزوہ بنو نضیر کی مزید تفصیل	2	417/7	بنی اسرائیل کو امامت اور بادشاہت سے نوازا	43
805/11	بنو نضیر کے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی تفصیل	3	771/8	بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی اور فرعون کا تعاقب	44
808/11	بنو نضیر کے درختوں کو کاٹنا اور چھوڑ دینا	4	772/8		
817/11	اموال بنو نضیر صرف مہاجرین کو عطا فرمانا	5	320/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/6	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں	3	831/11	بنو نضیر کو منافقین کا اور غلامانہ	6
665/10	اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کا ہونا محال ہے	4		بھاگنا (میدان جنگ سے)	39
634/10	مذکر و مؤنث کی پیدائش کی علامات	5	589/4	میدان جنگ سے پھپائی کی دو جائز صورتیں	1
636/10	بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	6	590/4	اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے کم یا دو گنا ہو تو پھر مسلمانوں کا بھاگنا جائز نہیں	2
667/10 703/10	فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں	7	591/4	میدان جنگ سے بھاگنے کا عموم یا خصوص	3
	بیٹا	45		بہتان	40
634/10	مذکر و مؤنث کی پیدائش کی علامات	1	133/4	اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا	1
	بیٹی کے ذکر کو بیٹے کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	2		بھولنا	41
634/10				دیکھئے "18: نسیان" صفحہ 267	1
	بیماری	46		بیع	42
337/8	عام لوگوں کی بیماری کے اسباب	1	1003/1	بیع مطلق و بیع سلم کی تعریف	1
338/8	بنی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیماری کے اسباب	2	1004/1	بیع سلم کی شرائط	2
339/8	بیماری کے متعلق عارفین کے اقوال	3		پکنے سے پہلے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی بغیر توڑے بیع	3
	بیعت	47	608/3		
377/8	جاہل پیروں کی بیعت کا حرام ہونا	1		بانگوں میں پھلوں کی مردجہ بیع کے جواز کی صورتیں	4
649/8	شیخ، امام یا امیر کی بیعت کا ضروری ہونا	2	609/3		
	حضور ﷺ کا اسلام لانے والی خواتین سے بیعت لینا	3		بیٹھنا	43
859/11			929/1	کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق	1
860/11	حضور ﷺ کی بیعت لینے کی کیفیت	4	930/1	چارزانو بیٹھنا	2
250/11	اصحاب بیعت رضوان کی فضیلت	5		بیٹی	44
251-255	کس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی؟	6	467/6	بیٹیوں کو عار سمجھنے کی مذمت	1
11				بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت کے متعلق احادیث	2
	سورۃ البینہ	48	468/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
253/8	پانی کی تفسیر	8	901/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
680/11	میٹھا پانی فراہم کرنے کی نعمت	9	904-906 12	البینہ: ۱، اور البینہ: ۴، میں تعارض کا جواب	2
	پرودہ	3	924/12	سورۃ البینہ کی تفسیر کا اختتام	3
	دیکھئے "12: حجاب" صفحہ 111	1		بیوی	49
	پرہیز	4		دیکھئے "14: زوجہ" صفحہ 142	1
	قرآن و حدیث سے پرہیز کے ثبوت کے دلائل	1			
510/6				پاک	1
	پرندہ	5	840/9	ہڈی کا پاک ہونا	1
389, 390/8 629/8	پرندوں کو پالنے کے متعلق احادیث	1		انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد	2
	پڑوسی	6	841/9	بالوں کا پاک ہونا	
	دیکھئے "4: جار" صفحہ 101	1		بال، ہڈی اور دیگر سخت و ٹھوس اجزاء کی	3
	پل صراط	7	841/9	طہارت میں مذاہب فقہاء	
	پل صراط پر کفار، مومنین اور فساق و صالحین کے احوال کے متعلق احادیث	1	842-850/9	رسول اللہ ﷺ کے فضائل کی طہارت کے متعلق احادیث	4
877/9					
	پناہ طلب کرنا	8		پانی	2
392/10	فتنہ باز لوگوں سے پناہ طلب کرنا	1	107/4	پانی پینے کے آداب	1
1046/12	اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا	2	108/4	کھڑے ہو کر پانی پینا	2
	پوسٹ مارٹم	9		وضو کے بچے ہوئے پانی اور آب زمزم کو	3
185/9	غیر مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کا جواز	1	112/4	کھڑے ہو کر پینا چاہیے	
185/9	مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کا عدم جواز	2	64/6	پانی کے ساتھ غیر اللہ کی تمثیل کے محامل	4
	پہاڑ	10	365/6	بارش کے پانی سے کھیتوں اور باغوں کی رسیدگی	5
712/12	پہاڑ میں نشانیاں	1	546/7	تمام چیزوں کی پانی سے پیدائش کے بارے میں ایک اشکال کا جواب	6
515/12	قیامت کے دن پہاڑوں کے چھ احوال	2		پانی سے ہر چیز کی حیات کے بارے میں	7
	پیش گوئی	11	547/7	سائنس کا نظریہ	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ت		526/8	علم نجوم کی بنیاد پر پیش گوئیاں	1
	تباہ	1	532/8	علم جفر کی بنیاد پر پیش گوئیاں	2
139/7	گذشتہ تباہ ہونے والی بستیاں	1		حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعے پیش گوئی	3
	تبلیغ	2	532/8		
244/3 249/3	تبلیغ رسالت	1	129/9	رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی	4
267/3	تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل پر لعنت	2		پیشہ	12
415/3	جن لوگوں کو قرآن وحدیث کی تبلیغ کی گئی	3		رزق حلال کی طلب کیلئے کسی بھی پیشہ کی فضیلت	1
403/4	تبلیغ کا فرض کفایہ ہونا	4	639/7		
485/5	رسول اللہ ﷺ نے انتہائی تبلیغ کر دی ہے	5	641/7	بعض پیشوں کو گھنیا اور باعث عار سمجھنا	2
	کیا حضور ﷺ نے کفار کے طعن و تشنیع کے خوف سے تبلیغ میں کمی کی؟	6	608/9	جائز پیشوں کی فضیلت	3
510/5			608/9	بعض پیشوں کو برا جاننے کی مذمت	4
742/6	تبلیغ میں نرمی اور حسن اخلاق	7		پیوند کاری	13
388/11	کفار کو تبلیغ کرنے سے منع کرنے کی توجیہ	8		ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوندی کاری کرنا	1
	تبیان القرآن	3	154/9	اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نکلوانا یا کھانا تغیر خلق اللہ ہے	2
1055/12	تفسیر تبیان القرآن کی تکمیل اور کلمات تشکر	1	159/9	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی ممانعت	3
1058/12	تبیان القرآن جلد ثانی عشر کی مفصل ڈائری	2		پیشواؤں	14
1059/12	تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری	3	160-169/9		
	غزوہ تبوک	4		قرآن وحدیث کے مقابلہ میں دینی پیشواؤں کو ترجیح دینا کیسا؟	1
135/5	غزوہ تبوک کی تیاری	1	122/5	احبار اور رہبان کا معنی	2
280/5	غزوہ تبوک کی تنگی اور سختی	2	121/5	یہودی اور عیسائی علماء کے مال کمانے کے ناجائز طریقے	3
255/5	غزوہ تبوک میں ساتھ جانے والوں کی چار قسمیں	3	126/5		
	عقیدہ تثلیث	5		پیدائش	15
192/2 886/2	عقیدہ تثلیث کا ابطال	1	169/6	تمام مخلوق کی پیدائش مبنی بر حکمت ہے	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	تخلیق	10	260/3 261/3	عقیدہ تثلیث	2
442-445	زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کی تفصیل	1		تجوید	6
10			172/1	مالک اور ملک کی قراءتیں	1
	مدبر	11		تحفہ دینا	7
520/2	مخلوق و خالق میں غور و فکر	1	685/8	ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا جواز	1
768/7	غور و فکر کرنے کا محل آباد ہے یا دماغ؟	2	195-197/9	معاوضے کی طلب سے کسی کو ہدیہ دینا	2
88/10	مدبر کا معنی	3		تحویل قبلہ	8
	قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کی ناقدری کرنا ہے	4	565/1	ابتدائی قبلہ	1
88/10			565/1	تحویل قبلہ کا بیان	2
	قرآن کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار کا ہدایت سے محروم ہونا	5	566/1	تحویل قبلہ کے مسائل	3
517/10			567/1	نماز میں ایک طرف منہ کرنے کے اسرار	4
	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	6	576/1	اہل کتاب پر تحویل قبلہ کا بھاری ہونا	5
798/10			577/1	نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا	6
	مدبیر	12	578/1	اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم	7
195/12	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر	1	582/1	قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت	8
	ترہیت	13	582/1	حضور ﷺ کے لیے اللہ کی ذات کا قبلہ ہونا	9
171/1	اللہ تعالیٰ کی ترہیت میں غور و فکر	1		کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر کرنے کی حکمتیں	10
	ترغیب	14	584/1		
117/2	ترغیب کا معنی	1	568/1	استقبال قبلہ کے فقہی مسائل	11
	ترہیب	15		سورۃ التحریم	9
117/2	ترہیب کا معنی	1	97/12	سورۃ کا نام	1
	تزکیہ	16	97/12	سورۃ المطلاق اور سورۃ التحریم میں مناسبت	2
698-700	تزکیہ نفس	1	98/12	سورۃ التحریم کے مشمولات	3
12			133/12	سورۃ التحریم کا اختتام	4
	تسبیح باری تعالیٰ	17			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
712/8	ویڈیو اور ٹی وی کی تصاویر کا شرعی حکم	8	723/6	کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے	1
713/8	پاسپورٹ کے فوٹو گراف کی رخصت	9	150/8	جانداروں اور بے جانوں کی تسبیح	2
612/9	تصویروں کا شرعی حکم	10	156/8	کنکریوں، طعام اور پرندوں کی تسبیح	3
	تصدیق	20		تسبیح کرنے والوں کی اقسام، مراتب اور درجات	4
518/11	تصدیق کی اقسام	1	500/9	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کبھی منقطع نہیں ہوتی	5
	تعظیم رسول ﷺ	21	864/11	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی اقسام	6
388/4	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم میں صحابہ کا عمل	1	713/11	اللہ تعالیٰ کے اسم کی تسبیح کی توجیہات	7
388/4	وصال کے بعد بھی حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر	2	704/11	رات کو اٹھ کر تسبیح پڑھنا	8
389/4	رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا ادب و احترام	3	341/11	کسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا	9
390/4	رسول اللہ ﷺ کا ادب قرآن مجید کے عمل پر مقدم ہے	4	467/11	تسبیح کا معنی	10
	تعلیم/تعلیم	22	683/12 1020/12	تصوف	18
177/7 257/9	تعلیم و تعلم کے آداب	1		تصوف کے جھوٹے مدعی	1
	تعویذ	23	194/7	تصویر	19
	دیکھئے ”48: علاج“ صفحہ 183	1		تصویر بنانے کا شرعی حکم	1
	تعظیم خداوندی	24	708/8	جاندار کی تصویر بنانے کی تحریم	2
779/9	تعظیم خداوندی قدوس کی تفصیل	1	708/8	بے جان کی تصویر بنانے کا جواز	3
	تعریض	25	709/8	تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء شافعیہ و مالکیہ کا نظریہ	4
604/7	جھوٹ سے بچنے کیلئے کلام میں تعریض استعمال کرنا	1	709/8	تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء احناف کا نظریہ	5
606/7	تعریض اور کنایہ کا فرق	2	710/8	تصویر بنانے کے حکم میں علماء اہل برکات کا نظریہ	6
606/7	قرآن و احادیث میں تعریض کا استعمال	3	711/8	تصویر بنانے کے حکم میں علامہ غلام رسول سعیدی کا نظریہ	7
901/9	تعریض کی تعریف اور اس کے ثبوت میں احادیث	4	711/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
245/1	تقویٰ کے متعلق احادیث	3		تعجب	26
246/1	تقویٰ کے مراتب	4	870/9	تعجب کے معنی	1
285/2	اللہ سے ڈرنے کا حکم	5		سورۃ التغابن	27
287/2	تقویٰ کا معنی	6	909/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
286/2	تقویٰ کے متعلق احادیث	7	909/11	سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن میں مناسبت	2
707/7	تقویٰ کی تعریف اور اس کی ضرورت	8	910/11	مسححات اور آخری چھ سورتوں میں ارتباط	3
147/11	تقویٰ کے مصداق میں متعدد اقوال	9	910/11	سورۃ التغابن کے مشمولات	4
263/11	کلمہ التقویٰ کے متعلق متعدد اقوال	10	921/11	سورۃ التغابن کا اختتام	5
278/11	تقویٰ کو پرکھنے کا معنی	11		تفسیر کبیر (للامام رازی)	28
149/12	تقویٰ کا بیان	12		مفتی محمد شفیع کانپوری کا تفسیر کبیر کو امام رازی کی تفسیر نہ قرار دینا	1
	تقلید	31	916/12		
629/1	تقلید کی تعریف	1	917/12	ابوالکلام آزاد کی تفسیر کبیر پر مبہم تنقید	2
733/2	تقلید کا حجت ہونا	2	918/12	تفسیر کبیر کے محاسن	3
341/3	تقلید مذمومہ اور تقلید محمودہ	3		تفسیر	29
637/3	تقلید صحیحہ اور تقلید باطل کا فرق	4	118/1	تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی	1
294/5	تقلید شخصی پر دلائل	5	119/1	تفسیر کے اصطلاحی معنی	2
	مسئلہ تقلید پر فاسنوا اہل الذکر سے استدلال	6	120/1	تفسیر اور تاویل میں فرق	3
428/6			121/1	تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل	4
	مذکورہ استدلال پر نواب صدیق حسن خان کے اعتراضات کے جوابات	7	121/1	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث	5
429-432/6			124/1	قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے طبقات	6
432/6	تقلید کا لغوی و اصطلاحی معنی	8	58/1	تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانا	7
433/6	قرآن کریم سے تقلید پر استدلال	9		تقویٰ	30
433/6	احادیث سے تقلید پر استدلال	10	242/1	تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی	1
434/6	آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے تقلید پر استدلال	11	243/1	تقویٰ کا اصطلاحی معنی	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	قصہ یوسف میں تقدیر کے غالب آنے کی مثالیں	7	444/6	غیر مقلد علماء کی عبارات سے تقلید پر استدلال	12
728/5			446/6	تقلید کی ضرورت	13
119/6	قضاء معلق اور قضاء مبرم	8		ایک مقلد کے لیے متعدد ائمہ کی تقلید کا عدم جواز اور تقلید شخص کا وجوب	14
652/8	تقدیر کا تدبیر پر غالب آنا	9	448/6		
	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کے جوابات	10	449/6	تقلید پر امام غزالی کے دلائل	15
965-968/9			450/6	تقلید پر امام رازی و آمدی کے دلائل	16
	منکرین تقدیر کے متعلق احادیث اور ان سے تعلقات کا شرعی حکم	11	451/6	تقلید پر شیخ ابن تیمیہ کے دلائل	17
415/10			451/6	مسئلہ تقلید میں حرف آخر	18
913/11	تقدیر پر ایک مشہور اشکال کا جواب	12	340/7	مقلد کے ایمان کا صحیح ہونا	19
597/11	مسئلہ تقدیر	13	523/7	مسئلہ تقلید	20
597/11	تقدیر کے متعلق علماء اہل سنت کے اقوال	14	151/8	تقلید مخطی اور تقلید مصیب کی تعریف	21
598/11	تقدیر کے متعلق احادیث	15	67/9	عقائد میں اندھی تقلید کا مذموم ہونا	22
71/12	تقدیر کے متعلق قرآن کی آیات	16	273/9	تقلید اور عقیدہ کافرق	23
72/12	تقدیر کا لغوی و اصطلاحی معنی	17	273/9	عقائد میں تقلید کا جواز یا عدم جواز	24
72/12	تقدیر کا کھوج لگانے کی ممانعت	18	375/10	تقلید کی تحقیق	25
73/12	خلق اور تقدیر کا فرق	19		تقدیر	32
74/12	قضاء معلق اور قضاء مبرم	20	154/5 537/5	مسئلہ تقدیر	1
75/12	تقدیر کے متعلق احادیث	21		جب انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں شقی ہونا لکھ دیا تو پھر معصیت میں اس کا کیا تصور ہے؟	2
770-774 12 785/12	جبر	22	625/5		
686/12	تقدیر کے متعلق آیات و احادیث	23	625/5	تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کے متعلق احادیث	3
248/12	تقدیر مبرم اور تقدیر معلق	24	626/5	قضاء مبرم کو کوئی نہیں ٹال سکتا	4
249/12	ہدایت اور گمراہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا	25	626/5	تقدیر پر ایمان لانا	5
	تقسیم کرنا	33	627/5	تقدیر میں بحث کرنا	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
151/10	تکبر کی مذمت میں احادیث	15	323/6	تقسیم کرنے والے	1
287/10	تکبر کی تعریف اور تکبرین کا حشر	16		تقویم	34
734/11	تفاخر کی مذمت میں حدیث	17	716/1	اسلامی تقویم	1
	تکلف	37	132/5	عبادات و معاملات میں قمری تقویم کا اعتبار	2
156/10	تکلف اور متکلفین کا معنی	1	328/5	تاریخ کا تعیین قمری حساب سے کرنا چاہیے	3
157/10	تکلف اور تصنع کی مذمت میں احادیث	2		تقیہ	35
	سورۃ التکویر	38	112/2	تقیہ کی تعریف، اقسام اور شرعی حکم	1
584/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	113/2	تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ	2
584/12	سورۃ التکویر کے مشمولات	2	115/2	تقیہ کے متعلق آئمہ اہل سنت کا نظریہ	3
603/12	سورۃ التکویر کا اختتام	3		تکبر	36
	سورۃ الحکاکثر	39	340/1 318/4	تکبر کا معنی	1
955/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	340/1	ابلیس کے تکبر کا بیان	2
966/12	سورۃ الحکاکثر کی تفسیر کی تکمیل	2	739/1	نسلی تفاخر	3
	تلاوت کلام پاک	40	528/2	غرور کا معنی	4
677/9	تلاوت قرآن پاک کے آداب	1	75/4	تکبر کرنے والے کے لیے ذلت اور پستی	5
692/11	جنبی اور حائض کے لیے تلاوت قرآن پاک	2	319/4	تکبر کی مذمت میں قرآنی آیات	6
	تمباکو نوشی	41	320/4	تکبر کی مذمت میں احادیث طیبہ	7
305/3	تمباکو نوشی کا شرعی حکم	1	321/4	تکبر کی وجہ سے کپڑے منخنوں سے نیچے لٹکانا	8
	تہجد	42	322-331/4	بغیر تکبر کے کپڑے منخنوں سے نیچے لٹکانا	9
773/6	تہجد کا معنی	1	552/5	تکبر کی مذمت	10
773/6	تہجد کی رکعات	2	395/6 716/6	تکبر کی مذمت کے متعلق احادیث	11
774/6	تہجد کا نفل ہونا	3	396/6	متکبرین کی مغفرت	12
472/8	تہجد کی نماز کی فضیلت و اہمیت	4	715/6	اکڑا کڑ کر چلنا	13
			114/7	بیویوں اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنا	14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
84/2	کوئی بھی توبہ سے مستغنی نہیں	4	183/10	تہجد کی نماز کے فضائل	5
86/2	استغفار کی فضیلت	5	337/12	نماز تہجد پڑھنے کے حکم میں مذاہب فقہاء	6
375/2	توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی نوید	6	338/12	تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا	7
378/2	توبہ کی تعریف، ارکان اور شرائط	7	338/12	نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات	8
379/2	گناہوں کو معین کر کے توبہ کرنا	8	347/12	تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	9
610/2	جہالت سے گناہ کرنے پر توبہ	9	354/12	تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرنے کی توجیہ	10
611/2	موت کے وقت توبہ کی مقبولیت	10	353/12	نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟	11
349/4	توبہ کی حقیقت	11		توسل	43
611/4	ابولبابہ انصاری کی توبہ	12	187/1	وسیلہ کا معنی	1
200/5	جلاس بن سوید کی توبہ	13	188/1	انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ	2
246/5	ابولبابہ کی توبہ	14	196/1	توسل بعد از وصال پر اعتراضات کے جوابات	3
278/5	نبی ﷺ کا توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قبول کرنے کی توجیہ	15	198/1	توسل بعد از وصال کے متعلق علماء کرام کے نظریات	4
279/5	مہاجرین اور انصاری کی توبہ قبول کرنے کا محل	16	448/1	حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا	5
281/5	اللہ تعالیٰ کا بار بار توبہ قبول فرمانا	17	171/3	وسیلہ بمعنی ذریعہ تقرب	6
282/5	حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ قبول ہونے کی تفصیل	18	171-173/3	انبیاء اور اولیاء کے وسیلہ سے دعا کرنا	7
494/5	استغفار کے حکم کے بعد توبہ کے حکم کی توجیہ	19	174/3	وسیلہ بمعنی درجہ جنت	8
157/6	توبہ کرنے کی ترغیب میں احادیث	20	174/3	دعا اذان میں حدیث شفاعت کی تحقیق	9
105/10	توبہ کی اقسام	21	175/3	دعا اذان کے بعض دیگر کلمات کی تحقیق	10
139/10	تائب کے لیے بری جگہ اور برے لوگوں کو چھوڑ دینے کا استحباب	22	176/3	وسیلہ بمعنی مرشد کامل	11
285/10	توبہ کی ضرورت کیوں؟	23		توبہ	44
424/10	توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟	24	617/1	توبہ کا معنی	1
				قرآن و سنت میں توبہ کا بیان	2
				توبہ کے قبول ہونے کی شرائط	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
315/4	تورات کے احکام کا درجہ بدرجہ ہوتا	15		توبہ کا لغوی و عرفی معنی اور اس کے متعلق احادیث	25
341/4	تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈالنا	16	591/10		
316/4	الواح تورات میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ ﷺ کی امت کی خصوصیات	17	114/12	حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو توبہ کا حکم دینے کی توجیہ	26
351/4	تورات کی تختیاں نوئی تھیں یا نہیں	18	406/12	توبہ نہ کرنا	27
	احکام تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہود کی مذمت	19	127/12	توبۃ النصوح کی تعریف	28
882/11			128/12	توبہ کرنے سے گناہوں کا معاف ہونا	29
	موجودہ تورات کے متن میں حضور ﷺ کے متعلق بشارتیں	20		تورات	45
882/11			38/2	توراة کا معنی	1
	توکل	46	38/2	پرانے عہد نامے کے مشمولات	2
431/2	توکل کا معنی	1	39/2	اصل تورات کے مشمولات	3
	توکل کے متعلق قرآن کی آیات و احادیث طیبہ	2	39/2	موجودہ تورات کے متعلق یہودی، عیسائی اور منکرین کا نظریہ	4
432/2			40/2	تورات کا تلف ہو جانا	5
433/2	توکل کی صحیح تعریف	3	40/2	تورات کی نشاۃ ثانیہ	6
435/2	کیا اسباب کو ترک کرنا توکل ہے؟	4		موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبوت میں داخلی شہادتیں	7
438/2	کیا اشیاء کو جمع کرنا توکل کے خلاف ہے؟	5	41/2	اصل تورات کے متعلق قرآن کے ارشادات	8
	اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا	6	43/2	موجودہ تورات کا محرف ہونا	9
439/2			44-52/2	تورات میں تحریف	10
227/4 420/6 111/9	توکل کا معنی و مفہوم	7	129/3 191/3 584/3		
227/4	دم کرانے پر توکل	8	197/3	موجودہ تورات میں آیت رجم	11
229/4	توکل کی تعریف پر اشکال و جواب	9	201/3	قرآن کی صداقت	12
81/6	توکل کا غلط مفہوم	10	313/4	تورات کی تختیوں کا مادہ، تعداد اور تاریخ نزول	13
82/6	توکل کا صحیح مفہوم	11	314/4	تورات میں ہر چیز کی تفصیل	14
153/7	کیا سفر میں زاوراہ لینا توکل کے خلاف ہے؟	12			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
312/5	سورۃ التوبہ کی آخری آیت کی فضیلت	11	468/8	توکل کی تحقیق	13
	سورۃ التوبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	12	469/8	حق توکل کا معنی	14
			469/8	کیا اسباب کو ترک کرنا توکل میں شامل ہے؟	15
405/9			470/8	توکل کی تعریف میں صوفیاء کے اقوال	16
			287/10	متوکلین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا	17
	توہین رسالت	49	198/12	اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تلقین	18
	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق احادیث و آثار	1	70/12	توکل کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	19
79/5				تواضع	47
	توہین رسالت کرنے والے غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء	2	75/4	تواضع کرنے والے کے لیے سربلندی	1
79/5			552/5	تواضع کی تعریف	2
	شریعت کی توہین کرنے والا تورات کی تصریح کے مطابق واجب القتل ہے	3		سورۃ التوبہ	48
85/5			35/5	سورۃ التوبہ کے اسماء اور وجہ تسمیہ	1
	نبی ﷺ کی شان میں توہین کا لفظ کہنا کفر ہے اگرچہ توہین کی نیت نہ ہو	4	36/5	سورۃ التوبہ کے اسماء کے متعلق احادیث	2
184/5			37/5	سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کی باہمی مناسبت	3
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توہین کرنے والے کی شدید مذمت	5	38/5	سورۃ التوبہ کا زمانہ نزول	4
1033/12			39/5	سورۃ التوبہ کے نزول کا پیش منظر و پس منظر	5
	توحید باری تعالیٰ	50	41/5	سورۃ التوبہ کے مسائل و مطالب	6
361/5				سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی توجیہات	7
	سورج و چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	2	43/5	سورۃ التوبہ سے قبل بسم اللہ پڑھنے میں مذاہب ائمہ	8
36/6			45/5	سورۃ التوبہ کے مدنی ہونے سے بعض آیتوں کا استثناء	9
	زمینوں، درختوں اور پھلوں سے توحید باری پر استدلال	3	47/5	سورۃ التوبہ کی آخری آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے یا نہیں؟	10
39/6			309-312		
	زمین کے مختلف طبقات سے توحید باری پر استدلال	4	5		
41/6					
	مختلف ذائقوں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	5			
42/6					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
762/9	دن اور رات کے توارد میں توحید باری تعالیٰ پر استدلال	20	354,461 479,722/6 380/7 238,674	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	6
837/9	توحید کی ترغیب	21	859/9		
135/10	اللہ تعالیٰ کے غالب ہونے سے اس کی توحید پر استدلال	22	366/6	زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی	7
22/10	اللہ تعالیٰ کی توحید پر آسان اور عام فہم دلیل	23		سورج اور چاند سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر نشانی	8
509/10	توحید باری تعالیٰ پر دلیل	24	367/6		
659/10	ازواج کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	25	379/6	اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال	9
660/10	چوپایوں اور کشتیوں کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	26	696/7	صرف توحید کی وحی کی جانے پر اعتراض کا جواب	10
788/10	آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	27	252/8	بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل	11
789/10	انسانوں، حیوانوں اور درختوں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	28	303/8	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر دلائل	12
789/10	رات اور دن کے اختلاف سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	29	715/8	زمین کی خصوصیات سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	13
789/10	بارش سے روئیدگی اور ہواؤں سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	30	65/8	عقیدہ توحید کی تعلیم	14
806/10	توحید کے مراتب	31	135/9	انسان کے اپنے نفس اور خارجی کائنات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	15
149/11	حضور ﷺ پہلے سے اللہ کی توحید کے عالم تھے	32	145/9	انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	16
667/11	تخلیق انسان سے توحید باری پر استدلال	33	146-150/9	کائنات کی دیگر کئی اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	17
374/11	انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں	34	238/9	توحید کی فضیلت	18
375/11	عالم کبیر کی نشانیوں کے مقابلے میں عالم صغیر کی نشانیاں	35	760/9	زمین کی روئیدگی سے توحید باری تعالیٰ پر استدلال	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				ثواب کے درجات	2
357/6	گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں سے علیحدہ ذکر کرنا	13	445/2	مومنوں کو ثواب عطا فرمانے کا وجوب اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی وجہ سے ہے	3
357-359/6	گھوڑوں کا گوشت حرام ہوتا	14	480/5	ثواب کا بیان	4
360/6	پالتوں گدھوں اور خچروں کا گوشت	15	62/9	ثواب میں اضافہ	5
389/8	جانوروں کو پالنے کے متعلق احادیث	16	894/12	قوم شمود	4
389-390/8	موذی جانوروں کو قتل کرنا	17		دیکھئے "2: حضرت صالح علیہ السلام" صفحہ 159	1
652/8	تریت دینے کے لیے جانوروں کو مارنا	18			
662/10	جمال کا معنی اور مویشیوں کا جمال	19			
356/6 663/10	جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے کی ہدایت	20			
	جاہل / جہالت	2			
382/1	جاہل کا وعظ، تقریر اور مرید کرنا	1	803/2	جانور	1
472/1	علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حکماً جہل ہے	2	633/7	مویشیوں کے کان چیرنا	1
645/3	جہل کے مراتب	3	634/7	مویشیوں میں اللہ کے حقوق	2
151/8	جہل مرکب	4	634/7	مویشیوں میں بندوں کے حقوق	3
612/8	جہل کی مذمت	5	634/7	مویشیوں کو گاہن کرنے کی اجرت	4
585/9	انسان کے جاہل ہونے کی توجیہ	6	635/7	رہن رکھے ہوئے مویشیوں سے استفادہ	5
	جادو	3	636/7	مویشیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا	6
461/1	سحر کا معنی	1	35/3	جانوروں کے ذبح کرنے پر اعتراض کا جواب	7
462/1	سحر کے دلائل مع اعتراضات کے جوابات	2		جس جانور کو درندوں نے کھا لیا ہو، اس کا حکم	8
465/1	سحر کے شرعی حکم کے متعلق مذاہب اربعہ	3	56/3	حرام جانور	9
468/1	حاروت ماروت پر سحر	4	84/3	جانوروں کے حساب و قصاص کے متعلق احادیث	10
257/4	سحر کی تعریف	5	451/3	جانوروں کے انسانوں سے وجوہ مماثلت	11
257/4	سحر اور معجزہ میں فرق	6	452/3	بکریوں، گایوں، اور اونٹوں کے مقاصد و وظائف خلقت	12
259/4	سحر اور ساحر کا شرعی حکم	7	355/6		
			662/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
842/11	جاسوس کا شرعی حکم	1	259/4	سحر کے سیکھنے اور سکھانے کا حکم	8
300/11	ملک کے داخلی و خارجی استحکام کے لیے حکمہ جاسوسی قائم کرنا	2	260/4	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ	9
	جان بچانا	6	262/4	جادوگروں کا ایمان لانا	10
537/5	جان بچانے کے وجوب پر بعض مسائل کی تعریف	1	391/7	جادوگروں کی تعداد	11
	سورۃ الجاثیہ	7	393/7	جادوگروں کو لائیاں ڈالنے کا حکم دینا	12
784/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	395/7	ساحر کا میاں نہیں ہوتا	13
784/10	سورۃ الجاثیہ کے مشمولات	2	396/7	سحر کی تعریف و شرعی حکم	14
	سورۃ الجاثیہ اور سورۃ البقرہ، دونوں میں کانوں اور دلوں پر مہر لگانے کے الگ الگ محامل	3	397/7	جادو سے کسی چیز کی حقیقت کا تبدیل ہونا	15
813/10	جاثیہ کی تاویلات	4	399-401 7	فرعون کے جادوگروں کا ایمان لانا	16
825/10	سورۃ الجاثیہ کا اختتام	5	310/8	سحر کو صرف تکمیل اور مسریم قرار دینا کیسا؟	17
826/10	جبریہ	8	311/8	سحر کا لغوی و اصطلاحی معنی	18
674/2	جبریہ کا رد اور ایمان میں تقلید کا کافی نہ ہونا	1	313/8	سحر اور کرامت میں فرق	19
	جبر و قدر	9	313/8	سحر کے واقع ہونے کے دلائل	20
459-470 12	جبر و قدر کے مسئلہ میں مفسرین و محدثین کی تقاریر	1	315/8	سحر کی اقسام	21
770-774 12 785/12	جبر و قدر	2	316/8	فرعون کے ساحروں کا ایمان لانا	22
	جبر و قدر کے مسئلہ میں مفسرین و محدثین کی تقاریر	1	317/8	فرعون کا اپنے جادوگروں پر الزام تراشی کرنا	23
	جبر و قدر	2	319/8	جادوگروں کا اول المؤمنین ہونا	24
	جبر و قدر	2	730-734/6	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کیا جاتا	25
	جبر و قدر	2	735/6	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جادو کا اثر	26
	جبر و قدر	2	1048-1050 12	رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر	27
427/8	جبر و قدر کا معنی	1		جبار (پڑوسی)	4
427/8	طبیعت، خصلت، خلق اور عادت کا فرق	2	671/2	پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنا	1
428/8	جبر و قدر کے متعلق احادیث	3		جاسوس	5

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
4	خصلت و عادت کا معنی	434/8	4	جزاء کا مدار اعمال اور اسباب دونوں پر ہے	181/10
5	کیا عادت کا بدلنا ممکن ہے یا نہیں؟	434/8	5	مؤمنوں اور کافروں کی جزاء کے متعلق احادیث	821/10
11	حضرت جبریل علیہ السلام		6	نیکو کار اور بدکار کی پوری پوری جزاء	95/11
1	ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا مراد ہونا	352/6	7	جس عمل میں زیادہ مشقت ہو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے	718/11
2	حضرت جبریل علیہ السلام کا زیادہ نہ آنا	303/7	8	نیکی کی جزاء کی تفسیر میں احادیث و آثار	636/11
3	حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہنا	441/8	9	کفار کی جزاء اور مومنوں کی جزاء میں امام رازی کی نکتہ آفرینی	442/11
4	کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کے علاوہ دیگر احکام کی بھی آپ ﷺ پر وحی نازل کی؟	442/8	10	مومن اور کافر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ	939/12
5	حضرت جبریل علیہ السلام کی شدت قوت اور نبی ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبار دیکھنا		11	جزاء اور عطا میں بظاہر تعارض کا جواب	532/12
6	حضرت جبریل علیہ السلام کی چھ صفات کا تذکرہ	487/11	12	آخرت میں مسلمین اور مجرمین کی جزاء	190/12
7	حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کی اتباع کا معنی	594/12	14	جزیہ	
8	حضرت جبریل علیہ السلام کے فعل کو اللہ سبحانہ کا فعل قرار دینا	412/12	1	جزیہ کا معنی	115/5
9	حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کے معانی پوچھنے کی ممانعت	413/12	2	جزیہ کن سے وصول کیا جائے؟	116/5
12	جدال		3	جزیہ کی مقدار میں مذاہب فقہاء	117/5
1	دیکھئے "31: جھگڑنا" صفحہ 107		15	جلد بازی	
13	جزاء		1	عجلت کا انسان کی فطرت میں شامل ہونا	585/7
1	عدل کے ساتھ جزاء دینے کی توجیہ	327/5	2	عجلت کی بناء پر کفار کی مذمت	585/7
2	جب ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس پر جزاء و سزا کیوں؟	98-100/7	16	جمعة المبارک	
3	رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء	278/8	1	جموعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں میں اضافہ	56/5
			2	جس جمعہ کو یوم عرفہ ہو اس دن حج اکبر ہوتا	58/5
			3	جموعہ کے دن حج کے متعلق اقوال مفسرین	59/5
			4	جموعہ کے دن حج کے متعلق اقوال فقہاء	60/5
			5	مسلمانوں کا جمعہ کے دن ہدایت کو پانا	598/6
			6	جموعہ کے متعلق احادیث	874/11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
874/11	سورۃ کا نام	1	885/11	جمعہ کی وجہ تسمیہ	7
875/11	سورۃ الجمعہ کا زمانہ نزول	2	886/11	نماز جمعہ کے متعلق احادیث	8
875/11	سورۃ الجمعہ کے مشمولات	3	887/11	نماز جمعہ کے ضروری مسائل	9
893/11	سورۃ الجمعہ کا اختتام	4	888/11	جمعہ کی سعی، اذان اول پر لازم ہے یا ثانی پر؟	10
	جمہوریت	21		عید اور جمعہ دونوں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو دونوں کو پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟	11
85/10	موجودہ مغربی جمہوریت اور اسلامی ریاست کا فرق	1	889/11	نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنا	12
	جنت	22	891/11	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	13
317/1	جنت کا معنی، اس کی ترغیب اور اس کی طلب	1		خطبہ جمعہ کے دوران صحابہ کے اٹھ کر چلے جانے کی توجیہ	14
320/1	جنتی عورتیں اور حوریں	2	892/11		
	جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ عورت جنت میں کس کے ہمراہ ہوگی؟	3		جماعت	17
321/1	جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا	4		جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	1
	جنت میں ناپاک خواہشات کی عدم موجودگی	5	371/1	نوافل کی جماعت کا شرعی حکم	2
741/1	جنت کی طلب کی دعا کرنا	6	373/1	جماع	18
500/2	جنت طلب کرنا کیسا؟	7		عورتوں سے عمل معکوس کرنا	1
719/2	اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا	8	411/8	جنسی عمل کا تذکرہ کنایہ سے کرنا	2
	دخول جنت کا سبب اللہ کا فضل ہے نہ کہ اعمال کا	9	410/8	تہذیب اور شائستگی کا تقاضا ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ سے تعبیر کیا جائے	3
408/3	اہل جنت کے دلوں سے دنیا کی رنجش کا محو ہونا	10		جمادات	19
141/4	جنت میں دخول کا حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے	11	579/9	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر قرآن سے استدلال	1
143/4	دخول جنت کے لیے اعمال کو سبب قرار دینا	12		جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر احادیث سے استدلال	2
	دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہیں اور جنت کی نعمتیں	13	580/9	جمادات سے کلام کرنے کی توجیہ	3
190/5			581/9	سورۃ الجمعہ	20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جنت میں مردوں کے لیے سونے چاندی	33	194/5	جنت کی تخفیف	14
727/7	کے زیورات کی تخصیص		330/5	اہل جنت کی گفتگو کا معمول	15
859/7	کن صفات کا حامل جنت میں داخل ہوگا؟	34	353/5	جنت کے داعی کے متعلق احادیث	16
859/7	الفردوس کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	35	649/3 354/5	جنت کو دار السلام کہنے کی وجوہات	17
860/7	جنت کے وارث ہونے کا معنی	36		حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی کو جنت عطا کرنے کا اختیار تھا	18
222/8	جنت میں ہر چاہی ہوئی چیز کا ملنا	37	876/5		
360/8	جنت کی صفات	38	86/6	جن صفات کی بناء پر جنت عطا کی جاتی ہے	19
361/8	جنت کس جگہ پر واقع ہے؟	39		جنت الفردوس کو طلب کرنے کی دعا کرنی چاہیے	20
557/8	جنت کی تعریف و تحسین	40	86/6		
563/8	جنت کی تخفیف نہ کی جائے	41		جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مجتمع ہونا بھی نعمت ہے	21
615/8	اپنے آپ کو جنتی کہنا	42	87/6		
107/9	جنت کے بالا خانوں کا مستحق کون؟	43		جنت میں مومنوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق احادیث	22
140/9	جنت میں سماع کی تحقیق	44	88/6		
	اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ	45	104/6	جنت کی صفات	23
337/9				جنت نہ بنائے جانے کے متعلق معتزلہ کے دلائل اور ان کا رد	24
508/9	جنت کا حصول اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے	46	104/6		
796/9	جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کا مخلوق ہونا	47	178/6	جنت میں سلام کا معنی	25
797/9	جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات	48	103/7	جنت کی نعمتیں	26
798/9	جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا	49	106/7	جنت اور اس کے مطلوب کا معنی	27
	اہل جنت پر اللہ کا سلام اور اس کی عظمت و انفرادیت	50	219/7	جنت الفردوس کا مقام	28
800/9			219/7	جنت کے فضائل	29
127/10	جنت عدن کے متعلق احادیث و آثار	51	221/7	جنت کو کم تر کہنا	30
128/10	جنت کے دروازے کھلنے کے سر اور نکات	52	302/7 316/7	جنت اور جنتیوں کی صفات	31
129/10	متقین کے لیے جنت کی نعمتیں	53	487/7	جنت کی نعمتوں کی قدر دلانا	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جس عورت کے متعدد شوہر ہوں وہ جنت میں کس کے پاس رہے گی؟	73	213/10	جنت کے بالا خانے	54
639/11			254/10	اہل جنت کے دلوں کا حسد اور کینہ سے پاک ہونا	55
336/11	اہل جنت کے لیے غیر مترقبہ نعمتیں	74	778/10		
448/11	جنت کے پھلوں اور گوشت کی صفات	75	361/10	جنت کی نعمتیں اور اس میں اللہ کا دیدار	56
448/11	اہل جنت کے مخمور ہونے کی کیفیات	76		ایک فریق کا جنتی اور دوسرے فریق کا دوزخی ہونا	57
449/11	مسلمان کی صفات اور ان کے مصادیق	77	545/10		
450/11	اہل جنت کا باہمی مکالمہ	78	727/10	جنت کی وراثت کی توجیہ	58
919/12	مؤمنین صالحین کو جزاء میں دائمی جنت عطا فرمانا	79	781/10	اہل جنت کی دائمی نعمتیں	59
	مؤمنین صالحین اور مؤمنین تائبین کو ایک سے زائد جنت دینا	80		شہداء اور صالحین کے لیے دخول جنت میں آسانیاں	60
920/12			138/11		
	کوئی مسلمان اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے	81	145/11	جنت میں انواع و اقسام کے مشروبات	61
923/12				جنت میں دخول کے بعد مغفرت کے ذکر کی توجیہات	62
710/12	جنت میں لغویات نہ سننے کی وجوہ	82	145/11		
710/12	جنت کے چشمے، گلاس، فرش اور تکیے	83	735/11	حصول جنت کا حقیقی اور ظاہری سبب	63
630/12	جنت میں ابرار کی نعمتیں	84	658/11	جنت کے پرندوں کی کیفیت	64
613/12	جنت کا ثواب	85	661/11	جنت کی بیویوں، کیلوں اور درختوں کی صفات	65
563/12	جنت کی صفات کے متعلق احادیث	86	662/11	اہل جنت کی بیویوں کی کیفیات	66
531/12	اہل جنت پر نوازشیں	87	659/11	حوروں کا حسن و جمال	67
447/12	جنت میں ابرار کو ملنے والے نعمتیں	88	628/11	دو جنتوں کے مصداق میں احادیث و آثار	68
	جنت میں چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال	89	632/11	جنت کے چشموں کی کیفیت	69
448/12			633/11	جنت کے بستروں اور پھلوں کی کیفیت	70
449/12	جنتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی توجیہ	90		جنت کے درختوں، چشموں اور پھلوں کی نعمت	71
450/12	جنتیوں کی سلطنت	91	637/11		
210/12	جنت کی بلندی اور اس کی نعمتوں کی تفصیل	92	638/11	آیا جنت میں مؤمنوں کی بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی حوریں؟	72

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جنات کا قرآن سن کر رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانا	19		جن	23
109/11			653/3	جنات کے لیے رسولوں کے ذکر کی توجیہ	1
114/11	آیا اطاعت گزار جنات کو ثواب ہوگا یا نہیں؟	20	655/3	مومن جن جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں؟	2
634/11	جنات کا جنت میں داخل ہونا	21	656/3	جنات کے دخول جنت کے متعلق علماء کی آراء	3
633/11	انسان عورتوں کے ساتھ جنات کا جماع کرنا	22	656/3	مسلمان جنوں کا جنت میں داخل ہونا یا نہ ہونا	4
393/11	جنات کی وجہ تخلیق	23		جنات کا انسانوں کو دیکھنا اور انسانوں کا ان کو دیکھنا	5
271/12	الجَنّ کا لغوی و اصطلاحی معنی	24	91/4		
272/12	جنات کے متعلق فلاسفہ اور مفکرین کی آراء	25	93/4	جنات کا انسانوں پر تصرف	6
274/12	جنات کے متعلق مفسرین کی آراء	26	177/6	انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی	7
275-280 12	کیا حضور ﷺ نے جنات کو دیکھا تھا؟	27	288/6	انسانوں پر جنات کے تسلط کا رد	8
280/12	انسان کے جسم میں جنات کا تصرف	28	645/7	جنات پر رسول اللہ ﷺ کا تصرف	9
281/12	جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان سے برأت کا اظہار کرنا	29	645/7	جنات کا نبی ﷺ کی شریعت کا متحمل ہونا	10
283/12	فرشتوں کی باتوں کو جنات سے محفوظ رکھنا	30	642/7	جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا	11
283/12	جنات کے فرقے	31	646/7	جنات کا آپس میں اور انسانوں کے ساتھ نکاح	12
	سورة الجن	24	864-870/9	جنات کا فرشتوں کی باتیں سننا	13
267/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1		جنات کا نماز فجر میں رسول اللہ ﷺ سے قرآن سننا	14
268/12	سورة الجن کے مشمولات	2	110/11		
332/12	سورة الجن کا اختتام	3		اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محامل	15
312-317 12	سورة الجن آیت نمبر ۲۶ کی تفسیر	4	963/9	لیلۃ الجن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے یا نہیں؟	16
	نماز جنازہ	25		لیلۃ الجن کی مختلف روایات میں تطبیق	17
389/2	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نماز جنازہ	1	111/11	جنات کے قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہونے کی وجوہ	18
532/2	غائبانہ نماز جنازہ	2	112/11		
238/10	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	3	113/11		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
309/3	جوئے کے دینی و دنیاوی خرابیاں	7	240/10	عام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت	4
714/5	لاٹری اور قمار بازی کے متعلق تعزیرات پاکستان	8	242-249 10	نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا	5
131/9	جوئے سے جیتی ہوئی رقم صدقہ کرنا	9		جنون	26
	جوامع الکلم	29	602/9	جنون کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
165/8	جوامع الکلم کی مثال	1		جنگِ جمل	27
	جھوٹ	30		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اصلاح کے قصد سے بصرہ روانہ ہونا	1
287/1	جھوٹ کی تعریف مع شرعی حکم	1	428/9		
287/1	جھوٹ کے عذاب سے متعلقہ احادیث	2		قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بصرہ روانہ کرنا	2
288/1	جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع	3			
	جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا	4	429/9		
288/1	شعر اور مبالغہ میں جھوٹ بولنا	5		قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں کے مابین جنگ کرادینا	3
289/1	تعریض اور توریہ میں جھوٹ بولنا	6			
316/1	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا	7		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جنگِ جمل میں مسلمانوں کے خون بہنے پر غم اور افسوس کرنا	4
280/6	جھوٹ کی قباحت	8	434/9		
151/8	مکذیب کی تعریف	9	287/11	جنگِ جمل کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ	5
901-904/9	ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بولنا	10	289/11	جنگِ جمل کے متعلق حرفِ آخر	6
599/9	صدق اور کذب کی صحیح تعریفات	11		جواء	28
571/11	سابقہ امتوں میں مکذبین پر عذاب	12	777/1	جوئے کی تعریف اور اس کا حرام ہونا	1
	جھگڑنا	31	778/1	لاٹری اور انعامی بانڈز کا شرعی حکم	2
	جدال کا معنی اور اس کا قرآن و حدیث میں اطلاق	1	209/2	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قمار کی وضاحت	3
137/7			305/3	جوئے کی تعریف اور اس کا حرام ہونا	4
709/7	جدال کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	2	306/3	معمہ، لاٹری اور سٹاک کا شرعی حکم	5
317/10	جدال کی اقسام	3	307/3	جو سہ اور شرطیج	6

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
32	جہنم		19	جہاد کی فضیلت کے متعلق احادیث	971/4
1	دیکھئے ”19: دوزخ“ صفحہ 129		20	جہاد کی حکمت اور کفار کو قتل کرنا اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی رحمت کے منافی نہیں ہے	673/4
33	جہاد/ جنگ		21	جہاد کے فرض عین ہونے کی صورتیں	674/4
1	اجازت جہاد کی آیت	717/1	22	جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورتیں	675/4
2	بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو جہاد میں قتل کرنا	717/1	23	جہاد کے مباح ہونے کی شرائط	676/4
3	ہجرت سے قبل قتال کرنا	718/1	24	جہاد کے وجوب کی شرائط	677/4
4	حرم میں ابتداء قتل کا ممنوع ہونا اور کفار سے مدافعتانہ جنگ کا جائز ہونا	720/1	25	فتح مکہ کے لیے جہاد کرنے کے فوائد	86/5
5	جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام	761/1	26	اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کعبہ کو آباد کرنے سے افضل ہے	98/5
6	جہاد کرنے میں عزت اور نہ کرنے میں ذلت ہے	761/1	27	جہاد کے لیے نکلنے کا وجوب	136/5
7	جہاد کے درجات اور اس پر اجر و ثواب	762/1	28	جہاد کی اقسام	143/5
8	جہاد کی تحریک	874/1	29	منافقین کا جہاد کے لیے نکلنا رب تعالیٰ کو ناپسند ہونے کے باوجود ان کی مذمت کرنا	149/5
9	مشروعیت جہاد پر اعتراض کا جواب	935/1	30	منافقوں کے خلاف جہاد کی توجیہ	196/5
10	کیا جہاد کی نیت نہ کرنا نفاق ہے؟	411/2	31	جہاد کا تبلیغ اسلام کے لیے فرض کفایہ ہونا	292/5
11	جہاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کرنا	722/2	32	قریب کے کافروں سے جہاد کی ابتداء	300/5
12	اجر و ثواب کے لیے جہاد کرنا	723/2	33	جہاد کا حق ادا کرنے کی تفسیر	805/7
13	مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا	723/2	34	جہاد کبیر	252/8
14	مسلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ	724/2	35	جہاد بالنفس اور جہاد اکبر کے متعلق احادیث	471/10
15	ترغیب جہاد کے متعلق قرآن و حدیث کے ارشادات	724/2	36	کن کافروں کے متعلق جہاد کا حکم ہے؟	133/11
16	بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونا	766/2	37	کفار کا خون بہانے کے بعد ان کو گرفتار کرنا	133/11
17	عذر کی وجہ سے جہاد کرنا	767/2	38	جہاد کا حکم کب ختم ہوگا؟	135/11
18	جہاد کی فضیلت کے متعلق قرآنی آیات	670/4	39	جہاد اور قتال کی فرضیت سے مسلمانوں کا خوش اور منافقوں کا غمگین ہونا	156/11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	چاندی	2		جہاد سے روگردانی پر منافقوں کے عذر کو رد کرنا	40
722/10	چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا	1	156/11		
723/10	چاندی کے کام والے کپڑوں کا جواز	2	176/11	جہاد کی ترغیب اور زیوں حالی کی وجوہ	41
724/10	چاندی کے ظروف کی تفصیل	3	178/11	جہاد میں مال خرچ کرنے کی فضیلت	42
451/12	چاندی کے کنگن	4	866/11	بلا ضرورت جنگ کی صفوں کو توڑنا	43
448/12	جنت میں چاندی کے برتن	5	245/11	سخت جنگجو قوم کے متعلق متعدد اقوال	44
	چشمے	3		کمزور اور معذور لوگوں کیلئے جہاد میں عدم شرکت کی رخصت	45
295/6	چشموں کی تفسیر	1	248/11		
	چغلی کھانا	4	262-263	اگر کفار کے خلاف جہاد کرنے سے مسلمانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟	46
183/12	چغلی کھانے پر وعید	1	11		
	چلنا	5		جو لوگ کسی بھی طریقے سے اصلاح کو قبول نہ کریں ان کا آخری حل ان کے خلاف جہاد ہے	47
268/9	آہستہ اور بھاگ کر چلنا	1	519/11		
	چوری کرنا	6		جھوٹی نبوت کے دعویدار	34
	دیکھئے "19: سرقہ" صفحہ 146	1	593/3	میسلمہ اور اسود العینی کے احوال	1
	چھٹی	7	350/10	مدعی نبوت کو قتل کرنا یا نہ کرنا	2
599/6	جمعہ کے دن چھٹی	1			
600/6	اتوار کے دن چھٹی	2			
601/6	جمعہ کے دن چھٹی کرنے پر دلائل	3	534/8	چاند نظر آنے کی سائنسی و تکنیکی وجوہ	1
891/11	اتوار کی چھٹی کے حامیوں کے دلائل اور ان کے جوابات	4	770/9	چاند کی منازل	2
892/11	جمعہ کی چھٹی کرنے کے دلائل	5	771/9	سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر سبقت نہ کرنا	3
	چھپکلی	8	764/12	چاند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟	4
610/7	چھپکلی کو مارنے کا حکم	1		رات اور دن کی سلطنت کا چاند سے زیادہ ہونا	5
	چھینک	9	765/12		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	چھینک کا نعمت اور بیماری ہونا	651/9	4	حاکم کی اطاعت کے وجوب پر دلائل	130-131/7
10	چیونٹی		5	حکمران دنیوی امور کے منتظم ہیں	180/8
1	چیونٹیوں کے متعلق احادیث	628/8	6	سلطان کے متعلق احادیث	634/8
2	نملۃ کا معنی	637/8	7	حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت	635/8
3	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈرانے والی چیونٹی	637/8 642/8	8	سربراہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مؤمنوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو	381/9
11	چیننا		9	حکام کی اطاعت کا محل	804/9
1	چیخ اور چنگھاڑ کے تین محل	50/10	4	حاجت روائی	
	ح		1	انبیاء علیہم السلام سے حاجت روائی	390/6
1	سورۃ الحاقہ		2	حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا	391/6
1	سورۃ کا نام وغیرہ	199/12	3	اولیاء اللہ سے حاجت روائی	392/6
2	سورۃ الحاقہ کے مشمولات	200/12	5	حبیب التجار	
3	الحاقہ کا معنی	204/12	1	حبیب التجار کا تذکرہ	738/9
4	سورۃ الحاقہ کا اختتام	217/12	2	اپنے لیے فطرنی اور قوم کے لیے والہ ترجعون کہنا	742/9
2	حضرت حاطب رضی اللہ عنہ		3	قوم کا حبیب نجار کو قتل کر دینا	744/9
1	کس عورت کے ذریعے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے خطر روانہ کیا تھا؟	841/11	4	حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کرنا	748/9
2	حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے مہذبہ کیوں نہیں کیا گیا؟	842/11	5	بستی والوں کو ایک زبردست چیخ سے ہلاک ہونا	748/9
3	حاکم		6	حج و عمرہ	
1	ظالم حکومت کا سبب عوام کا ظلم ہے	651/3	1	حج و عمرہ کا معنی	609/1
2	سلطان کا معنی اور علماء کی سلطنت کا بادشاہوں کی سلطنت سے زیادہ قوی ہونا	617/5	2	شوال میں عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہونا	610/1
3	سلطان اور سلطان مبین میں فرق	618/5	3	صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں، فرمانے کی وجہ	612/1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
581/2	قرآن و سنت سے حج کا ثبوت	2	613/1	صفا اور مروہ کے درمیان سعی میں مذاہب اربعہ	4
582/2	تا اہل کوزہ داری سوچنا	3	737/1	فرضیت حج کی اقسام و تاریخ	5
	حجت	8	725/1	عمرہ کرنے کا طریقہ	6
198/3 206/3	شرائع سابقہ کا حجت ہونا	1	726/1	حج کرنے کا طریقہ	7
	حج اکبر	9	737/1	حج تمتع کا بیان	8
54/5	حج اکبر کے مصداق کے متعلق احادیث	1	737/1	حج کے مہینے	9
55/5	حج اکبر کے مصداق کے متعلق مذاہب فقہاء	2	737/1	فرضیت حج کے اسباب	10
55/5	حج اکبر کے متعلق مختلف اقوال میں تطبیق	3	737/1	ایام حج میں قحش باتیں اور گناہ وغیرہ کرنا	11
55/5, 58/5	حج اکبر کا معنی	4	738/1	حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنا	12
59/5	جمعہ کے حج کے متعلق مختلف اقوال	5	738/1	حج کے دوران روزی کمانا	13
	سورۃ الحجر	10		حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث و آثار	14
231/6	سورۃ کا نام اور الحجر کا معنی	1	746/1	قیام منیٰ کی مدت	15
232/6	الحجر کا مصداق	2	746/1	حج کی تعریف، شرائط، فرائض، واجبات، سنن، آداب اور ممنوعات و مکروہات	16
233/6	الحجر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح	3	274/2	حج کے فضائل	17
234/6	سورۃ الحجر کے مقاصد	4	275/2	حج کی استطاعت	18
342/6	سورۃ الحجر کا اختتام	5	278/2	قدرت کے باوجود حج نہ کرنا	19
	سورۃ الحج	11	279/2	مال حرام و حلال سے حج کرنا	20
701/7	سورۃ الحج کی وجہ تسمیہ	1	280/2	قیامت تک کون کون حج کرے گا؟	21
702/7	سورۃ الحج کے کئی یا مدنی ہونے میں اختلاف	2	737/7	حج میں تاخیر کے جواز سے حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اعتراض اور اس کے جوابات	22
702/7	سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	3	907/11	حج (قولی تصرف سے روکنا)	7
703/7	سورۃ الحج کے مشمولات	4		حج کا معنی	1
832/7	سورۃ الحج کا اختتام	5	581/2	حج کا معنی	1
	حجاب	12			
185/8	بوزھی عورتوں کا حجاب	1			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورۃ الحجرات	13		عورت کے بے پردہ نکلنے کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات	2
272/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	667/8		
272/11	سورۃ الحجرات کے مسائل و مقاصد	2		پردہ کے لزوم کے متعلق قرآن و سنت کی تصریحات	3
310/11	سورۃ الحجرات کا خاتمہ	3	668/8		
	حدود و قصاص	14		اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا	4
542/1	حرم میں حدود و قصاص لینا	1	668/8		
654/1	غلام اور زمی کے قصاص کا بیان	2	669/8	عورتوں کا مردوں سے کلام کرنا	5
657/1	جماعت سے ایک شخص کا قصاص لینا	3	525/9	آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث	6
658/1	سلاطین اور حکام سے قصاص	4	527/9	نزول حجاب کی تاریخ	7
660/1	قصاص لینا حکومت کا منصب ہے	5		دینی و دنیاوی ضرورت کی بناء پر عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا	8
660/1	کیفیت قصاص اور آلہ قتل	6	527/9		
662/1	دلی مقتول کا معاف کرنا	7		حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو گھر سے باہر نکلنے پر دو بار ٹوکنا	9
662/1	دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان	8	528/9		
603/2	عورتوں کی بدکاری پر ابتدائی سزا	9	528/9	عورتوں سے پردہ کی اوٹ سے سوالات کرنے کا حکم	10
605/2	زانی کے خلاف استغاثہ کرنے والی لڑکی پر حد	10		خواتین پر ان کے محارم اور باندیوں سے پردہ لازم نہیں	11
608/2	عمل قوم لوط پر حد یا تعزیر	11	531/9		
415/8	حدود کے نفاذ کا رحمت ہونا	12	558/9	جلباب کی تحقیق	12
	حدیث	15	558/9	چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق	13
706/2	احادیث صحیحہ، اقوال صحابہ پر مقدم ہیں	1	559/9	عورت کے حجاب کے متعلق آیات	14
709/2	ائمہ و فقہاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھنا	2	559/9	ذٰلک ادنیٰ ان یعرفن سے چہرہ کا حجاب	15
181/3 453/6	حجیت حدیث	3	863/9	بوڑھی عورتوں کا حجاب	16
	خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	4	564/9	عہد رسالت میں حجاب و نقاب کے معمولات	17
363/5			565/9	عہد تورات میں حجاب و نقاب کے معمولات	18
38/4	احادیث کا حجت ہونا	5	565/9	چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
166-169/3	حدود کا کفارہ	8	183/4	چالیس احادیث کی تبلیغ کرنا	6
	حرام	19	185/4	حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرائط	7
631/1 706/1	حرام کھانے کا وبال	1	92/8	حدیث اٹک سے استنباط شدہ مسائل	8
	حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے	2	97/8	حدیث اٹک پر اعتراضات کے جوابات	9
631/1	مستثنیات		446/9	کتب احادیث مقبولہ کا حجت ہونا	10
634/1	سُخ آب پر آنے والی مردہ مچھلی	3		صریح حدیث پر عمل کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کی توجیہات	11
635/1	بہائے ہوئے خون کا حرام ہونا	4	556/10		
637/1	حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت	5	101/12	صحیحین کی دو روایتوں کے تعارض کا جواب	12
706/1	مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم	6		سورۃ الحدید	16
721/1	حرمت والے مہینوں کا بیان	7	707/11	سورت کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	ممانعت قتال کا حرمت والے مہینوں میں	8	707/11	سورۃ الحدید کا مکی یا مدنی ہونا	2
765/1	منسوخ ہونا		710/11	سورۃ الحدید کی فضیلت	3
957/1	حرام مال سے صدقہ کا وبال	9	710/11	سورۃ الحدید کے مشمولات	4
643/2	مال حرام کی انواع و اقسام	10	761/11	سورۃ الحدید کا اختتام	5
72/3	ضرورت کی بناء پر حرام اشیاء کا استعمال	11		حروف	17
84/3	حرام جانور	12	792/9	تاء کی اقسام	1
	قرآن و حدیث میں حرام کیے ہوئے طعام کی تفصیل	13		حبابہ	18
677/3			162/3	حبابہ کا معنی و تعریف	1
683/3	اللہ کے حرام کیے کاموں کی تفصیل	14	162/3	حبابہ کا رکن	2
683/2	شرک کا حرام ہونا	15	162/3	حبابہ کی شرائط	3
684/3	والدین کے ساتھ بدسلوکی کا حرام ہونا	16	163/2	حبابہ کے جرم کی تفصیل	4
685/3	قتل اولاد کا حرام ہونا	17	164/3	ڈاکو کے فقط ڈرانے کی سزا	5
686/3	بے حیائی کے کاموں کا حرام ہونا	18	165/3	ڈاکو کے صرف مال لوٹنے کی سزا	6
686/3	قتل ناحق کا حرام ہونا	19	165/3	ڈاکو کا قتل کرنا اور مال لوٹنا	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
330/7	طہ	3	689/3	یتیم کے مال میں بے جا تصرف کا حرام ہونا	20
551/8	طس کے اسرار	4	690/3	ناپ تول میں کمی کا حرام ہونا	21
770/8	طسم کا معنی	5	690/3	ناحق بات کا حرام ہونا	22
212/9	الم کے اسرار	6	691/3	اللہ سے بد عہدی کا حرام ہونا	23
305/9	الم کے نکات	7	224/4	ڈرا دھمکا کرنا جائز رقم بٹورنا حرام ہے	24
712/9	بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت	8	551/4	مال حرام سے نجات کے طریقے	25
713/9	حروف مقطعات کا معنی و مفہوم	9		حرام اور امور مشتبہ کے متعلق دعا کرنے کا عدم جواز	26
36/10	ص کے معانی و محامل	10	557/5		
315/10	خم کا معنی	11	665/7	حرام بمعنی واجب	27
431/10			877/7	حرام کمائی سے کھانا	28
741/10					
538/10	خم ۵ عشق کی تاویلات	12		حرمت والے مہینے	20
39/11	خم	13	36/3	حرمت والے مہینے	1
312/11	ق	14	340/3	بجیرہ وغیرہ کی حرمت	2
164/12	نون اور قلم کے معانی	15		حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کا منسوخ ہونا	3
	حسد	23	64/5		
488/1	حسد کی تحقیق	1	132/5	حرمت والے مہینوں کا بیان اور ان کا شرعی حکم	4
488/1	حسد کے متعلق احادیث	2	133/5	مشرکین کا حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا	5
490/1	حسد کے مراتب	3		حرس	21
490/1	حسد کے اسباب	4	805/6 113/7	حرس کی مذمت	1
491/1	حسد کا علاج	5		حرس کے پیدائشی وصف ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	2
677/5	کسی کو ضرر سے بچانے کے لیے دوسرے کا عیب بیان کرنے کا جواز	6	229/12		
677/5	حسد کے خطرہ سے نعمتوں کو چھپانا	7		حروف مقطعات	22
678/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کا پیشگی علم ہونا	8	240/1	حروف مقطعات کے علم کی تحقیق	1
			250/7	کھبعض	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
429/8	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	1	688/5	حسد، رشک اور منافست کی تعریفیں	9
430/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاق حسنہ	2	689/5	حسد نہ کرنے کی فضیلت	10
504/10	حسن اخلاق کے متعلق احادیث	3	690/5	حسد مسموم	11
958/12	حسن اخلاق میں کثرت طلب کرنا	4		حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد	12
165/12	حسن اخلاق کی تعلیم و تاکید	5	688/5	ہی ان کے تمام گناہوں کی جڑ تھا	
	رسول اللہ ﷺ کے محاسن اخلاق کے متعلق احادیث	6	691/5	حسد ایک زہنیاتی بیماری ہے	13
166/12			692/5	حسد کے متعلق احادیث	14
165/12	خلق اور خلق کا معنی	7		حسد کی تعریف، شرعی حکم اور اس کے متعلق احادیث	15
179-182 12	وانك لعلى خلق عظیم کی تفسیر	8	1050/12		
	سورۃ الحشر	28		حساب	24
798/11	سورۃ کا نام	1	516/3	قیامت کے دن جلد حساب	1
798/11	سورۃ الحشر کے مشمولات	2	520/3	حساب کی کیفیت	2
836/11	سورۃ الحشر کا اختتام	3	521/3	نعمتوں کی کتنی مقدار پر حساب	3
	حشرات الارض	29	521/3	حساب کو آسان کرنے کا طریقہ	4
494/6	حشرات الارض کو مارنے کا شرعی حکم	1	84/6	سخت حساب کا معنی	5
389/8	حشرات الارض کو قتل کرنا	2	638/12	آسان حساب کا معنی	6
	حشر	30	638/12	آسان حساب کے متعلق احادیث	7
100/4	انسانوں کے حشر کی کیفیت	1	528/12	حساب کی امید نہ رکھنے کی توجیہات	8
132/4	نیک مسلمانوں کا حشر	2		حسرت	25
143/4	حشر کے دن کفار کی توبہ	3	752/9	حسرت کا معنی	1
187/4	حشر کے دن مردوں کو زندہ کرنا	4		حسن سلوک	26
325/5	حشر اجساد پر دلائل	5	708/6	حسن کا عقلی ہونا	1
329/5	منکرین حشر کے احوال	6	848/11	غیر متحارب کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنا	2
329/5	حشر پر ایمان لانے والوں کے احوال	7		حسن اخلاق	27

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
659/9	نجرز میں کی زرخیزی سے حشر و نشر پر استدلال	26	354/5	محشر میں مومنین کی عزت و سرفرازی	8
762/9	دن اور رات کے توارد میں حشر اجساد پر دلائل	27	356/5	محشر میں کفار کی ذلت و رسوائی	9
839/9	منکرین محشر کے شبہات اور ان کے جوابات	28	622/5	کیا حشر کے دن لوگوں کا مطلقاً باتیں کرنا ممنوع ہے؟	10
87/10 393/10 817/10	حشر و نشر کے ثبوت پر دلائل	29	623/5	کیا لوگ حشر کے دن سعید اور شقی میں منحصر ہوں گے؟	11
513/10	حشر و نشر کے امکان پر دلیل	30	623/5	لوگوں کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق احادیث	12
658/10	بارش نازل کرنے سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر استدلال	31	43/6	انکار حشر کا کفر ہونا اور اس کی سزا	13
667/11	تخلیق انسان سے حشر و نشر پر استدلال	32	415/6	کفار کا حشر و نشر کو محال کہنا	14
345/11	قبروں سے باہر نکلنے کی کیفیت	33	416/6	حشر و نشر کے امکان اور وقوع پر دلائل	15
346/11	گناہگاروں کے حشر کی کیفیت	34	671/7	عام لوگ حشر میں بے لباس جبکہ شہداء لباس کے ساتھ اٹھیں گے	16
347-353 11	بندہ کا جن گناہوں پر خاتمہ ہو، ان ہی گناہوں میں قیامت کے دن اس کو اٹھایا جاتا	35	672-676	آیا حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا یا نبی ﷺ کو؟	17
514/12	حشر کے دن لوگوں کا فوج در فوج آنا	36	7	کیا قیامت کے دن برہنہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟	18
209/12	لوگوں کا محشر میں تین بار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا	37	677/7	کائنات کے امکان سے حشر و نشر پر استدلال	19
	حقوق العباد	31	712/7	حشر کے وقوع میں مشرکین کے شبہات	20
842/1	عورتوں کے مردوں پر حقوق	1	893-894 7	حشر و نشر کا ثبوت	21
847/1	مردوں کے عورتوں پر حقوق	2	720/8 748/8	حشر کے دن کفار کے کفر و شرک پر جزو توخیخ	22
849/1	عورت پر مرد کی خدمت	3	62/9 137/9	حشر کا ثبوت	23
594/7	اللہ کے کرم سے حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں	4	644/9	روز محشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجہ	24
	حقیقت	32	644/9	روز محشر کفار کی خواہشیں	25
500/1	حقیقت کا بیان	1			
173/7	حقیقت کی تعریف	2			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت حلیمہ	37		حق	33
	(حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن)		641/9	حق و باطل کا فرق	1
	حضرت حلیمہ کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	1	40/11	حق کا معنی و مراد	2
132/12				حکمت	34
	حمد	38	964/1	حکمت کی تعریف و اقسام	1
160/1 649/9	حمد کے لغوی و اصطلاحی معنی	1	964/1	حکمت کے متعلق احادیث	2
161/1	تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مستحق ہونا	2	964/1	حکمت کے مصداق	3
162/1	اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد سے مخلوق کا عاجز ہونا	3	242/9	حکمت کے معانی و تعریفات	4
162/1	اللہ کی حمد کرنے کے احوال و واقعات	4	243/9	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	5
164/1	اللہ تعالیٰ کی حمد کی فضیلت	5		سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	6
165/1	خود اپنی حمد و ثنا کرنے کی شرعی حیثیت	6	244/9		7
167/1	دوسرے کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنا	7	702/9	اللہ تعالیٰ کے ذمیل دینے کی حکمتیں	8
168/1	منہ پر تعریف کرنے کا جواز	8	60/10	حکمت کی تعریفات	9
690/2	اپنی پاکیزگی و فضیلت بیان کرنا	9	580/11	حکمت بالغہ کے محال	35
41/7	اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ	10		حکومت	1
595/9	آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے چھ مقامات	11		دیکھئے ”3: حاکم“ صفحہ 110	36
	حمد کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اقسام اور حمد و شکر کی ادائیگی کا طریقہ	12		حلال	1
596/9			628/1	حلال کا معنی	2
526/11	خود ستائی کی ممانعت	13	957/1	حلال کمائی کی مدح	3
1020/12	حمد کی تعریف	14	274/3	حلال چیزوں سے اجتناب کی ممانعت	4
	حمل	39	280-282/3	حلال کو حرام کرنا	5
			284/3	بیوی سے کہنا ”تو مجھ پر حرام ہے“ کا شرعی حکم	6
			642/3	حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی حکم	7
			877/7	حلال کمائی سے کھانا	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
779/10	حور کا معنی اور جنت میں حوروں سے عقد کا محمل	55/6	2	رحم میں کمی اور زیادتی کے محامل	1
780/10	دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟		3	حمل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت	2
659/11	حوروں کا حسن و جمال	56/6	4	میں مذاہب فقہاء	
638/11	آیا جنت میں مؤمنوں کی بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا جنت کی حوریں؟	427/10	5	سورۃ حم السجدہ	40
640/11	حوروں کے متعلق سید مودودی کے انوکھے نظریہ پر بحث و نظر	427/10	6	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	حوارین	429/10	43	سورۃ حم السجدہ کا زمانہ نزول	2
179/2	حوارین کا معنی و مصداق	429/10	1	سورۃ حم السجدہ کے مشمولات	3
	حضرت حواء علیہا السلام	529/10	44	سورۃ حم السجدہ کا خاتمہ	4
343/1	حضرت حواء علیہا السلام کی خلقت کا بیان		1	غزوة حنین	41
	حیاء	107/5	45	وادی حنین کا محل وقوع	1
324/1	حیاء کا معنی اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت		1	اہل حنین کی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری	2
	حیلہ	107/5	46	نبی ﷺ کی اہل حنین سے جہاد کی تیاری	3
424/1	حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام	107/5	1	نبی ﷺ کا غزوة حنین کے لیے روانہ ہونا	4
831/5	قرآن و سنت میں حیلہ	108/5	2	بعض نو مسلم صحابہ کا حنین کے راستے میں ذات انواط کی تمنا کرنا	5
423/1	فقہاء کے بعض حیلے	108/5	3	حنین میں ابتدائی شکست اور اس کے اسباب	6
424/1	اسقاط حیلہ	109/5	4	غزوة حنین میں کامیابی و کامرانی	7
825/5	حیلہ کے جواز کی تحقیق	110/5	5	یوم حنین میں فرشتوں کا نزول	8
826-828	حیلہ کو جائز کہنے کی وجہ سے امام ابوحنیفہ پر اعتراضات اور ان کے جوابات	110/5	6	اہل حنین کو عذاب دینے کا معنی	9
5	حیلہ کے جواز پر قرآن و سنت سے دلائل	111/5	7	اہل حنین میں سے ہوازن اور ثقیف کا اسلام قبول کرنا	10
829/5	حیلہ کے جواز میں معترضین کے منشاء غلطی کا ازالہ		8	حور	42
831/5	حیات	884/9	47	حوروں کو پوشیدہ انڈوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حیات النبی ﷺ	49	595/1	حیات کا معنی	1
227/10	حضور ﷺ کی حیات کے ثبوت میں احادیث	1	595/1	برزخ میں حیات	2
229-235	حضور ﷺ کی حیات کے متعلق مستند علماء	2	596/1	اولیاء اللہ کی جسمانی حیات	3
10	کی تصریحات		596/1	شہداء کی حیات	4
235/10	اجسام مثالیہ کا تعدد	3	598/1	انبیاء ﷺ کی حیات	5
				انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت	6
			387/6		
	خارجی	1	569/11	حیات کی مختلف تعبیریں	7
161/5	خارجیوں کے ظہور کا سبب	1	139/12	حیات کا معنی	8
161/5	خارجیوں کے متعلق اہل سنت کا نظریہ	2	557/12 507/12	حیات بعد الممات پر استدلال	9
162/5	خارجیوں کی علامت	3	406/12	حیات بعد الممات پر کفار کا شبہ اور اس کا جواب	10
332/10	خوارج کی تعریف اور ان کا مصداق	4	943/1	حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	11
333/10	خوارج کے متعلق احادیث	5	947/1	حیات بعد الموت اور صدقہ میں مناسبت	12
	خاموش	2	328/1	حیات کا معنی	13
269/7	خاموشی کا روزہ رکھنا	1	116/11 373/11	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر دلائل	14
	خاک نشین	3	668-669 11	حیات بعد الموت پر دلائل	15
758/12	خاک نشین کے مصداق	1	314-318 11	حیات بعد الممات کو کفار کے بعید سمجھنے کی وجہ	16
	خاندانی منصوبہ بندی	4	319/11	پہلی بار پیدا کرنے کے بعد تھکنے کا باطل ہونا	17
	خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب اور تشہیر کا شرعی حکم	1		حیض	48
662/3			785/1	حیض کے حکم کا شان نزول	1
663/3	ضبط تولید	2	785/1	حائضہ سے مباشرت	2
	خبر واحد	5	785/1	حیض کا معنی	3
	خبر واحد کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	1	786/1	ایام حیض	4
363/5				حیض، نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل	5
	ختم نبوت	6	787/1		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملنا	1	277/1	ختم نبوت پر دلیل	1
403/9	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	2	461/9	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملنا	2
404/9	سورۃ توبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	3	463/9	آیات	3
405-408	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	3	470/9	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قرآن میں مندرج ہوئی یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے؟	4
9	حضرت خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	471-474/9	احادیث ختم نبوت کی صحیح تعداد	5
408/9	حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	5	474/9	نبی ﷺ کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنا	6
433/11	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	475/9	منکرین ختم نبوت کا اجمالی جائزہ	7
	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	481/9	غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار	8
	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	482/9	۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت	9
551/12	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	482/9	۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت	9
	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		کیا اگر آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو نبی بن جاتے؟	10
	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	483/9	ختم نبوت کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	11
388/1 450/9	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	486/9	ختم نبوت کے معنی پر ایک اعتراض کا جواب	11
862/1	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	488/9	لانی بعدی میں لانی کمال کے لیے ہے	12
842/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		خدمت	7
843/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		ملکی اور جنگی معاملات میں کفار سے خدمت لینا	1
843/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4	224/3	خرج	8
844/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		خرج	8
844/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		دیکھئے "29: عشر" صفحہ 178	1
846/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		خرچ کرنا	9
848-850/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		دیکھئے "99: انفاق فی سبیل اللہ" صفحہ 75	1
851/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		حضرت خزیمہ	10
851/7	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق	4		بن ثابت رضی اللہ عنہ	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
358/1	حضور ﷺ کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا	3	727/11	خشوع و خضوع کی تعریف	12
169-171	آیت استخلاف کا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص نہ ہونا	4		خشیت الہی	13
8				دیکھئے "25: خوف خدا" صفحہ 122	1
171-174	آیت استخلاف کا خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہونا	5		خصائص مصطفیٰ ﷺ	14
8				وہ چیزیں جو فقط آپ ﷺ پر فرض ہیں امت پر نہیں	1
174-179	آیت استخلاف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بارہ امام یا امام مہدی کا مراد ہونا یا نہ ہونا	6	517/9	وہ اشیاء جو صرف آپ ﷺ پر حرام ہیں امت پر نہیں	2
8			518/9	وہ اشیاء جو صرف آپ ﷺ کے لیے حلال ہیں امت کے لیے نہیں	3
665/8	خلافت و امامت کی تعریفات	7	519/9	انبیاء سابقین کے اعتبار سے آپ ﷺ کے خصائص	4
666/8	اس دور میں خلیفہ مقرر کرنا	8		حضرت خضر علیہ السلام	15
76/10	خلیفہ کا معنی	9		حضرت خضر علیہ السلام کا نام، لقب اور کنیت	1
77/10	انسانی معاشرہ میں خلیفہ کی ضرورت	10		حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ	2
	انبیاء علیہم السلام کا عموماً اور سیدنا محمد ﷺ کا خصوصاً خلیفۃ اللہ ہونا	11		حضرت خضر علیہ السلام کا نبی ہونا	3
78/10				حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ تھے یا انسان؟	4
	خلیفہ کا خواہش کی اتباع کرنا عذاب شدید کا موجب ہے	12		حیات حضرت خضر علیہ السلام	5
79/10				حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب	6
80/10	خلافت علی منہاج النبوت کی تحقیق	13		حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کا تختہ توڑنا	7
80/10	آیت استخلاف کی تحقیق	14		بچہ کو قتل کرنا	8
80/10	خلافت کی تعریف	15	165-171/7	خلیفہ/خلافت	16
81/10	خلافت کی شرائط	16		خلیفہ کی تعریف و اقسام	1
82/10	خلافت منعقد کرنے کے طریقے	17	172/7	حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ	2
83/10	خلیفہ کو منتخب کرنے والوں کے لیے شرائط	18	178/7		
85/10	خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم	17	179/7		
765/7	خلفائے راشدین کی فضیلت	1	334/1		
	خمر و دیگر منشیات	18	336/1		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار
1	خمر کی قرآن میں تحریم	773/1	21
2	خمر کی حد کا بیان	304/3	1
3	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
4	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
5	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
6	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
7	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
8	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
9	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
10	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
11	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
12	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
13	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
14	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
15	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
16	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
17	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
18	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
19	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
20	خمر کی حد کا بیان	304/3	25
1	خمر کی حد کا بیان	304/3	25

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
675/5	خواب کی تعبیر بتانے کی اہلیت	6		خوف خدا رکھنے والوں کے لیے قرآن میں بشارتیں	13
675/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خواب کا ذکر کرنے سے منع کیا جانے کا سبب	7	675/9	خوف خدا رکھنے والوں کے لیے احادیث میں بشارتیں	14
676/5	کفار اور فساق کے خواب سچے ہونے کی توجیہ	8	676/9	بعد رطقت اللہ سے ڈرنے کا حکم	15
676/5	خواب صرف ہمدرد اور خیر خواہ کے سامنے بیان کیا جائے	9	920/11	اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ	16
677/5	عہد خواب کی غلط تعبیر بیان کرنا	10	630/11	خوف خدا سے مرنے والے نوجوان کو دو جنتیں	17
678/5	سچے خوابوں کی بشارت ہونے کی تفصیل	11	921/12	عام مسلمانوں کی خدا خوفی کی دلیل	18
781/5	خواب کا پہلی تعبیر پر واقع ہونا ضروری نہیں	12	921/12	اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت	19
878/12	خواب کی تعریف اور اقسام	13	922/12	اللہ تعالیٰ کے خوف کی دو تفسیریں	20
	خیانت	27	81/12	اللہ سے ڈرنے کے فوائد	21
441/2	مال غنیمت میں خیانت کرنا	1	697/12	اللہ سے ڈرنے والے کا مصداق	22
442/2	اموال مسلمین میں خیانت کرنا	2	563/12	خوف خدا کی وجہ سے گناہ ترک کرنا	23
612/4	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی امانت میں خیانت کے محامل	3		نیک اعمال نہ کرنے اور برے اعمال سے نہ بچنے پر عذاب کا خوف	24
706/4	اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت کی ممانعت	4	234/12	نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف	25
610/4	خیانت کے متعلق آیات قرآنیہ	5	235/12	خشیت الہی کا ذکر	26
613/4	خیانت کے متعلق احادیث طیبہ	6	313/3	خواب	26
699/9	خیانت کی ممانعت	7	667/5	خواب کی تعریف	1
	خیال	28	667/5	خواب کی اقسام	2
151/8	تخیل کی تعریف	1	670/5	اجمے اور برے خوابوں کا شرعی حکم	3
	غزوہ خیبر	29	670/5	رسول اللہ ﷺ کی خواب میں زیارت	4
243/11	منافقین کا غزوہ خیبر میں شرکت کیلئے اصرار کرنا	1	672/5	چند خوابوں کی تعبیروں کے متعلق احادیث	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
591/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت اور ان کی سیرت	8		دار الحرب	1
592/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق احادیث	9	772/1 990/1	دار الحرب کی تعریف	1
593/8	حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ	10	210/2	دار السلام	2
594/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی	11	772/1 990/1	دار السلام کی تعریف	1
594/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں	12	649/3	جنت کو دار السلام فرمانے کی وجوہ	2
595/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر	13		دار الکفر	3
597/8	حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات	14	772/1 990/1	دار الکفر کی تعریف	1
619/8	حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا	15	210/2	دار الکفر میں کفار کا مال کھانا کیسا؟	2
611/8	حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم علم دیا جانا	16		داڑھی	4
605/9	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل	17	510/1	داڑھی میں قبضہ کی بحث	1
607/9	حضرت داؤد علیہ السلام کا آہن گر ہونا	18	45/3	داڑھی کی مقدار	2
609/9	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محال	19		حضرت داؤد علیہ السلام	5
613/9	آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم	20		حضرت داؤد علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر	1
53/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کی دس وجوہ	21	744/6		
58/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا	22	619/7	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب	2
59/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی حبیبت	23	619/7	حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث	3
59/10	حضرت داؤد علیہ السلام کا محافظان کا لشکر تھا	24	620/7	حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات	4
63/10	حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرہ کی دیوار پھاڑ کر آنے والے انسان تھے یا فرشتے؟	25	590/8 52/10	حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح	5
64-66/10	آنے والوں کے فرشتے ہونے پر دلائل	26	590/8	حضرت داؤد علیہ السلام کا نام و نسب اور ان کا جالوت کو قتل کرنا	6 7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دعوتِ دین	11	64-66/10	آنے والوں کے انسان ہونے پر دلائل	27
492/10	قرآن و سنت سے انبیاء اور مرسلین کی دعوت کا ثبوت	1	66/10	حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک فریق کے بیان پر کیوں فیصلہ کیا؟	28
492/10	قرآن و سنت سے علماء دین کی دعوت کا ثبوت	2	67/10 74/10	حضرت داؤد علیہ السلام کے استغفار کی توجیہات	29
	قرآن و سنت سے امراء اور حکام کی دعوت کا ثبوت	3	70/10	حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کے حضور توبہ کرنا	30
494/10	قرآن و سنت سے مؤذنین کی دعوت کا ثبوت	4	76/10	حضرت داؤد علیہ السلام کی عصمت پر استدلال	31
495/10	قرآن و سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا ثبوت	5		سورۃ الدخان	6
	قرآن و سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا ثبوت	5	737/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
502/10	قرآن و سنت سے عام مؤمنین کی دعوت کا ثبوت	5	737/10	سورۃ الدخان کی فضیلت میں احادیث	2
493/10	علماء دین کی اقسام	6	738/10	سورۃ الدخان کے مقاصد و مسائل	3
	دعوت الی اللہ دینے والوں کی احادیث میں مثالیں	7	783/10	سورۃ الدخان کا اختتام	4
115/11	دعوت الی اللہ دینے والوں کی احادیث میں مثالیں	7		درود شریف	7
	دعا	12		دیکھئے "19: جملوۃ (درود اسلام)" صفحہ 163	1
	"اھدنا" میں جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ	1		درایت	8
212/1	"اھدنا" میں جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ	1	51/11	درایت کا معنی	1
691/1	اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث	2	52/11	درایت تفصیلی کی نفی	2
692/1	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث	3		درگور کرنا	9
693/1	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا	4	591/12	زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا	1
698/1	طلب جنت کی دعا کرنا	5	591/12	زندہ درگور کرنے کا سبب	2
699/1 397/10	قبولیت دعا کی شرائط و آداب	6	591/12	زندہ درگور کرنے کی ممانعت میں احادیث	3
701/1 397/10	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	7		دشمن	10
67/2	دل کو دین پر ثابت رکھنے کی دعا	8	684/4	دشمن سے صلح کرنے کا حکم	1
525/2	دعا قبول ہونے کے باوجود دعا کرنا	9		دشمن کی نیت فاسد ہونے کے باوجود صلح کا جواز	2
526/2	دعا قبول ہونے کا طریقہ	10	686/4		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
11	مانعین دعا کے دلائل اور ان کے جوابات	169/4	32	وضو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو	354/8
12	دعا قبول نہ ہونے کے فوائد	170/4		پڑھنے کا ثواب	
13	دعا کی ترغیب و فضیلت	171/4 395/10	33	قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین	355/8
14	آہستہ دعا کرنے کے فوائد	173/4	34	دوزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کے حصول کی دعا کرنا	555/8
15	خارج از نماز دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا	174-183/4			
16	دعا میں حد سے بڑھنا	186/4	35	مضطرب اور مصیبت زدہ کی دعا کا قبول ہونا	717/8
17	دعا سے مصیبت ٹلنے کے بعد خدا کو فراموش کر دینا	246/4	36	مظلوم، مسافر اور والد کی دعا جلد قبول ہوتی ہے	718/8
18	اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کی دعا کرنا	460/5	37	تحت کا معنی اور اس کے مواقع	502/9
19	دعا کی قبولیت میں جلدی کی امید رکھنا جہالت ہے		38	دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط	896/9
20	دعا میں سوال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا	461/5 867/5	39	دعا میں اخروی مطالب کو دنیاوی مطالب پر مقدم رکھنا	106/10
21	موت کی دعا کرنا	868/5	40	راحت و مصیبت، ہر حال میں اللہ سے دعا کرنا	182/10
22	دعا کا طریقہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	209/6	41	آخرت میں کفار کی دعاؤں کو قبول نہ فرماتا	378/10
23	نبی معصوم کی دعا مغفرت کے محال	211/6	42	دعا کے اوقات کے متعلق علماء اور فقہاء کے اقوال	401-406 10
24	نماز میں دعا مانگنے کے آداب	215/6			
25	دعاء حرام	216/6	43	قرآن و ذکر میں مشغول ہونا افضل ہے یا دعا کرنا؟	410/10
26	کیا تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرنا کی خلف و عید کو مستلزم ہے؟	216/6	44	مسلمانوں کی بعض دعائیں قبول نہ فرمانے کی حکمتیں	592/10
27	دعا کے آداب	252/7			
28	انبیاء اور اولیاء کی دعاؤں کی قبولیت	448/7	45	سفر پر روانہ ہوتے وقت سواری پر بیٹھنے کے بعد کی دعا	660/10
29	مال اور اولاد میں کثرت کی دعا کرنا	275/8			
30	امام بننے کی دعا کرنا	278/8	46	سفر سے واپسی کی دعا	661/10
31	بعد والوں کی بناء کے حصول کی دعا کرنا	350/8	47	دعا کے قبول نہ ہونے سے اکتانا نہیں چاہیے	751/10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
749/1	دنیا و آخرت کی بربادی	2		تہائی رات کے مستجاب وقت میں دعا قبول نہ ہونے کی وجہ	48
76/2	دنیا کی تزئین و آرائش	3	368/11		
504/2	دنیا کی رنگینیوں اور دلفریبیوں سے بے رغبتی پیدا کرنا	4	856/12	اللهم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون یہ دعا حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی ہے	49
77/2	دین و دنیا میں توازن	5		دل	13
79/2	اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت	6	421/4	قرآن و حدیث میں دل کی طرف عقل و اوراک کی نسبت	1
80/2	اعتدال کے ساتھ بیٹیوں کی طرف رغبت	7	769/7		
81/2	اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت	8		قلب سلیم کی تعریف اور اس کی علامت و صدق	2
	اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت	9	358/8		
82/2				کسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعدد محال	3
83/2	اعتدال کے ساتھ کھیتی باڑی کی طرف رغبت	10	370/9		
436/3	دنیا کا بے وقعت ہونا	11	371/9	قلب کے صدق کے متعلق قدیم و جدید آراء	4
440/3	دنیا کی محبت قطعاً مذموم نہیں ہے	12	898/9	قلب سلیم کا معنی	5
436/3	دنیا کے بے وقعت ہونے کے متعلق احادیث	13	218/10	دل کی سختی کے اسباب	6
371/5	قیام دنیا کو کم سمجھنے کی وجوہات	14	339/10	دل کی چھپی ہوئی باتیں	7
134/6	دنیاوی لذتوں کا بے مایہ ہونا	15	627/12	دل پر زنگ لگانا	8
239/6	دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی مذمت	16		ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا معیار ہونا	9
317/6	متاع دنیا کی طرف دیکھنے کی ممانعت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہونا	17	947/12		
320/6	دنیاوی عیش کے سامان کو ترک کرنا	18	421/4 768/7	دماغ کا محل عقل ہے	14
321/6	اسلام میں دین و دنیا کا امتزاج	19		دماغ	
676/6	صرف دنیا کے طلب گار کا انجام	20		دماغ کا محل عقل ہے	1
44/7	دنیا سے رغبت کو کم کرنا	21		دماغ	15
45/7	دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانا	22	176/1	دماغ	1
				دماغ	16
				دماغ	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
734/12	دنیاوی عیش و عشرت کی مذمت کی وجوہ	43	112/7	دنیا کی پانی کے ساتھ تشبیہ	23
735/12	دنیاوی مال کے حصول پر اترانا کیسا؟	44		دنیاوی فراخ دستی اور تنگدستی حق و باطل کا معیار نہیں	24
631/12	دنیا میں کفار کا مومنوں پر ہنستا اور مذاق اڑاتا	45	310/7		
561/12	دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا	46		دنیا میں ریشم اور سونا چاندی پہننے اور شراب پینے والے کا شرعی حکم	25
458/12	دنیا کی جلد ملنے والی نعمتوں کی محبت	47	728/7		
228/12	حب دنیا کی آفات	48	905/7	موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا	26
	دن	17	906/7	موت کے وقت مرتبہ کا علم	27
791/7	دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنا	1	114/9	دنیا کا معنی اور اس کا خسیس و گھٹیا ہونا	28
	دن میں رات کو اور رات کو دن میں داخل کرنے کا معنی	2	115/9	دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ	29
278/9			135/9	دنیا دار اور دین دار لوگوں کی سوچ و فکر کا فرق	30
308/9	جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی	3	308/9	جن چھ دنوں میں دنیا بنی	31
308/9	منگل کے دن کو منحوس سمجھنا	4	338/9	مومن اور فاسق کا دنیا میں مساوی نہ ہونا	32
	پچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے دن میں تطبیق (یوم قیامت کے متعلق)	5	422/9	دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تلقین	33
311/9			571/9	دوزخ میں کفار کے عذاب کی کیفیت	34
	ایک ہزار سال میں اللہ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے محال	6	579/10	دنیا سے بے رغبتی کے متعلق احادیث	35
310/9			673/10	دنیاوی مال و متاع کا مذموم ہونا	36
586/11	معین دنوں کا منحوس یا مبارک ہونا	7	681/10	دنیا کی زیب و زینت کفار کے لیے ہے	37
765/12	دن کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے؟	8	681/10	اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا حقیر ہونا	38
765/12	دن کی سلطنت کا سورج اور چاند سے زیادہ ہونا	9	718/10	دنیاوی تعلق کا ناپائیدار ہونا	39
345/12	دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ	10		دنیا میں اچھی اور مقدس اشیاء کے باوجود دنیاوی زندگی کو صرف دھوکے کا سامان کہنا	40
	دودھ	18	732/11		
844/1	دودھ پلانے کے شرعی احکام	1		دنیا میں فقر اور تونگری حق و باطل کا معیار نہیں	41
844/1	دودھ پلانے کی مدت	2	589/11		
480/6	گوبر اور خون کے درمیان دودھ کو پیدا کرنا	3	733/12	دنیا کی نعمتیں ملنے کو عزت و کرامت سمجھنا	42

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دوزخ کے دروازے اور ان میں عذاب	13	480/6	ز حیوانوں میں دودھ	4
291/6	یا فسگان		481/6	او جھڑی میں دودھ	5
102/7	دوزخ کے متعلق آیات و احادیث	14	481/6	دودھ کی خلقت میں اسرار و دقائق	6
	کیا دوزخ میں دخول کفار کے ساتھ خاص ہے؟	15	483/6	دودھ کی خلقت میں حشر و نشر کا امکان	7
207/7			484/6	دودھ کے متعلق احادیث	8
308/7	دوزخ میں دخول بل صراط سے گزرنا ہے	16	485/6	دودھ کا کیمیائی تجزیہ	9
309/7	مسلمانوں کے دخول نار سے مراد	17	862/7	دودھ کے غذائی اور طبی فوائد	10
	دوزخ میں داخل ہونے اور دور رکھے جانے کا تعارض	18	80-83/11	دودھ پلانے کی انتہائی مدت	11
669/7			86/12	دودھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز	12
907/7	برزخ کا معنی	19		دوزخ	19
918/7	دوزخ میں کفار کی چھ دعائیں	20	316/1	دوزخ میں جلنے والے پتھروں کا بیان	1
	دوزخ کی آنکھ، کان اور زبان کے متعلق احادیث	21	500/2	دوزخ سے پناہ مانگنا	2
220/8			414-418/2	دوزخ سے نجات طلب کرنا	3
221/8	آیا دوزخ میں کوئی اچھائی ہے؟	22	837/2	دوزخ کے طبقات	4
221/8	کفار کا جہنم میں جھوٹا جانا	23	640/3	جہنم کے خلود سے استثناء	5
360/8	دوزخ کی صفات	24	81/4	کیا تمام اہل بدعت اور گمراہ فرقے دوزخی ہیں	6
361/8	دوزخ کس جگہ واقع ہے؟	25	135/4	دوزخ میں کفار کے احوال	7
362/8	مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کی دوزخ میں حالت زار	26	419/4	بہت سے انسانوں اور جنوں کو دوزخ کیلئے پیدا کرنا	8
	دوزخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کو طعن کرنا	27	215/5	دوزخ کی گرمی	9
363/8			653/5	جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا	10
104/9	زمین پر دوزخ کا وجود	28	166/6	دوزخ کے پانی کی کیفیت	11
330/9	جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث	29	167/6	دوزخیوں کے عذاب کی کیفیت اور ان پر موت کا نہ آنا	12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
719/2	صدق کی تعریف	1	330/9 328/11	دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی توجیہ	30
709/7	بد مذہبوں سے دوستی رکھنا	2	377/10	دوزخ میں کافروں کا مباحثہ	31
236/8	کیسے شخص کو دوست بنایا جائے؟	3	470/10	دوزخ میں کفار کے عذاب کا لزوم	32
365/8	قیامت کے دن فقط مومنوں کی دوستی کا کام آتا	4		دوزخ کے نگران "مالک" سے اہل دوزخ کا کلام	33
	دھمکی دینا	21	728/10		
582/6	دھمکی دینے کی تعریف اور اس کے مسائل	1	329-335	دوزخ کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرنا	34
	دھواں	22	11		
481/12	دوزخ کے دھوئیں کی تین شاخوں کے محال	1	963/12	کون کون دوزخ کو دیکھیں گے؟	35
482/12	دھوئیں کے سائے کی صفات	2	977/12	دوزخ کی آگ کی شدت	36
	دھریہ	23	147/12	کفار کو دوزخ کا عذاب دینے کی توجیہ	37
782/9	دھریوں کا رد اور ابطال	1	147/12	دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال	38
815/10	دہر کا لغوی و عرفی معنی	2	148/12	دوزخ کے غیض و غضب میں آنے کی توجیہ	39
815/10	دہر کے متعلق احادیث	3	738/12	دوزخ کو لانے والے	40
	دہریے بلا دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں	4	613/12	دوزخ کا عذاب	41
816/10				کیا سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟	42
	دھمال	24	587/12		
387/8	ہمارے زمانہ کے بتلوانی صوفیاء کا دھمال کرنا	1	589/12	دوزخ کا مصداق کس جگہ پر ہے؟	43
	سورۃ الدھر	25	563/12 377/12	دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث	44
425/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	378-383 12	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد	45
425/12	سورۃ الدھر اور سورۃ القیامہ کی باہمی مناسبت	2	378/12	فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں	46
425/12	سورۃ الدھر کا مکی یا مدنی ہونا	3	386/12	دوزخ کی صفات کا تذکرہ	47
426/12	سورۃ الدھر کے مشمولات	4	125/12	دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات	48
469/12	سورۃ الدھر کا اختتام	5	228/12	دوزخ کے بلانے کی توجیہات	49
	دھوکا دینا	26		دوست	20

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
756/2	قتل خطا، قتل شبہ عمد اور قتل عمد کی دیت	2		دیکھئے ”23: فریب“ صفحہ 195	1
757/2	دیت کی ادائیگی کی مدت	3		دین	27
758/2	عورت کی نصف دیت کی تحقیق	4	176/1	دین کا لغوی و شرعی معنی	1
759/2	ورثاء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنا	5	528/3	دین میں تفرقہ ڈالنے کی مذمت	2
			760/5	دین کا معنی	3
759/2	دارالحرب میں کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرنے پر دیت	6	660/7	دین اور شریعت کا فرق	4
			661/7	دین میں رقتے بنانے کی ممانعت	5
759-761/2	ذمی کافر کی دیت	7	720/7	ادیان مختلفہ اور ان کا شرعی حکم	6
	دیدار الہی	29	806/7	دین میں جھگی نہیں	7
	دیکھئے ”30: روایت باری تعالیٰ“ صفحہ 138	1		دین آسان ہے سو مشکل احکام نہ بتائے جائیں	8
	دیہاتی	30	808/7		
232/5	العرب اور الاعراب کا معنی	1		سچے دین کو لانے اور اس کی تصدیق کرنے والے	9
	الاعراب سے مراد مدینہ کے گرد رہنے والے دیہاتی ہیں	2	253/10		
234/5	اعراب کی سنگ دلی اور شقاوت	3	561/10	تمام انبیاء کا دین واحد اور شریعتوں کا متعدد ہونا	10
			562/10	دین کا لغوی و اصطلاحی معنی	11
				انبیاء کے بعد دین میں تفرقہ ڈالنے والے کون؟	12
	ڈاکو/ڈاکہ	1	566/10		
	دیکھئے ”18: حرابہ“ صفحہ 113	1	139/11	اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے طریقے	13
	ڈکار	2	267/11	دین اسلام کے غلبہ کے محامل	14
651/9	ڈکار کا نعمت اور بیماری ہونا	1		دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے	15
			1055/12		
	سورۃ الذاریات	1	694/12	رسول اللہ ﷺ اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا	16
355/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		دیت	28
355/11	سورۃ ق اور سورۃ لہذاریات کی باہمی مناسبت	2	756/2	دیت کا معنی	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
431/7	قرآن پر ذکر کا اطلاق	14	355/11	سورۃ الذریات کے مشمولات	3
144/8	کن لوگوں کو خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی	15	404/11	سورۃ الذریات کا اختتام	4
93/9	ذکر اللہ کی فضیلت میں احادیث	16		ذبیحہ	2
277/9	اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فانی اور باقی قرار دینا	17	641/3	جس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے متعلق مذاہب فقہاء	1
277/9	کلمات اللہ کا غیر متناہی ہونا	18		ذخیرہ اندوزی کرنا	3
400/9	اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ضروری امور	19	781/5	ضرورت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کا جواز	1
451/9	بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث	20	109/9	ضرورت کے بغیر ذخیرہ اندوزی کرنے کی ممانعت	2
498/9	امت محمدی کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	21		ذکر الہی	4
500/9	ذکر کرنے والوں کی اقسام، مراتب اور درجات	22	502/1	ذکر بالجہر کی تحقیق	1
501/9	بعض اذکار و اوراد	23	745/1	ذکر کی اقسام اور اس کے متعلقہ اقوال	2
343/11	اذکار ماثورہ پڑھنے کا ثواب	24	592/1	ذکر سے متعلق احادیث کریمہ	3
288/12	اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا معنی	25	517/2	اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرنا	4
289/12	اللہ کے ذکر سے اعراض کا دنیا میں بھیجی کا سبب ہونا	26	835/2	ذکر خفی کی فضیلت	5
	ذوی القربیٰ	5	520/4	معتدل آواز کے ساتھ ذکر بالجہر	6
443/1	رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک	1	521/4	ذکر کے لیے اوقات کی تخصیص	7
649/1	رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت	2	647/4	دوران قتال ذکر کے متعلق احادیث	8
545/2	رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور جوڑنا	3	648/4	دوران قتال ذکر کے متعلق علماء کے اقوال	9
	ذوی الارحام	6		اللہ کے ذکر سے دلوں کے مطمئن ہونے اور خوفزدہ ہونے کے درمیان تطبیق	10
	دیکھئے "13: وراثت" صفحہ 278	1	95/6	مطمئن دلوں کے مصداق	11
	ذوالقرنین	7	96/6	ذکر خفی کی فضیلت	12
201/7	ذوالقرنین کا مصداق اور اس کی وجہ تسمیہ	1	250/7	ذکر میں سستی	13
202/7	تورات میں ذوالقرنین کی طرف اشارے	2	375/7		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
741/11	رہبانیت کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	203/7	ذوالقرنین کا تصرف اور اس کا اقتدار	3
742-747	مذہب اربعہ کے مفسرین کا اختراع رہبانیت	2	203-206/7	ذوالقرنین کے تین سفر	4
11	سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال		212/7	ذوالقرنین کی تحقیق	5
	رہبانیت کی رعایت نہ کرنے والوں کے	3		حضرت ذوالکفل علیہ السلام	8
755/11	مصادیق		654/7	حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو نبی بنانے کا واقعہ	1
	راز	4		حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت میں علماء کا	2
	حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ ﷺ کے	1	655/7	اختلاف	
112/12	راز کو افشاء کرنا			ذوالحجہ	9
	رب	5	721/12	الفجر سے مراد ذوالحجہ کی صبح اور اس کی فضیلت	1
	دیکھئے "69: اللہ تعالیٰ" صفحہ 62	1		ولیسال عشر سے مراد ذوالحجہ کے دس دن	2
	ربا	6	722/12	اور ان کی فضیلت	
976/1	ربا کا معنی	1		ر	
977/1	ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت	2		رات	1
980/1	ربا الفضل کی حرمت کا سبب	3	791/7	رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنا	1
981/1	بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل کے جوابات	4	278/9	رات کو دن میں اور رات میں دن کو داخل کرنے کا معنی	2
983/1	افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنا	5		رات کو عبادت، معصیت اور غفلت میں	3
984/1	دارالحرب کے سود میں فقہاء کا نظریہ	6	408/10	گزارنے والے	
987/1	سود کے ذریعہ حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا	7		رات کی سلطنت کا سورج اور چاند سے	4
990/1	دارالحرب، دارالکفر اور دارالاسلام کی تعریفات	8	765/12	زیادہ ہونا	
991/1	قیامت میں سود خور کا انجام	9	344/12	رات کو نماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجہ سے	5
992/1	ربا اور بیع کا فرق	10		راحت	2
993/1	ربا کو بتدریج حرام کرنا	11	737/11	راحت کے وقت مسلمانوں کا طریقہ	1
994/1	ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں	12		راہب / رہبانیت	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کی رحمت و عذاب دونوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے	2	994/1	سود خور کے لیے دائماً دوزخ	13
296/6			994/1	سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا	14
297/6	اللہ کی رحمت سے مایوسی کی وجوہات	3	995/1	سودی کاروبار ترک نہ کرنے والا	15
682-693	وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کی تفسیر	4	996/1	سود پر وعید کے متعلق احادیث	16
7			1002/1	سود کے بعد تجارتی قرضوں کا ذکر	17
652/9	رحمت کی متعدد تفاسیر	5	365/2	سود مفرد اور سود مرکب	18
587/11	اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے غضب پر غالب ہونا	6	365/2	ربا الفضل	19
			366/2	ربا الفضل میں علت حرمت	20
261/11	اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کرنے کے دو عمل	7	367/2	سود میں منہمک رہنے والے کا انجام	21
149/1	رحمان و رحیم کا معنی	8	747/6	کھلم کھلا سود کھانا	22
150/1	رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجوہ	9		ربا نبین	7
172/1	رحمن و رحیم کی تفسیر میں مفسرین کی فرو گذاشت	10	224/2	ربا نبین کا معنی	1
	رزق	11		رجم	8
273/1	رزق کا معنی	1	62/8	رجم کی تحقیق	1
274/1	حرام کا رزق ہونا یا نہ ہونا	2	62/8	قرآن سے رجم کا ثبوت	2
241/3	گناہوں کو ترک کرنے سے رزق میں فراخی	3	64/8	رجم کی منسوخ التلاوة آیت	3
499/5	اللہ تعالیٰ کے رزق پہنچانے کی مثالیں	4	65/8	آیت رجم کی بحث	4
119/6	رزق میں وسعت کے متعلق احادیث	5	66/8	رجم کی احادیث متواترہ	5
516/6	رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت	6		سورة الرحمن	9
706/6	رزق میں کمی اور زیادتی	7	601/11	سورة کا نام اور اس کے متعلق احادیث	1
265/9	تلاش رزق میں اعتدال	8	602/11	سورة الرحمن کے مشمولات	2
598/9	رزق کریمہ کا معنی	9	644/11	سورة الرحمن کا اختتام	3
199/10	رزق کی وسعت	10		رحمت باری تعالیٰ	10
561/10	رزق کی اقسام	11	846/5	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا کفر ہونا	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
626/9	حضور علیہ السلام کی رسالت تمام مخلوق کے لیے ہے	17	601/10	کشادگی رزق کی وجہ سے سرکشی کی وجوہات	12
			375/11	آسمان میں مخلوق کے رزق کی تفسیریں	13
627/9	پتھروں، پہاڑوں، درختوں اور جانوروں کا آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرنا اور ہر چیز کا آپ ﷺ کی رسالت کو پہچاننا	18	74/12	رزق میں وسعت کے متعلق احادیث	14
640/9	تبلیغ رسالت کا اجر طلب نہ کرنا	19		رسالت/رسول	12
715/9	حضور ﷺ کی رسالت کی قسم کھانا	20	731/2	منصب رسالت	1
736/9	بشریت کا رسالت کے منافی نہ ہونا	21	244/3	تبلیغ رسالت	2
970/9	رسولوں کے غلبہ سے مراد	22	329/3	کسی کو جبر اہدایت یافتہ بنانا	3
544/10	قرآن و احادیث سے حضور علیہ السلام کی رسالت کا عموم	23		برامت کے پاس اس کے رسول آنے کے دو مجمل	4
582-588	تبلیغ رسالت پر قربت سے محبت کے اجر کے سوال پر اعتراض کا جواب	24	372/5	ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے	5
10			313/6	زمین والوں کے لیے فرشتہ کو رسول نہ بنانا	6
381/10	رسولوں کی نفرت کے محامل	25	803/6	رسول کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
418/10	رسولوں کی تعداد کی تحقیق	26	279/7	صرف انسانوں اور مردوں کو رسول بتایا جاتا ہے	8
688/10	گذشتہ رسولوں سے سوال کرنے کی توجیہات	27	523/7	رسول کا اپنی قوم کی طرف پیغام پہنچانا	9
811/10	بعض بندوں کو رسول اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیہ	28	870/7	رسول کا اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہونا	10
878/11	آپ ﷺ کی رسالت کا عموم	29	871/7	تمام رسولوں سے بیک وقت خطاب کرنا	11
702/12	رسولوں کی تعداد کی تحقیق	30	877/7	حضور ﷺ کی رسالت پر ایک اعتراض کا جواب	12
	رشوت	13	524/7	آپ ﷺ کی رسالت کا عموم	13
707/1	رشوت کا معنی	1	212/8	رسالت کی تمہید	14
707/1	قرآن و حدیث میں رشوت کا حکم	2	123/8	عقیدہ رسالت کی تعلیم	15
708/1	رشوت کی اقسام	3	65/9	حضور علیہ السلام کی رسالت کے برحق ہونے پر دلائل	16

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
4	رشوت کی تعریف، وعید اور شرعی احکام	643/2	4	سورۃ الرعد اور سورۃ یوسف میں باہمی مناسبت	30/6
5	رشوت کا معنی و اقسام	194/3	5	سورۃ الرعد کے مضامین و مقاصد	32/6
14	رشتہ دار		6	سورۃ الرعد کا اختتام	123/6
1	رشتوں کو جوڑنے کی اقسام	82/6	17	رقص و سرود	
2	رشتوں کو جوڑنے کے متعلق احادیث	83/6	1	جامل صوفیاء کا رقص و سرود	627/4
3	رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی	557/6	2	ہمارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا رقص کرنا	387/8
4	رشتہ داروں کو صدقہ دینے کی فضیلت	758/12	18	رکون (کفار سے میل جول)	
15	رضائے الہی / رضائے مصطفیٰ ﷺ		1	رکون کا لغوی، عربی اور شرعی معنی	641/5
1	رضائے الہی کی خاطر دنیا ترک کرنا	750/1	2	رکون کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات	642/5
2	اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے افضل ہے	99/5	3	رکون کی ممانعت کے متعلق احادیث	642/5
3	اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے	192/5	19	رمضان المبارک	
4	اللہ تعالیٰ کی رضا کا مہاجرین و انصار کی نیکیوں میں اتباع کیے جانے پر موقوف ہونا	242/5	1	ولیسال عشر سے مراد رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی فضیلت	725/12
5	اللہ کی رضا کا بہت بڑا درجہ ہے	561/8	20	رمل	
6	اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑا انعام ہے		1	رمل کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	291/7
7	اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل	921/12	21	روزہ	
8	نبی کریم ﷺ کی رضا کے محامل	922/12	1	روزہ کا معنی	667/1
9	رضا اور مشیت میں فرق	502/7	2	رمضان کے روزوں کے فضائل	668/1
16	سورۃ الرعد	781/9	3	نقلی روزوں کی فضیلت	671/1
1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ		4	حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزہ کی رخصت	686/1
2	الرعد کا معنی	27/6	5	عید گاہ جاتے ہوئے بکسیرات پڑھنا	689/1
3	سورۃ الرعد کے کئی یادنی ہونے میں اختلاف	28/6	6	روزہ کی رات میں عمل زوجیت کی اجازت	703/1
		28/6	7	طلوع فجر کے بعد سحری کھانا	703/1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
455-458	یہود کا جبرائیل کو اپنا دشمن کہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	2	672/1	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	8
1	روح القدس کا معنی	3	673/1	روزہ کے اسرار اور رموز	9
362/3	روح القدس کا معنی	3	674/1	روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل	10
	روضہ رسول ﷺ	23	674/1	انجکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنا	11
260/5	روضہ رسول ﷺ کے فضائل	1	674/1	مریض کا روزہ قضاء کرنا	12
	روح	24	675/1	مسافر کا روزہ قضاء کرنا	13
509/3	فرشتوں کی طرف قبض روح کی نسبت	1	677/1	بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا	14
510/3	موت کے وقت مسلمانوں اور کافروں کی روحوں کے نکلنے کی کیفیت	2	681/1	رمضان کے اسرار اور رموز اور رمضان میں نزول قرآن کا بیان	15
511/3	روح کا انسان کی حقیقت ہونا	3	683/1	قطبین میں روزہ	16
512/3	روح کا جسم سے پہلے پیدا ہونا	4	684/1	روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت	17
274/6 352/6	روح کا معنی	5	684/1	سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا اور اس کا عکس؟	18
353/6	روح سے وحی اور اللہ کے کلام کا مراد ہونا	6	684/1	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا کرے؟	19
786/6	روح کا لغوی و اصطلاحی معنی	7	685/1	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا کرے؟	20
787/6	روح کی موت	8	685/1	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا کرے؟	21
788/6	جسم کی موت کے بعد روح کا مستقر	9	685/1	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا کرے؟	22
789/6	روح کا حادث اور مخلوق ہونا	10	686/1	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے تو کیا کرے؟	23
790/6	نفس اور روح ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟	11	785/2	روح القدس	22
791/6	روح کا کافر کی روح نکلنے کی کیفیت	13	630/7	روح القدس کا معنی	1
747/7	روح کے تقاضے	14	631/7		
192/9	روح کی اللہ کی طرف اضافت	15			
314/9	روح کی تحقیق	16			
314/9	روح کا لغوی و اصطلاحی معنی	17	446/1 362/3		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نمبر شمار
758/9	گندم کی روٹی کا عظیم نعمت ہونا	315/9	2	18
	سورۃ الروم	316/9	27	19
125/9	سورۃ کا نام اور اس کے متعلق احادیث		1	20
126/9	سورۃ الروم کی سورۃ العنکبوت سے مناسبت	316/9	2	لذت کا ادراک کرنے کے ثبوت میں آیات
126/9	سورۃ الروم کے مشمولات		3	21
206/9	سورۃ الروم کا اختتام	317/9	4	روح کے بدن میں حلول کرنے اور درد و لذت کا ادراک کرنے کے ثبوت میں احادیث
	رہائش	318/9	28	22
56/7	جنگلوں اور غاروں میں رہنا		1	23
57/7	عزت نشینی کے بجائے لوگوں کے ساتھ رہنا	318/9	2	مومن اور کافر کی روحوں کو قبر میں ان کے جسموں میں داخل کرنا
58/7	عزت نشینی اور تمدنی زندگی میں درمیانی کیفیت		3	24
126/8	غیر رہائشی عمارات کی تعیین	319/9	4	مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں سے نکلنے کی کیفیت
	رہن (گروی رکھنا)	148/10	29	25
1015/1	رہن کی تعریف اور اس سے فائدہ اٹھانا	335/10	1	روح کا معنی اور روح پھونکنے کا محمل
1017/1	رہن کی شرائط اور ضروری مسائل	897/12	2	26
1018/1	اعتماد کی صورت میں گروی رکھنے کو ترک کرنا	590/12	3	روح کو وحی سے تعبیر کرنے کی وجوہ
1020/1	رہن کے اسرار و حکمتیں	543/12	4	27
	بیع اور رہن کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف	545/12	5	روح کا مصداق
1022/1	کرنے کا ذکر	549/12		28
	روایت باری تعالیٰ	223/12	30	روحوں کو جسموں کے ساتھ ملانے کے محامل
616/3	روایت باری تعالیٰ کے متعلق فقہاء کے نظریات		1	29
616/3	منکرین روایت کے دلائل اور ان کے جوابات	215/5	2	کافر کی روح کھینچنے کی کیفیت
618/3	روایت باری کے متعلق آیات قرآنیہ	228/5	3	30
618/3	روایت باری کے متعلق احادیث نبویہ		4	مومن کی روح کھینچنے کی کیفیت
619/3	شب معراج اللہ کا دیدار	756/9	5	31
				اولیاء اللہ کی ارواح
				32
				الروح
				25
				رونا
				1
				زیادہ رونے کی تلقین
				2
				عبادت سے محرومی کے سبب رونا
				26
				روٹی
				1
				روٹی کی تعظیم و تکریم

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سورۃ الزخرف	2		رویت باری تعالیٰ کے متعلق اہل قبلہ کے مذاہب	6
651/10	سورۃ کا نام اور اس کے مقاصد	1	300/4		
732/10	سورۃ الزخرف کا اختتام	2	301/4	مکرمین رویت کے دلائل اور ان کے جوابات	7
	زرہ	3	192/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم نعمت ہے	8
609/9	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے محامل	1	302/4	رویت باری پر اہل سنت کے دلائل	9
	زکوٰۃ	4	355/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار	10
370/1	زکوٰۃ کا معنی اور اس کے وجوب کی شرائط	1	$\frac{415-417}{12}$	قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رویت	11
	اسلام کے نظام زکوٰۃ پر یہودیوں کے اعتراض کا جواب	2	192/5	اللہ تعالیٰ کا دیدار عظیم نعمت ہے	12
493/2				ریا کاری	31
127/5	زکوٰۃ نہ دے کر مال جمع کرنے کی مذمت	3	835/2	ریا کاری سے عبادت کرنا	1
	جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ موجب عذاب نہیں ہے	4	651/4	ریا کی مذمت	2
128/5			481/5	ریا کاری کا شرک خفی ہونا	3
	ادا ہنگی زکوٰۃ کے بعد مال جمع کرنے میں اختلاف صحابہ	5	512/5	ریا کاری کی مذمت اور اس پر وعید	4
129/5			237/7	قربانی کے عمل میں ریا کاری	5
	زکوٰۃ دینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	6	995/12	ریا کاری کی تعریف	6
166/5			995/12	فرائض دکھا کر اور نوافل چھپا کر ادا کیے جائیں	7
	زکوٰۃ لینے والے کے حق میں زکوٰۃ کی حکمتیں اور مصلحتیں	7		ریشم	32
168/5			$\frac{723-726}{10}$	چارانگل ریشم کے کام کے جواز کی تفصیل	1
85/6	زکوٰۃ کو ظاہر اور پوشیدہ دینے کے محامل	8		ریب	33
361/6	گھوڑوں میں زکوٰۃ	9		مزید دیکھئے "21: شک" صفحہ 154	1
126/7	بینک سے کائی ہوئی زکوٰۃ	10		ز	
259/7 854/7	زکوٰۃ کا معنی	11		زبور	1
553/8	زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی	12	677/7	زبور کا معنی	1
215/9	زکوٰۃ کا لغوی و اصطلاحی معنی	13	678/7	قرآن کے صدق پر زبور کی شہادت	2

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
14	انبیاء پر زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا	216/9	5	زلزلہ پیائی	929/12
15	زکوٰۃ کی تاکید اور اس کے فضائل	217/9	6	برصغیر پاک و ہند میں زلزلے تاریخ کے	
16	زکوٰۃ کی تعریف	369/11		آئینے میں	930/12
5	حضرت زکریا علیہ السلام		7	زلزلے سے متعلق ۲۰ / اہم سوالات کے	
1	سوانح عمری	141/2		جوابات	932/12
2	حضرت مریم کی کفالت کرنا	143/2	8	زلزلہ سے متعلق اہم نکات	935/12
3	اولاد کی دعا کرنا	145/2	9	زلزلہ کا لغوی و عرفی معنی	937/12
4	حضرت یحییٰ کی ولادت کو مستعجب سمجھنا	151/2	10	زمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت	937/12
5	تین دن سے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند کرنے کے فوائد اور حکمتیں	151/2	7	سورۃ الزلزال	
6	حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت	250/7	1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	925/12
7	حضرت زکریا علیہ السلام کا نداء خفی کرنے کی وجہ	251/7	8	زم زم	
8	حضرت زکریا علیہ السلام کو کس نے بشارت دی تھی؟	254/7	1	زم زم کے فضائل	204/6
9	حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال	255/7	9	زمین	
10	حضرت زکریا علیہ السلام کے محراب کا مصداق	256/7	1	زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا	324/1
11	حضرت زکریا علیہ السلام کا تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرنا	256/7	2	زمین اور آسمان کی تخلیق میں ترتیب	345/1
12	حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ	658/7	3	زمین میں سرنگ بنانے کا معنی	446/3
6	زلزلہ		4	زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے کا معنی	541/3
1	زلزلہ کی تعریف، اسباب اور اثرات	926/12	5	زمین کبھی موحدین اور عابدین سے خالی نہیں رہی	558/3
2	زلزلہ کی تاریخ	926/12	6	زمین کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل	601/3
3	زلزلہ کہاں آسکتا ہے؟	927/12	7	زمین کو چھ دنوں میں بنانا	155/4
4	زلزلہ کس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے؟	928/12	8	زمین کی پیداوار کی دنیا کے ساتھ مثال	353/5
			9	زمین کے ذکر کو آسمان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ	415/5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	زمین میں داخل اور اس سے خارج ہونے والی چیزیں	29	500/5	زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کرنے کی وجہ	10
597/9				زمین کی پیدائش سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	11
697/9	زمین کی حفاظت فرمانا	30	573/5		
698/9	زمین کی حرکت پر دلائل	31		زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت کی نشانیاں	12
	دنیا کی زمین کی وسعت، جنت کی زمین کی وسعت اور رزق کی وسعت	32	876/5		
199/10			120/6	اطراف زمین کو کم کرنے کے محامل	13
561/10	زمینوں کی چابیوں کے محامل	33	<u>223-226</u> 6	زمین کا تبدیل ہونا	14
	زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے نعمتیں	34	260/6	زمین سے الوہیت اور وحدانیت پر استدلال	15
658/10				زمین کو پھیلانا اس کے گول ہونے کے متافی نہیں ہے	16
906/11	زمین کے خزانے	35	261/6		
912/11	زمین کا زبان قال سے تسبیح کرنا	36	377/6	زمین پر پہاڑوں کا نصب کرنا	17
937/12	زمین پر قیامت کے زلزلہ کی کیفیت	37	435/7	زمین کی اقسام	18
938/12	زمین کا اپنا بوجھ باہر نکالنا	38	529/7	زمین بنانے کی حکمتیں	19
938/12	زمین کے خبر دینے کی کیفیت	39	545/7	زمین کے فتح اور رتق کا بیان	20
712/12	زمین میں نشانیاں	40	549/7	زمین کا اپنے مدار میں گردش کرنا	21
90/12	سات زمینوں کے متعلق مفسرین کی آراء	41	679/7	زمین کی وراثت سے جنت کی زمین مراد ہونا	22
91/12	سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث	42	679/7	زمین کی وراثت سے دنیا کی زمین مراد ہونا	23
<u>92-96</u> 12	سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس	43		جب زمین کی وراثت صرف نیک بندوں کو دی جاتی ہے تو پھر کافروں کو حکومتیں اور اقتدار کیوں دیا گیا؟	24
679/12	زمین کو ذات الصدع فرمانے کی توجیہات	44	680/7		
637/12	زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث	45	710/7	زمین کی پیداوار سے حشر و نشر پر استدلال	25
559/12	زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کرنے کی تحقیق	46	266/8	زمین پر وقار کے ساتھ چلنا	26
559/12	زمین کے منافع اور فوائد	47	150/9	زمین میں اللہ کی بلند صفات	27
	سورة الزمر	10		زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے متافی نہیں	28
160/10	سورة کا نام	1	238/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	زانیہ کے لیے صرف زانی سے نکاح کی اجازت	12	160/10	سورۃ الزمر کا زمانہ نزول	2
67/8			160/10	سورۃ الزمر اور سورۃ ص میں مناسبت	3
68-69/8	زانیہ سے مومن کا نکاح	13	161/10	سورۃ الزمر کے مشمولات	4
76/8	زانی کو از خود قتل کرنا	14	304/10	سورۃ الزمر کا اختتام	5
	زندگی	13		زندیق	11
454/8	فانی زندگی پر مغرور نہ ہونے کی تلقین	1	308/1	زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم	1
	زوجہ	14	308/1	زندیق کی توبہ	2
578/2	بیویوں کے درمیان عدل	1	633/4	زندیق کا معنی و مفہوم	3
659/2	بیوی کو مارنا	2	632/4	زندیق کی توبہ	4
660/2	اختلاف زن و شوہر	3		زندیق، منافق، دھریہ اور ملحد کی تعریفوں میں فرق	5
662/2	شوہر کا بیوی کو نفقہ و طلاق نہ دینا	4	633/4		
284/3	بیوی سے کہنا "تو مجھ پر حرام ہے" کا شرعی حکم	5	634/4	زندیق کو قتل کرنے کا شرعی حکم	6
518/6	شوہر کی خدمت کرنا	6		زنا	12
	عام مسلمانوں پر ازواج میں باریوں کی تقسیم کا جواب	7	819/1	زنا کی شہادت	1
521/9			709/6	حرمت زنا کی وجوہ	2
109/12	بیوی کو حرام کہنے میں مذاہب فقہاء	8	710/6	حرمت زنا کو حرمت قتل پر مقدم کرنا	3
	بیویوں کے سوا جنسی لذت کے حصول کی ممانعت	9	43-48/8	زنا کا لغوی معنی	4
236/12			48/8	حد زنا کی شرائط	5
	زوج	15	49/8	احسان کی تحقیق	6
668/2	جو شخص اپنی بیوی کو نہ خرچ دے اور نہ آباد کرے	1	49/8	زنا کی ممانعت اور دنیا و آخرت میں اس کی سزا	7
819-820 2	بیویوں کے درمیان عدل کرنا	2	50/8	زنا کی مذمت	8
290/8	زوج کریم کا معنی	3	57/8	زنا کی حد میں عورت کے ذکر کو مقدم کرنا	9
	شوہر پر اس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا وجوب	4	59-61/8	زانی کو کوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنا	10
86/12			61/8	غیر شادی شادہ زانی کو صرف کوڑے مارنا	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
376/6	زیورات کی زکوٰۃ میں مذاہب فقہاء	4		زہد	16
726/10	مرد کے زیور پہننے کی تفصیل	5	412/5	تقصیف اور بناوٹی زہد اللہ کی ناشکری ہے	1
	زیتون	19	$\frac{427-432}{5}$	خلفائے راشدین کا زہد و تقویٰ	2
607/3	زیتون کے خواص	1	432/5	امام عظیم کا زہد و تقویٰ	3
862/7	زیتون کے غذائی اور طبی فوائد	2	48/7	زہد کی تعریف	4
	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	20	46/7	زہد کے متعلق احادیث	5
376/9	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات	1		آخرت کے ثواب میں اضافہ کی خاطر زہد کو اختیار کرنا	6
	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا سلوک	2	96/11	نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کا زہد	7
456/9	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	21	$\frac{96-100}{11}$	زیارت رسول کریم ﷺ	17
	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا غیر کفو میں نکاح ہونا	1	719/2	زیارت رسول ﷺ کے لیے صحابہ کا خطرہ	1
452/9	رسول اللہ ﷺ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیل	2	493/9	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ کی زیارت کرنا اور آپ ﷺ کی تعلیم سے مستفید ہونا	2
456/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی مختصر سوانح	3	494/9	ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی ﷺ کی زیارت کی کیفیت	3
458/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آسانی	4	493/9	اولیاء کا حضور ﷺ کی بیداری و نیند میں زیارت کرنا	4
525/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ اور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث	5		عہد صحابہ میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ ﷺ سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں نہیں ہوا؟	5
527/9	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ کی بعض تفصیلات	6	495/9	زیورات	18
	زینت	22	373/6	زیورات کے متعلق احادیث	1
733/11	زینت کا معنی	1	374/6	زیورات کے متعلق فقہی احکام	2
	زیارت قبور	23	374/6	زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق احادیث و آثار	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
831/12	سائل کو دینے کی ترغیب میں احادیث	14	959/12	زیارت قبور کا بیان	1
833/12	اگر سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کریں؟	15	960/12	عورتوں کے لیے زیارت قبور کا حکم	2
س					
834/12	حقوق سے گزر گڑا کر سوال نہ کیا جائے	16		سامری	1
866/12	صرف اللہ کی طرف سوال کرنے میں رغبت کی جائے	17	429/7	سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملامت کرنا	1
233/12	سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ	18	430/7	سامری کی دنیا میں سزا	2
	سازش	4	430/7	سامری کا پتھرے کو جلا کر راکھ کرنا	3
699/9	بڑی سازش کی ممانعت	1	429/7	اثر رسول کے متعلق تفسیر	4
	سورۃ سبا	5		سالک	2
591/9	سورۃ کا نام اور اس کا زمانہ نزول	1	563/10	سالک کی تعریف	1
591/9	سورۃ سبا اور سورۃ الاحزاب میں مناسبت	2		سائل / سوال کرنا	3
592/9	سورۃ سبا کے مشمولات	3	266/4	کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنے کا جواز	1
644/9	سورۃ سبا کا اختتام	4	847/5	سوال کرنے کی شرائط و احکام	2
	سبحان	6	80/6	سوال نہ کرنے کا عہد	3
615/6	سبحان کا معنی	1	80/6	سوال کرنے کے جواز کی شرائط	4
616/6	سبحان اللہ کہنے کی فضیلت	2	714/6	سائل سے پیش آنے کا طریقہ	5
	سبب نزول	7	182/7	کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جانا	6
86/1	اسباب نزول کا بیان	1	222/8	کھانا مانگنے کا سوال کرنا	7
87/1	اسباب نزول کے فوائد	2	369/11	اللہ کے وعدہ کی بناء پر اس سے سوال کرنا	8
88/1	عام سبب اور آیت کے عام الفاظ	3	371/11	سائل اور محروم کی تعبیرات	9
88/1	خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ	4	371/11	اسلام میں سوال کرنے کی شرعی حیثیت	10
91/1	ایک آیت کے متعدد اسباب	5	372/11	سوال نہ کرنے کے متعلق احادیث	11
	سابقہ مشیل	8	830/12	سوال کرنے کے جواز اور عدم جواز کا معیار	12
				صحیح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کیلئے وعید	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
67/6	لغوی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا	10	496/2	سابقہ امتوں میں قربانی و صدقات وغیرہ کو آگ کا کھانا	1
68/6	سایوں کے سجدہ کرنے کی توجیہ	11		قوم سبا	9
68/6	سجدہ کی فضیلت کے متعلق احادیث	12	615/9	قوم سبا کی خوشحالی اور بد حالی	1
277/6	فرشتوں کے سجدہ کی کیفیت	13	616/9	اہل سبا کی ناشکری اور اس کا انجام	2
278/6	تمام فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا	14		السبع الثانی	10
456/6	ہر چیز کے سائے کے سجدہ کی توضیح	15	315/6	السبع الثانی کی تفسیر میں متعدد اقوال	1
457/6	ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا محمل	16		ستارہ	11
295/7	سجدہ تلاوت کرنے کے آداب	17	690/12	ستاروں کی بروج میں گردش	1
721/7	سورج کا سجدہ کر کے ٹھہرنا	18	607/12	ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ	2
722/7	سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، مومنوں اور کافروں کے سجدہ کی کیفیت	19		شہ بازی	12
885/12	سجدہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول	20		دیکھئے "28: جواہ" صفحہ 107	1
	سجدہ تلاوت	14	340/1 65/4	سجدہ	13
331/9	سجدہ تلاوت کے آداب	1		سجدہ کا معنی	1
332/9	نماز میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ	2	339/1	آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ	2
68/10	سورہ ص کے سجدہ کے وجوب میں اختلاف فقہاء	3	65/4	قرآن میں سجدہ کے اطلاقات	3
	سورہ ص کے سجدہ تلاوت کے متعلق احادیث و آثار	4	523/4	سجدہ تلاوت کی تحقیق	4
69/10	نماز اور خارج از نماز سجدہ تلاوت کا ادا ہونا	5	523/4	سجدہ تلاوت کے حکم میں مذاہب فقہاء	5
512/10	آیت سجدہ	6	524/4	سجدہ تلاوت کی تعداد	6
694/11	جنسی، حائض اور بے وضو کا سجدہ تلاوت کرنا	7	522/4	حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جاتا	7
			66/6 277/6	سجدہ کا لغوی و اصطلاحی معنی	8
				اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	سرگوشی کرنا	21		سورۃ السجدہ	15
392/7	سرگوشی کرنا	1	301/9	سورۃ کا نام	1
779/11	اللہ تعالیٰ کا سرگوشیوں پر مطلع ہونا	2	301/9	سورۃ السجدہ کے فضائل میں احادیث	2
780/11	تین اور پانچ سرگوشیاں کرنے والوں کی تخصیص	3	302/9	سورۃ السجدہ اور سورۃ لقمان کی مناسبت	3
780/11	یہودیوں اور منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف سرگوشیوں سے منع فرماتا	4	303/9	سورۃ السجدہ کے مشمولات	4
780/11	مسلمانوں کو سرگوشی سے منع کرنے کا محل	5	348/9	سورۃ السجدہ کا اختتام	5
782/11	مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر باقیوں کا سرگوشیاں کرنا منع ہے	6		سجدہ تعظیسی	16
783/11	نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کے حکم کی حکمتیں	7	864/5	شریعت محمدی ﷺ میں سجدہ تعظیسی کا حرام ہونا	1
787-789	سزا	22	148/10	سچ	17
11	کسی کو تادیب و سرزنش کے لیے سزا دینے کی حد	1		مزید دیکھئے "10: صدق" صفحہ 162	1
392/8	قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائیں	2		سحر	18
394/8	رحمن کے مردود بندوں کی سزا	3		دیکھئے "3: جادو" صفحہ 100	1
279/8	بقدر جرم سزا دینا	4		سرقہ کرنا (چوری کرنا)	19
361/10	حضرت سعد رضی اللہ عنہ	23	180/3	سرقہ کا معنی	1
412/9	حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا موت کی تمنا کرنا	1		جاہلیت اور اسلام میں جن کے ہاتھ کاٹے گئے	2
	سفر	24	180/3	چور کے ہاتھ کاٹنے میں حکمت	3
777/9	کشتی کے ذریعے سفر کی خصوصی نعمت	1	181/3	حد سرقہ کا نصاب	4
	سکوت	25	181-185	کون سا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے؟	5
	دیکھئے "2: خاموش" صفحہ 119	1	3	جن صورتوں میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا	6
	سگریٹ نوشی	26	186/3	سرجری	20
			187/3	سرجری کیلئے غیر مسلم اور مسلم اموات کا پوسٹ مارٹم	1
			185-188		
			9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال کے متعلق احادیث	17		دیکھئے "41: تمباکو نوشی" صفحہ 94	1
607/8				حضرت سلیمان علیہ السلام	27
609/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	18	459/1	حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت	1
611/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم علم عطا کیا گیا	19	621/7 998/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام و نسب	2
622-627	حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و علم کے وارث تھے نہ کہ مال کے	20	621/7	حضرت سلیمان علیہ السلام کے احوال و فضائل	3
8			622/7	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات	4
634/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز دی گئی	21	622/7	حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کا اختلاف	5
635/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور ان کا لشکر	22		حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے تیز وزم ہواؤں کو مسخر کرنا	6
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ڈرانے والی چیونٹی	23	642/7		7
636/8			642/7	جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کرنا	7
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنت اور بعد از وفات ذکر جمیل کی دعا کرنا	24	598/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر	8
647/8			599/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا قضاء ہونا	9
	حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے نصیحت	25	600/8	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کی تعداد	10
650/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجتہاد میں اصابت رائے	11
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد کی گمشدگی کے متعلق سوال کرنا	26	602/8		12
651/8				حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث پر اعتراض کا جواب	12
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی بشارت دینا	27	601/8		13
652/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعاتی شہادت سے استدلال	13
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب میں پہلے اپنا نام لکھنا	28	603/8		14
678/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطا کیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا	14
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان لانے کا حکم دینا	29	604/8		15
682/8				حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کرنا	15
	حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل	30	604/8		16
609/9				حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا طاری ہونا	16
	حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ	32	605/8		مسخر کرنا
90/10					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
837/8	سلام کی اقسام	12	90/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کی تعداد	33
732/10	کافروں کو سلام کرنے کا مسئلہ	13	91-96	حضرت سلیمان علیہ السلام کا آزمائش میں مبتلا ہونا	34
781/11	اہل ذمہ کو سلام کا جواب دینے میں فقہاء کے مذاہب	14	10	حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے متعلق اسرائیلی روایات	35
703/11	مومنوں پر فرشتوں کے سلام کے مواقع اور مقامات	15	96/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کا محمل	36
	سلطان	29	104/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسلط کی دعا کرنا	37
	دیکھئے "3: حاکم" صفحہ 110	1	106/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کرنا	38
	سلطنت	30	110/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو زنجیروں سے جکڑنا	39
	دیکھئے "3: حاکم" صفحہ 110	1	111/10	حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیاوی و اخروی قرب	40
	سمع موتی	31	111/10	سلام / معانقہ	28
576/4	سمع موتی کی بحث	1		سلام کا مقرر کردہ طریقہ	1
	سمع موتی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی توجیہ	2	735/2	مصافحہ اور معانقہ کی فضیلت	2
577/4	سمع موتی کے ثبوت میں احادیث و آثار	3	736/2	کن لوگوں کو سلام میں پہل کرنی چاہیے	3
584/4	سمع موتی کا ثبوت	4	737/2	کن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے	4
737/8	قبر والوں کے سننے کا مسئلہ	5	738/2	جن لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے	5
669/9	قبر والوں کے غور و فکر نہ کرنے پر ایک اعتراض کا جواب	6	584/5	جن لوگوں کے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے	6
670/9	سمع	32	584/5	سلام کرنے کے شرعی الفاظ اور اس کے شرعی احکام و مسائل	7
	سمع کے دوران قیام	1	585/5	سلام کے متعلق احادیث	8
63/7	ہمارے زمانہ کے بتاؤنی صوفیاء کا سلام	2	583/5	سلام کی اقسام	9
387/8	کس قسم کے اشعار کے ساتھ سلام جائز ہے	3	284/7	کفار و فساق کو سلام کرنا	10
222/9	آلات موسیقی کے ساتھ سلام کا حرام ہونا	4	285/7	گھر میں دخول کے وقت گھر والوں کو سلام کرنا	11
225/9			188/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
96/1	مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت	3	225-229	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں ائمہ	5
	سورج	37	9	مذہب اربعہ کے نظریات	
151/3	حدیث ردئش	1	229/9	جائز اور ناجائز سماع	6
149/3	حضرت یوشع کے لیے سورج ٹھہرانا	2	230/9	سماع کے اسباب	7
150/3	نبی ﷺ کا سورج کو لوٹانا	3	231/9	سماع کی حقیقت	8
144/7	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ردئش	4	231/9	سماع کی انواع و شرائط	9
147/7	حدیث ردئش پر اعتراضات کے جوابات	5	233/9	سماع کے متعلق اعلیٰ حضرت کی تحقیق	10
763/9	سورج کے مستقر کے متعدد محامل	6		سمندر	33
764-770	سورج کا غروب کے وقت عرش کے نیچے	7	368/6	سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	1
9	سجدہ کرنا		368/6	سمندر کی تسخیر کا معنی	2
	سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر	8	369/6	سمندری جانوروں کا کھانا	3
771/9	سبقت نہ کرنا		185/7	سمندر میں کام کرنے والے مسکین	4
510/10	سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنا	9		سنت	34
	سورج گرہن کی نماز کے طریقہ میں مذاہب	10	509/1	سنت کی تعریف، اقسام اور شرعی حکم	1
510/10	ائمہ		511/1	ترک سنت کی سزا	2
	سورج کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں،	11	382/2	سنت کا معنی	3
764/12	برکتیں اور نشانیاں		382/2	قرآن مجید کی روشنی میں سنت کا مفہوم	4
764/12	چاند کن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟	12	455/3	سنت کی حجیت پر دلائل	5
	رات اور دن کی سلطنت کا سورج سے زیادہ	13	94/7	سنت پر عمل کرنے کا جواز	6
765/12	ہونا			سود	35
	سونا	38		دیکھئے ”6: ربا“ صفحہ 133	1
722/10	سونے کا برتنوں کا حرام ہونا	1		سورۃ	36
	سونے کے ظروف آرائش اور چادرانگل سونے	2	93/1	سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت	1
723/10	کے کام والے کپڑوں کا جواز		95/1	سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				سونے کے ظروف کی تفصیل	3
759/10	شب برأت میں شب بیداری کرنا اور مخصوص عبادات کرنا	4	744/10		
			451/12	سونے کے کنگن	4
759/10	شب برأت میں صلوٰۃ التبیح اور دیگر نوافل کو جماعت سے پڑھنا	5	448/12	جنت میں سونے کے برتن	5
				سہو	39
	شجرۃ الزقوم	3	994/12	سہو کی تحقیق	1
750/6	شجرہ الزقوم کا معنی	1		سیارہ	40
751/6	شجرۃ الزقوم کو طعون فرمانا	2	554/7	ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	1
	الشیخ	4		ہر سیارے کی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق	2
826/11	الشیخ کے متعلق احادیث و آثار	1	550/7		
	شکر	5		قدیم فلاسفر کے نزدیک ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	3
403/8	شکر کی اقسام	1	771/9		
	شرح صدر	6	772/9	ہر سیارہ کی اپنی گردش کے متعلق سائنسی تحقیق	4
841/12	شرح صدر کا معنی	1		سیدھا راستہ	41
842/12	شرح صدر کے متعلق احادیث	2		دیکھئے "12: صراط مستقیم" صفحہ 162	1
	شکر	7		ش	
311/1 687/2	شکر کی تعریف	1		شام	1
311/1 688/2	کیا چیز شکر ہے اور کیا نہیں؟	2	613/7	شام کا برکت والی سرزمین ہونا	1
287/4	شکر کے فعل کا جہالت و حماقت ہونا	3		شب برأت	2
288/4	کسی مسلمان مومن کو مشرک کہنا کیسا	4		لیلۃ مبارکۃ سے نصف شعبان کی رات مراد ہونے کے متعلق روایات	1
363/5 447/5	شکر کا بطلان	5	744/10		
481/5	نبی ﷺ کو شکر سے منع کرنے میں امت کی طرف تعریض ہے	6	744-748 10	شب برأت میں کثرت مغفرت کے متعلق احادیث وغیرہ	2
651/5	دنیا میں شکر کا قابل درگزر ہونا	7	751-759	وہ کام جن کی وجہ سے شب برأت میں دعا کی مقبولیت سے محرومی ہوتی ہے	3
760/5	شکر سے اجتناب کے اختصاص کی توجیہ	8	10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
642/2	شریعت کا مزاج، آسان احکام بیان کرنا ہے	6	65/6	غیر اللہ کو حقیقی حاجت روا مان کر پکارنا شرک ہے	9
765/2	احکام شرعیہ کا مدار	7	395/6	کفار مکہ کے شرک پر اصرار کا سبب	10
381/3	شریعت کی طرف اشارہ	8	516/6	شرک کے زد پر دلیل	11
782/5	تمام مقاصد حیات کے لیے شریعت کا مکمل ہونا	9	683/6	شرک کی مذمت	12
173/7	شریعت کی تعریف	10	745/6	مطلقاً دطلب کرنے کو شرک کہنا	13
562/10	شریعت کا لغوی و اصطلاحی معنی	11	214/8	شرک کی پستی	14
561/10	تمام انبیاء کا دین واحد اور شریعتوں کا متعدد ہونا	12	224/8	شرک کی مذمت	15
580/10	خود ساختہ شریعتوں کی مذمت	13	720/8	شرک کا ابطال	16
801/10	حضور ﷺ کی شریعت کا ممتاز اور منفرد ہونا	14	851/8	اولیاء اللہ کو "مشکل کشا" کہنے کو موذی کا شرک قرار دینا	17
802/10	آپ ﷺ کی شریعت کے بعد کسی اور کی شریعت کی طرف التفات کرنا جائز نہیں	15	238/9 837/9	شرک کی مذمت	18
	شرم گاہ	9	864/8	اس آیت کی توجیہ کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں	19
89/4	مرد اور عورت کی شرم گاہوں کے مصادیق	1	251/9	شرک کے ظلم عظیم ہونے کی وجہ	20
101/4	برہنہ طواف کی ممانعت	2	1039/12	شرک کی تعریف اور مشرکین مکہ کا شرک	21
102/4	تعمیر کعبہ کے وقت تہبند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت کی تحقیق	3		شریعت	8
	شعور	10	176/1	شریعت کا معنی	1
286/1	شعور کا معنی	1		جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کا شریعت کا مکلف ہونا	2
	شعر	11	217/1	شریعت کے معنی میں اہل سنت و معتزلہ کا اختلاف	3
519/7	شعر کا معنی اور رسول اللہ ﷺ کا علم شعر کی تحقیق	1	301/1	شریعت کا مزید بیان	4
			500/1	احکام شرعیہ پر عمل	5
			641/2		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
2	شعر کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی تاریخ	536/8	6	حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ	418/8
3	شعراء کا ہر وادی میں بھٹکتے پھرنا	537/8	7	حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام بعثت	420/8
4	اشعار کی مذمت میں احادیث	538/8	8	اہل مدین اور اصحاب الایکہ	421/8
5	رسول اللہ ﷺ کا انتقام لینے کیلئے کفار کی ہجو کرنا	539/8	9	اصحاب الایکہ پر عذاب نازل ہونا	436/8
6	اشعار کی فضیلت میں احادیث	541/8	10	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا	77/9
7	حکیمانہ اشعار کا معدن و منبع	543/8	11	عاد اور ثمود کی ہلاکت	77/9
8	رسول اللہ ﷺ کے اشعار نہ کہنے کا سبب	543/8	13	شعائر اللہ	
9	شعر کی تحقیق	828/9	1	شعائر اللہ کا معنی	36/3
10	قرآن کی بعض آیتوں پر شعر ہونے کا شبہ اور اس کا جواب	828/9	2	کعبہ اور شعائر حرم	328/3
11	گمراہ کن اشعار	829/9	3	شعائر اللہ کا معنی و مصداق	748/7
12	نبی ﷺ کے کہے ہوئے کلام موزوں کے شعر ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ	831/9	4	اولیاء کے مزارات کا شعائر اللہ میں داخل ہونا	749/7
13	کیا حضور ﷺ کو شعر کہنے کے فن کا علم تھا؟	834/9	14	سورۃ الشعراء	
14	اجتہاد اور پسندیدہ اشعار کا بیان	834/9	1	سورۃ کا نام و وجہ تسمیہ	283/8
12	حضرت شعیب علیہ السلام		2	سورۃ الفرقان سے سورۃ الشعراء کی مناسبت	283/8
1	حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ کی تشریح	609/5	3	سورۃ الشعراء کے مقاصد و مسائل	284/8
2	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سامنے تقریر	609/5	4	سورۃ الشعراء کی فضیلت	285/8
3	حضرت شعیب علیہ السلام کے خطاب کا تمہ اور قوم کو نصیحت	611/5	5	سورۃ الشعراء میں انبیاء کے قصص کی تنقیح	437/8
4	حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو کفار کے نہ سمجھنے کی وجہ	613/5	6	سورۃ الشعراء کا اختتام	543/8
5	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی تفصیل	614/5	15	شفاء	
			1	شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال	339/8
			16	شفقت	
			1	خلق پر شفقت کی تفصیل	729/9
			17	شفاعت	
			1	شفاعت پر قرآن سے استدلال	391/1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
443/7	شفاعت کے متعلق محمد بن عبدالوہاب کا نظریہ	20	393/1	شفاعت پر حدیث سے استدلال	2
443/7	شفاعت کے متعلق شیخ اسماعیل کا نظریہ	21	747/1	شفاعت طلب کرنا	3
454/7	شفاعت کے متعلق ابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ	22		نبی کریم ﷺ کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنا	4
444/7 477/7	شفاعت بالوجاہت کا مفہوم	23	714/2		
445/7	شفاعت اور محبت	24	734/2	شفاعت کا معنی اور اس کی اقسام	5
447/7	شفاعت اور دعا	25	734/2	نگلی کے کاموں میں شفاعت	6
449/7	شفاعت بالاذن	26		فساق مومنین کے لیے نبی کریم ﷺ کی شفاعت	7
457/7	ہر شخص کی شفاعت ہر کے لیے مخصوص اذن	27	379/3		
459/7	گناہ کبیرہ کی شفاعت کے جواز پر دلائل	28		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گناہگاروں کی آخرت میں دوبارہ شفاعت فرمانا	8
461/7	شفاعت کے متعلق علماء اہل سنت کا نظریہ	29	621/4		
464/7	انبیاء علیہم السلام کی شفاعت	30	196/6	مرتبین کبار کی شفاعت پر دلیل	9
464/7	شفاعت کے متعلق قرآن کی آیات	31		شفاعت کی توقع کے باوجود توبہ کرنے میں تاخیر نہ کی جائے	10
464/7	حضرت سیدنا محمد ﷺ سے طلب شفاعت	32	775/6		
465/7	صالحین کی شفاعت، مومنین کے لیے	33	775/6	شفاعت کبریٰ کے متعلق احادیث	11
465/7 322/10	فرشتوں کا شفاعت کرنا	34		قیامت کے دن حضور ﷺ کی شفاعت کی اقسام	12
466/7	شفاعت کے متعلق چالیس احادیث	35	777/6		
541/7	کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کا عدم جواز	36		حضور ﷺ کی شفاعت سے دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جاتا	13
623/9	کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل	37	778/6		
212/10	گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی شفاعت پر ایک اعتراض کا جواب	38	438/7	شفاعت کا لغوی معنی	14
339/10			440/7	شفاعت کا اصطلاحی معنی	15
274/10	بتوں کی شفاعت کرنے کا رد	39	441/7	شفاعت کے متعلق معتزلہ کا نظریہ	16
	مشرکین کے لیے بتوں کی شفاعت کا باطل ہونا	40	441/7	شفاعت کے متعلق شیخ ابن تیمیہ کا نظریہ	17
108/11			442/7	شفاعت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ	18
	کفار کیلئے فرشتوں کی شفاعت نہ کرنے کی توجیہ	41	442/7	شفاعت کے متعلق شیعہ کا نظریہ	19
517/11					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
142/6	شکر کے متعلق احادیث و آثار	9	613/12 533/12	اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی ممانعت	42
143/6	شکر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا معیار	10	536/12	حصول شفاعت کی دعا پر معتزلہ کے اعتراض کا جواب	43
146/6	حمد اور شکر میں فرق	11	396/12	فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت	44
146/6	من لم يشكر الناس لم يشكر الله	12	213/12	کفار کا شفاعت سے محروم ہونا	45
147/6	شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات	13	227/12	مسلمانوں کا گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنا	46
152/6	اللہ کا شکر نہ کرنے سے اسے کوئی نقصان نہیں	14		شق صدر	18
463/6	شکر کے شرعی احکام اور اس کے متعلق احادیث	15	851/12	معراج کے موقع پر شق صدر	1
644/6	حضرت نوح علیہ السلام کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا	16	852/12	آپ علیہ السلام کا شق صدر کتنی بار ہوا؟	2
699/6	شیطان کا، ناشکرا ہونا	17	853/12	شق صدر پر اعتراضات کے جوابات	3
473/8	بندہ کے شکر اور اللہ کے شکر کا معنی	18		شق قمر	19
646/8	ادائیگی شکر کا طریقہ	19	574/11	واقعہ شق القمر کے متعلق احادیث	1
193/9	شکر کی تلقین	20	576/11	واقعہ شق القمر پر اعتراضات کے جوابات	2
280/9	شکر کی فضیلت میں احادیث و آثار	21	580/11	واقعہ شق القمر کو مشرکین مکہ کا دیکھ لینا	3
282/9	صوفیاء کے نزدیک شکر کی تعریفات	22		شکر/شاکر	20
452/12	بندوں کا مشکور اور اللہ کا شاکر ہونے کی توجیہ	23	839/2	شکر کی ایمان پر تقدیم	1
187/12	ناشکری کا انجام بد	24	840/2	شاکر اور علیم میں مناسبت	2
	شک	21	53/4 143/6 146/6	شکر کا معنی	3
241/1	ریب کا معنی	1		شکر کے متعلق قرآنی آیات	4
241/1	قرآن میں ریب کی نفی اور اثبات کا عمل	2	54/4	شکر ادا کرنے کے طریقے	5
	قرآن میں بظاہر شک کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف ہونا اور اس سے عام لوگوں کا مراد ہونا	3	54/4 56/4 89/4	شکر کی فضیلت	6
466/5	شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہونا	4	116/4	لباس کی نعمت پر شکر	7
467/5	شک کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہونا	4		شکر ادا کرنے کے متعلق حدیث	8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
79/3	بندوق سے مارا ہوا شکار	18	467/5	شک کی نسبت کے متعلق بعض تراجم	5
80/3	بندوق کے شکار کو حلال قرار دینا	19	576/5	شک اور مرید میں فرق	6
	شگون	24	151/8	شک کی تعریف	7
271/4	قال اور شگون نکانے کی تحقیق	1		شکوہ / شکایت	22
272/4	بد شگونی کی ممانعت کے اسباب	2	231/12	فقر اور مرض میں شکوہ و شکایت نہ کرنا	1
273/4	نیک قال کے جواز کا سبب	3		شکار	23
274/4	عورت، مکان اور گھوڑے میں بد شگونی	4	316/3	حالت احرام میں شکار	1
275/4	بد شگونی لینا کفار کا طریقہ ہے	5	317/3	محرم کو شکاری جانوروں کے قتل کی اجازت	2
	کسی چیز سے بد شگونی لینا یا کسی دن کو منحوس قرار دینا	6	318/3	قتل کرنے پر ضمان	3
276/4			318/3	شکار کی تعریف	4
278/4	بد شگونی کے متعلق خلاصہ	7	318/3	شکار پر دلالت کی وجہ سے ضمان	5
651/6	طائر کا لغوی و عرفی معنی	8	320/3	شکار کی جزاء	6
657/6	طائر کے متعلق احادیث	9	322/3	طعام کا صدقہ	7
699/8	نخوست و بد شگون کی تحقیق	10		اضطرار کی صورت میں شکار اور مردار میں سے کس کو اختیار کیا جائے؟	8
737/9	کفار کا انبیاء کو بد شگون کہنا	11	322/3	دوسری بار شکار کو مارنا	9
44/11	بد شگونی کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	12	322/3	سمندری شکار	10
452/10	بعض ایام کا منحوس ہونا	13	323/3	شکار کا گوشت محرم کے لیے	11
456-464 10	نخوست اور بد شگونی کا رد	14	324/3	شکار کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	12
44/11	بد شگونی کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	15	73/3	شکار کی شرائط	13
	شمس	25	73/3	شکار کرنے والے جانور	14
	دیکھئے "37: سورج" صفحہ 149	1	74/3	شکاری کتے کا معیار	15
	سورۃ الشمس	26	74/3	جس شکار یا ذبیحہ پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے	16
76/12	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت میں احادیث	1	75/3	غلیل، مکان اور دیگر آلات سے شکار کرنا	17
			77/3		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	گواہی کے لیے گواہوں کے جانے کا شرعی حکم	10	761/12	سورۃ الشمس اور سورۃ البلد کی باہمی مناسبت	2
1013/1			762/12	سورۃ الشمس کے مشمولات	3
1014/1	کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان	11	775/12	سورۃ الشمس کا خاتمہ	4
1019/1	گواہی دینے کا وجوب	12		”وما بناھا“ میں ”ما“ سے مراد ”من“	5
604/2	حدود میں عورتوں کی گواہی	13	766/12	ہونے کی توجیہ	
605/2	حدزنا میں چار مردوں کی گواہی	14		شوہر	27
826/2	اپنے خلاف گواہی دینے کا معنی	15		دیکھئے ”15: زوج“ صفحہ 142	1
826/2	عدل کو گواہی پر مقدم کرنا	16		سورۃ الشوریٰ	28
827/2	گواہی نہ دینا	17	533/10	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
117/3	صحیح اور سچی شہادت	18	535/10	سورۃ الشوریٰ کا زمانہ نزول	2
118/3	نا اہل کو سند دینا	19	535/10	سورۃ الشوریٰ کے مقاصد و مباحث	3
119/3	شہادت کی تعریف	20	617/10	شوریٰ کا معنی	4
346/3	غیر مسلموں کو گواہ بنانا	21	649/10	سورۃ الشوریٰ کا اختتام	5
347/3	اہل ذمہ کی آپس میں گواہی	22		شہادت	29
350/3	ناگزیر صورت میں غیر مسلموں کو گواہ بنانا	23	1006/1	شہادت کا معنی	1
	واقعاتی شہادت کے حجت ہونے پر قرآن و حدیث سے دلائل	24	1007/1	شہادت کی اقسام	2
839/5			1008/1	شہادت کا حکم	3
386/8	فاسق انسان کی شہادت مقبول نہیں	25	1008/1	شہادت کی تعریف، رکن اور سبب	4
524/10	قرآن عقلیہ اور شواہد کے خلاف شہادت کا غیر معتبر ہونا	26	1008/1	شہادت کی شرائط	5
527/10			1008/1	عورت کی شہادت	6
236/12	گواہیوں کی تفصیل	27	1010/1	جن امور میں فقط عورت کی گواہی معتبر ہے	7
	شہید	30		مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت	8
315/1 602/1	شہید کا معنی	1	1011/1		
596/1	شہداء کی حیات	2	1012/1	عورت کی شہادت کو نصف قرار دینا	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
108/12	رسول اللہ ﷺ کا شہد نہ پینے کا عزم	6	596/1	شہادت کے بعد بعض جسموں کا متغیر ہونا	3
	شہاب ثاقب	32		سبز پرندوں میں شہید کی روح کے منتقل ہونے سے تناخ کا جواب	4
254/6	شہاب ثاقب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	597/1	شہید کے متعلق فقہی احکام	5
255-260	آپ ﷺ کی بعثت سے قبل شہاب ثاقب گرائے جانے کے متعلق متعارض احادیث	2	603/1	شہید کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	6
6			385/2 719/2		
515/8	شہاب ثاقب کے متعلق حدیث	3	413/2	اللہ کی راہ میں مرنا	7
516/8	ستاروں کی تاثیر کی نفی کے متعلق احادیث	4	457/2	حیات شہداء کے متعلق احادیث	8
	حقیقت میں شیطان کو آگ کا شعلہ لگتا ہے یا ستارہ ٹوٹتا ہے؟	5	458-461	حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات	9
260/6			2		
862/9	شہاب ثاقب سے کیا مراد ہے؟	6	462/2	شہادت کا اجر و ثواب	10
	شہاب ثاقب گرانے پر چند شبہات کے جوابات	7	463/2	حکمی شہداء کے متعلق احادیث	11
863/9			467/2	حکمی شہداء کا خلاصہ	12
863/9	شہاب ثاقب کا معنی	8	468/2	غسل شہداء	13
143/12	شہاب ثاقب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	9	468/2	شہداء کی نماز جنازہ	14
143/12	شہاب ثاقب کے متعلق احادیث	10	469/2	شہداء کا رزق	15
	شہاب الزہری	33	728/11	ہرمومن کا شہید ہونا	16
102/8	شہاب الزہری کون تھے؟ کیا تھے؟ کیسے تھے؟	1	729/11	حاکمی شہداء کی تعداد	17
	شیطان	34	730/11	شہادت کی تمنا کا اجر	18
341/1	ابلیس کا معنی اور اس کا فرشتہ یا جن ہونا	1		شہد	31
340/1	ابلیس کے تکبر کا بیان	2	492/6	شہد کی کہی کی طرف وحی	1
	شجر ممنوعہ کھلانے کے لیے ابلیس کی دوسرے اندازی	3	493/6	شہد کی کہی کی اقسام	2
346/1			494/6	شہد کی کہی کے عجیب و غریب افعال	3
	وہ شیطان جس سے منافق خلوت میں ملتے تھے	4	497/6	شہد کا زیا بلیس کے مریض کے لیے شفا مند ہونا	4
296/1				رسول اللہ ﷺ کا شہد سے امتناع کو حرام سے تعبیر کرنا	5
803/2	شیطان کا گمراہ کرنا	5	107/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
175/6	ابلیس کا وعدہ اور اللہ کا وعدہ	26	805/2	شیطان کا وعدہ	6
175/6	شیطان کا سلطان کی نفی کرنے کے دو محمل	27	629/3	شیاطین کا سرکش ہونا	7
176/6	برے کاموں کے ارتکاب پر شیطان کے بجائے خود کو مطعون کیا جائے	28	630/3	شیطان کے وسوسہ اندازی کی تحقیق	8
			631/3	شیاطین کو پیدا کرنے کی حکمتیں	9
176/6	شیطان کے وسوسہ کی کیفیت	29	66/4	ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟	10
278/6	شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ کے اہم نکات	30	67/4	ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے پر استدلال	11
			70/4		
699/6	شیطان کا ناشکر ہونا	31	74/4	شیطان کے ساتھ طویل مکالمہ، اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا	12
132/7	شیطان کی ذریت کا معنی	32			
283/7	شیطان کی ولایت کا معنی	33	74/4	ابلیس کو جنت سے اترنے کا حکم دیا گیا تھا یا کہ آسمان سے	13
315/7	شیاطین کو کفار پر مسلط کرنا	34			
457/8	شیاطین قرآن کو نازل نہیں کر سکتے	35	76/4	ابلیس لعین کو کتنی زندگی دی گئی ہے؟	14
458/8	شیاطین فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے	36	78/4	ابلیس کا جبر اور قدر میں حیران ہونا	15
139/9	ابلیس کے صیغہ کی تحقیق	37	78/4	ابلیس کا صراط مستقیم سے بہکانے کی سعی کرنا	16
617/9	شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو سچ کر دکھانا	38	79/4	ابلیس کا چار جہات سے حملہ آور ہونا	17
			80/4	ابلیس کا یہ دعویٰ کہ اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے	18
654/9	شیطان کے دعوے کا بیان	39	83/4	ابلیس کی وسوسہ اندازی	19
804/9	شیطان کو عبادت سے روکنے کا محمل	40	506/4	نزغ شیطان کا معنی	20
805/9	شیطان کی اطاعت	41	506/4	وساوس شیطان سے نجات کا طریقہ	21
809/9	شیطان کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے گناہ کرانے کے باوجود ناکام رہنا	42	507/4	وسوسہ شیطان کی وجہ سے عصمت انبیاء پر اعتراض اور اس کا جواب	22
815/9	شیطان کا کام صرف تزئین ہے	43	652/4	ابلیس کا سراقہ کی شکل میں آ کر کفار کو بہکانا	23
117/10	شیطان کو کسی انسان کے جسم پر تسلط اور تصرف حاصل نہیں ہے	44	652/4	ابلیس کو سراقہ کی شکل میں متشکل ہونے کی قدرت دینے کی حکمت	24
148/10	ابلیس کا معنی اور اس کا جنات میں سے ہونا	45	174/6	شیطان سے مراد ابلیس ہونا	25

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
37/10	ولایت عین مناس کی تفسیر	6		ابلیس کے اس زعم کا بطلان کہ وہ آدم سے افضل ہے	46
159/10	سورہ ص کا انقضاء	7	151/10		
	حضرت صالح علیہ السلام	2		معصیت میں شیطان کی اتباع و وزغ میں شیطان کی اتباع کو مستلزم ہے	47
209/4	قوم ثمود کی اجمالی تاریخ	1	685/10		
209/4	حضرت صالح کی بعثت	2	814/10		48
209/4	حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کی طلبی	3	142/12		49
210/4	قوم ثمود کی سرکشی اور ان پر عذاب	4			50
211/4	اونٹنی کا قاتل کون تھا؟	5	145/12		
212/4	اونٹنی کا معجز ہونا	6			35
212/4	قوم ثمود کا قصہ	7	898/9		1
	حضرت صالح علیہ السلام کا دلائل قائم کیے بغیر توحید کی دعوت دینا	8	898/9		2
567/5			643/5		3
576/5	حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کی امیدوں کی وجوہات	9			36
	حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے معجزہ ہونے کی وجوہ	10	117/12		1
577/5					
577/5	اپنی نبوت پر یقین کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام نے بصورت شک بات کیوں کی؟	11			
578/5	اونٹنی سے قوم کی دشمنی کا سبب	12	29/10		1
578/5	اونٹنی کو قتل کرنے کی وجوہ	13	29/10		2
578/5	اونٹنی کو قتل کرنے کی تفصیل	14	30/10		3
579/5	قوم ثمود پر عذاب نازل ہونے کی تفصیل	15	31/10		4
313/6	حضرت صالح علیہ السلام کی نشانیاں	16			5
402/8	حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجنا	17	68/10		فقہاء

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	صالح	3	404/8	حضرت صالح علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ	18
	دیکھئے ”48: نیک لوگ“ صفحہ 275	1		حضرت صالح علیہ السلام کا چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھانا	19
	صائبین	4	404/8		
412/1	صائبین کے دین کی تحقیق	1	405/8	قوم ثمود کا اونٹنی کو قتل کرنا	20
	صابن	5		قوم ثمود کے نادم ہونے کے باوجود ان پر عذاب نازل ہونا	21
636/1	ملکی وغیر ملکی صابنوں کو استعمال کرنا	1	406/8		
	صبر	6	698/8	حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا تعارف	22
	صبر کا معنی	1	699/8	اونٹنی کو قتل کرنے والے نو آدمی	23
387/1	صبر کے متعلق احادیث	2		حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین کی سازش کا ناکام ہونا	24
605/1	دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات	3	700/8	قوم ثمود کے ہلاک ہونے کی کیفیت	25
606/1	مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت	4	700/8	حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے متبعین کا الحجرت سے نکل جانا	26
606/1	انا لله وانا اليه راجعون پڑھنے کی فضیلت	5	701/8		
608/1	مرد و عورت کی شرعی حیثیت	6		قوم ثمود کا ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جانا	27
534/2	صبر کا معنی	7	464/10	قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت	28
534/2	صبر کے متعلق احادیث	8			
535/2	صبر اور مصابروں میں فرق	9	590/11	قوم ثمود اور اونٹنی کے درمیان پانی کی تقسیم	29
535/2	مصابروں کے متعلق احادیث	10	591/11	قوم ثمود کا اونٹنی کو ذبح کرنا	30
485/5	زیادتیوں پر صبر کا حکم	11	591/11	قوم ثمود پر عذاب کی کیفیت	31
690/5	اختیاری صبر کی زیادہ فضیلت	12	592/11	قوم ثمود کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں	32
691/5	ہمارے نبی ﷺ کا صبر حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر سے زیادہ عظیم ہے	13	383/11	قوم ثمود کی سرکشی اور اس کا عذاب	33
	حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کرنے کے بجائے بیٹوں کی تفتیش کیوں نہ کی؟	14	774/12	قوم ثمود کا عذاب	34
720/5			730/12	قوم ثمود کا پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا	35
721/5 843/5	صبر جمیل کی تعریف	15	732/12	قوم ثمود کی عذاب سے ہلاکت	36

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
295/1	صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت	1	721/5	مہر جمیل کے حصول کے اسباب	16
571/1	عدالت صحابہ	2	722/5	مہر جمیل کی اقسام	17
479/2 527/2	تمام صحابہ کرام کا مومن و طیب ہونا	3	843/5	مہر جمیل کے اجر کے متعلق احادیث	18
99/5	سابقین صحابہ کی فضیلت	4	84/6	مہر کی اقسام	19
78/5	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صحابہ کرام کو دینی بھائی کے بجائے میرے اصحاب کہنا	5	84/6	مہر کی وجوہ اور جس وجہ سے مہر اللہ کے لیے ہو	20
209/5	صحابہ کرام کے صدقات پر منافقین کے طعنے	6	88/6	مومنوں کا مہر کرنا	21
643/5	اکابر صحابہ پر شیعہ کا سب و شتم کرنا	7	142/6	مہر کے متعلق احادیث	22
588/10	تعمیم صحابہ کا عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کی خصوصیت ہے	8	604/6	مہر کرنے کی ترغیب	23
588/10	تعمیم صحابہ کے متعلق احادیث	9	501/7	نبی کریم ﷺ کو مہر کا حکم	24
794/11	اپنے کافر باپ یا بیٹے اور دیگر رشتہ داروں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینے والے صحابہ	10	193/9	مہر کی تلقین	25
827/11	صحابہ اور اخیار تائبین سے محبت کا وجوب	11	266/9	مہر اور عزیمت کی تفصیل	26
827/11	اصحاب کو سب و شتم کی ممانعت	12	280/9	مہر کی فضیلت میں احادیث و آثار	27
721/11	فضائل صحابہ میں احادیث	13	282/9	صوفیاء کے نزدیک مہر کی تعریفات	28
268/11	خلفائے راشدین کے فضائل	14	120/10	حضور علیہ السلام کو مہر کی تلقین	29
269/11	سجدوں کے اثر سے پیشانی پر نشان	15	200/10	مہر کے معانی	30
269/11	تورات اور انجیل میں صحابہ کی صفات	16	201/10	مہر کا بے حساب اجر عطا فرمانے کی وجوہ	31
270/11	صحابہ کرام کے فضائل	17	201/10	مہر کی جزاء کے متعلق احادیث و آثار	32
	صحیفہ	8	505/10	لوگوں کی زیادتی پر مہر کرنا اور انہیں جواب نہ دینا	33
418/10	صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	1	918/11	مصائب پر مہر کرنے کی تلقین و ترغیب	34
821/10	لوگوں کو ان کے صحائف اعمال کی طرف بلانا	2	447/12	مہر کی اقسام	35
947/12	صحیفوں کے مندرجات کو ظاہر کرنے کے محامل	3	226/12	مہر جمیل	36
				صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	جنگِ صفین	15	702/12	صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	4
289/11	جنگِ صفین کے متعلق حرفِ آخر	1	629/12	مومنوں کے صحائف کے متعلق احادیث و آثار	5
	صفاتِ باری تعالیٰ	16	658/6	صحائف اعمال کو گلے میں لگانا	6
136-139 10	اللہ تعالیٰ کا غفار ہونا	1	659/6	بندہ کا اپنے صحائف اعمال کو پڑھنا	7
316/10	العزیز اور العظیم کا معنی	2		صدق	9
355/10	جبار و متکبر کا معنی اور ان کے متعلق احادیث	3		دیکھئے "20: دوست" صفحہ 130	1
	اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	4		صدق	10
798/10			380/3	سچ بولنے کا فائدہ	1
	التکبر کا لفظ اللہ کے لیے باعثِ مدح اور مخلوق کے لیے باعثِ مذمت ہے	5	288/5	صدق کے متعلق احادیث	2
835/11			289/5	صدق کی عقلی فضیلت	3
	رحمن کا معنی اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا	6		صدق	11
604/11				دیکھئے "99: انفاق فی سبیل اللہ" صفحہ 75	1
	اللہ تعالیٰ کی صفات میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف	7		صراطِ مستقیم	12
584/11			211/1	صراطِ مستقیم کا معنی	1
684/12	اللہ تعالیٰ کی صفتِ الاعلیٰ ذکر کرنے کی وجہ	8	211/1	نمازی کا صراطِ مستقیم کی دعا کرنا	2
659/12	اللہ تعالیٰ کی عظیم اور منفرد صفات	9	288/6	صراطِ مستقیم کی متعدد تفاسیر	3
	سورۃ الصّٰفٰت	17		صعقہ	13
	سورۃ الصّٰفٰت کی وجہ تسمیہ اور اس کا زمانہ نزول	1	310/4	صعقہ کا معنی	1
853/9				سورۃ البقرہ میں الصاعقہ اور سورۃ الاعراف میں الرجفہ فرمانے کی توجیہ	2
853/9	سورۃ الصّٰفٰت کے متعلق احادیث	2	353/4		
855/9	سورۃ الصّٰفٰت کے مشمولات	3		سورۃ الصّف	14
972/9	سورۃ الصّٰفٰت کے اختتامی کلمات	4			
	صلح حدیبیہ	18	862/11	سورۃ کا نام	1
	صلح حدیبیہ کی زد سے صرف مہاجر مسلمانوں کو کفار کی طرف واپس کرنا	1	862/11	سورۃ الصّف کے مشمولات	2
853/11			873/11	سورۃ الصّف کا اختتام	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				صلح حدیبیہ کا تذکرہ	2
250/5	انبیاء ﷺ کے غیر پرانفراداً صلوة نہ بھیجنے کے دلائل	6	183/11	ذوالقعدہ میں عمرہ کیلئے روانہ ہونے اور حدیبیہ کے مقام پر روکے جانے کے متعلق احادیث	3
249/5	انبیاء ﷺ کے غیر پر استقلالاً صلوة پڑھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات	7	184/11	صلح حدیبیہ کی باقی ماندہ شرائط	4
501/9	اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کا معنی	8	189/11	بیعت رضوان کے متعلق قرآن کی آیات	5
533/9	نبی ﷺ پر اللہ اور فرشتوں کی صلوة کا معنی	9	190/11	بیعت رضوان کے متعلق احادیث	6
536/9	رسول اللہ ﷺ پر صلوة و سلام پڑھنے کی فضیلت میں احادیث	10	191/11	بیعت رضوان کا مفصل واقعہ	7
			192/11	بشارت کی تعین سے پہلے عمرہ حدیبیہ کی توجیہ	8
539/9	دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت	11	193/11	حدیبیہ کے بعد غزوات میں اللہ تعالیٰ کی پیہم نعمتیں	9
540/9 545/9	بعض دیگر مواقع پر درود پڑھنے کی فضیلت	12	256/11	اللہ تعالیٰ کا حدیبیہ میں کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکنا	10
542/9	درود ابراہیمی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب	13	257/11	حدیبیہ میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہ دینے کی توجیہات	11
543/9	نبی ﷺ پر درود پڑھنے کے حکم میں مذاہب ائمہ	14	261/11	حدیبیہ میں وہ کونسی باتیں تھیں جن کو مسلمان نہیں جانتے تھے؟	12
544/9	ہر بار نبی کریم ﷺ کے ذکر میں درود پڑھنے کے دلائل اور ان کے جوابات	15	267/11	حدیبیہ کے بعد کون سی فتح حاصل ہوئی؟	13
544/9	اذان سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنے کا حکم	16	267/11	صلوة (درود و سلام)	19
545/9	اذان اور اقامت کے وقت صلوة و سلام پڑھنے کی تحقیق	17	607/1	غیر انبیاء پر صلوة بھیجنے کی شرعی حیثیت	1
547/9	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء سلام نے صلوة و سلام پڑھنے کو مکروہ کہا ہے	18	248/5	انبیاء کے غیر پر استقلالاً و انفراداً صلوة بھیجنے کی تحقیق	2
547/9	غیر انبیاء پر استقلالاً صلوة پڑھنے میں مذاہب ائمہ	19	248/5	صلوة کا لغوی معنی	3
548/9	غیر انبیاء پر استقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا	20	248/5	انبیاء ﷺ پر انفراداً صلوة بھیجنے میں مذاہب فقہاء	4
			249/5	انبیاء ﷺ کے غیر پر صلوة و سلام بھیجنے میں جمہور کا موقف	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
863/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق آئمہ کی آراء	18	548/9	غیر انبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰۃ کا استعمال	21
865/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق مذاہب ائمہ اربعہ	19	549/9	نبی علیہ السلام کے بغیر صرف صلوٰۃ پڑھنے کا بلا کراہت جواز	22
146/2	نمازی کو ندا کرنا	20		صلوٰۃ (نماز)	20
146/2	محراب میں نماز پڑھنا	21	264/1	صلوٰۃ کا معنی	1
155/2	سجدہ کا ذکر رکوع کے ذکر پر مقدم	22	265/1	بتدریج نمازوں کی فرضیت کا بیان	2
518/2	کروٹ کے بل نماز پڑھنا	23	266/1	نماز میں تمام عبادات کی جامعیت	3
679/2	حالت نشہ میں نماز پڑھنا	24	267/1	قرآن اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید	4
771/2	نماز خوف پڑھنے کا طریقہ	25		تارک صلوٰۃ کے متعلق مذاہب اربعہ کے نظریات	5
778/2	سفر شرعی میں نماز کو قصر کرنا	26	269/1		
779/2	مسافت شرعی کی مقدار	27	388/1	نماز سے مدد حاصل کرنا	6
779/2	مسافت قصر کا اندازہ بحساب میل	28	371/1	باجماعت نماز کے فوائد	7
782/2	مسافت قصر کا اندازہ سمندری سفر میں	29	505/1	چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا	8
783/2	حالت جنگ میں نماز	30		نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلوٰۃ کی تخصیص	9
784/2	ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز	31	549/1		
785/2	قطبین میں نماز	32	567/1	نماز میں ایک طرف منہ کرنے کے اسرار	10
834/2	ستی سے نماز پڑھنا	33	576/1	نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی وجہ	11
591/3	تمام عبادات میں نماز کی اہمیت	34	583/1	پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات	12
592/3	تارک نماز کے متعلق مذاہب فقہاء	35		حفاظت نماز کی تاکید، نماز میں سستی اور اسے ترک کرنے پر وعید	13
702/3	نماز کا اقتحاح کس سے کیا جائے؟	36	855/1		
	فرض نماز میں رسول اللہ ﷺ کے بلائے پر حاضر ہونا واجب ہے	37	859/1	صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق آراء	14
601/4			863/1	چلتی ہوئی ٹرین اور طیارہ پر نماز پڑھنا	15
66/5	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تارک صلوٰۃ کو قتل کرنا	38	866/1	حفاظت نماز اور عدت و فوات میں مناسبت	16
644/5	نماز کی اہمیت	39	864/1	صلوٰۃ خوف پڑھنے کے متعلق احادیث	17

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
503/7	نماز پڑھنے کی تاکید	59		نماز فجر کو سفید اور روشن وقت میں پڑھنے، عصر کو دو مثل سایہ کے بعد پڑھنے اور وتر کے وجوب میں امام ابوحنیفہ کی تاکید	40
560/7	آخری ایام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نمازیں	60	644/5		
562/7	ایام مرض میں نماز ظہر کی امامت کس نے کرائی؟	61	648/5	پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کا معاف ہونا	41
629/7	چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا	62		حضور ﷺ کی لیلۃ التعلیس میں نماز فجر کا قضا ہونا	42
630/7	لاؤڈ سپیکر کے مائیک پر نماز پڑھنا	63	770/5		
857/7	نماز کو سستی اور غفلت سے پڑھنا	64	771/5	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کی تحقیق	43
886/7	عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر باتیں کرنا	65	772/5	غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہونے کا سبب	44
267/8	نماز فجر باجماعت پڑھنے کی فضیلت	66		اب جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کو قضا کرنا	45
	کن لوگوں کو خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی	67	772/5		
144/8			772/5	نبی ﷺ کی نمازوں میں سہو کی تحقیق	46
91/9	نماز برے کاموں سے روکتی ہے کی تفصیل	68		مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت	47
142/9	پانچ نمازوں کے اوقات	69	205/6		
191/9	عمر نماز ترک کرنا	70	267/6	صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت	48
213/9	نماز کو قائم کرنے کا معنی	71	327/6	نماز پڑھنے سے رنج و غم کا دور ہونا	49
677/9	اقامت صلوٰۃ کے آداب	72	769/6	پانچ نمازوں کی فرضیت	50
	زیادہ دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت	73	770/6	اوقات نماز کے متعلق احادیث	51
728/9			296/7	تعدیل ارکان میں کمی	52
857/9	نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت	74	297/7	مستحب وقت کے بعد نماز پڑھنا	53
55/10	چاشت اور اشراق پڑھنے کی فضیلت	75	297/7 299/7	نوافل سے فرائض کی کمی کی سلامتی	54
56/10	اشراق کی نماز کا وقت	76	298/7 300/7	فرض نہ پڑھنے سے نفل نامقبول	55
	نماز چاشت کی رکعات کی تعداد اور اس کا وقت	77	350/7	جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنا	56
57/10			355/7	عمر نماز ترک کرنے والے پر نماز کی قضاء	57
186/10	نماز میں قیام کی فضیلت	78	501/7	نماز کے اوقات اور رات کو نماز پڑھنا	58

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار
	صلح	21	79
282/11	مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرانا	1	188/10
		2	616/10
283/11	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا	2	760/10
		3	176/11
284/11	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے باوجود اسلام سے خارج نہ ہونا	3	705/11
	صلہ رحمی	22	705/11
460/8	صلہ رحمی میں القرب فالقرب کی ترجیح	1	339/11
		2	340/11
461/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	2	363/11
462/8	رحم کی تراوت سے فائدہ پہنچانا	3	468/11
158/11	صلح رحمی کے متعلق احادیث	4	884/12
	صوفی	23	994/12
176/10	جاہل صوفیاء کے خود ساختہ احکام کا رد	1	497/12
	صور	24	457/12
541/3	قرآن و احادیث کی روشنی میں صور پھونکنے کا بیان	1	354/12
748/8	صور کا لغوی و اصطلاحی معنی	2	194/12
749/8	صور پھونکنے کے متعلق احادیث	3	195/12
<u>749-753</u> 8	کتنی بار صور پھونکا جائے گا؟	4	216/12
<u>753-757</u> 8	بھی الصعق سے مستثنیٰ افراد	5	236/12
787/9	صور پھونکنے کی تعداد	6	
			79
			80
			81
			82
			83
			84
			85
			86
			87
			88
			89
			90
			91
			92
			93
			94
			95
			96
			97

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
839/12	سورۃ النعمیٰ کی تفسیر کا اختتام	5		صور پھونکنے کے بعد بے ہوشی سے مستثنیٰ رہنے	7
	ضد	3	787/9	والی شخصیات	
313/7	ضد کا معنی	1		صور سے متعلق سورۃ یاسین اور سورۃ زمر کی	8
	ضمانت	4	789/9	آیتوں کے تعارض کا جواب	
821/5	مال اور شخص کی ضمانت کے متعلق احادیث	1	790/9	لوگوں کے دوسرے صور سے زندہ ہونے کی وجہ	9
822/5	ضمانت کی تعریف اور اس کے شرعی احکام	2	791/9	دوسرے صور کی تفصیل	10
	ط		296/10	صور پھونکنے کی تحقیق	11
	سورۃ الطارق	1		دوسرے صور میں پھونکنے کے بعد لوگوں کے	12
663/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	345/11	زندہ ہونے کی کیفیت	
663/12	سورۃ الطارق کے متعلق احادیث	2		صیغہ امر	25
663/12	سورۃ الطارق کی سورۃ البروج سے مناسبت	3	38/3	صیغہ امر کے مواضع	1
664/12	سورۃ الطارق کے مشمولات	4	40/3	تقاضائے امر کا واحد ہونا	2
679/12	سورۃ الطارق کا اختتام	5	41/3	امر کا مقتضی وجوب	3
	طالوت	2	42/3	ممانعت کے بعد امر کا مقتضی	4
879/1	طالوت کا بیان	1	43/3	نبی ﷺ کے افعال سے وجوب	5
889/1	طالوت کی فتح	2		ض	
	طاعون	3		ضالین	1
872/1	طاعون سے ڈر کر بھاگنا	1	215/1	ضالین کے معانی	1
407/1	طاعون کے متعلق احادیث	2	217/1	ضالین کی تفسیر	2
407/1	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب	3		سورۃ النضحیٰ	2
408/1	طاعون کے متعلق قدیم علماء و سائنس کی تحقیق	4	803/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
409/1	طاعون کا علاج	5	803/12	سورۃ النضحیٰ کی سورۃ اللیل سے مناسبت	2
	طار	4	803/12	سورۃ النضحیٰ کے مشمولات	3
	دیکھئے "24: شگون" صفحہ 155	1	805/12	سورۃ النضحیٰ پر سورۃ اللیل کو مقدم کرنے کی وجہ	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
756/12	بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت	11		طریقہ	5
	طعنہ	8	500/1	طریقہ کا بیان	1
295/11	ایک دوسرے کو طعنہ دینے کی ممانعت	1	381/3	طریقہ	2
	سورۃ الطلاق	9	173/7	طریقہ کی تعریف	3
41/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		طریقہ انتخاب	6
42/12	سورۃ الطلاق کا سبب نزول	2	796/5	موجودہ طریقہ انتخاب کا غیر اسلامی ہونا	1
43/12	سورۃ الطلاق کی سورۃ التغابن سے مناسبت	3		امیدوار کیلئے شرائط اہلیت نہ ہونے کے غلط نتائج	2
43/12	سورۃ الطلاق کے مشمولات	4	796/5		
96/12	سورۃ الطلاق کا اختتام	5		موجودہ طریقہ انتخاب کی اصلاح کی ایک صورت	3
	طلاق	10	796/5		
811/1	طلاق کا معنی	1		کافر یا فاسق فاجر کی طرف سے عہدہ یا منصب قبول کرنے کی تحقیق	4
811/1	طلاق کی اقسام	2	797/5		
812/1	طلاق کی مشروعیت کی وجہ	3		طعام	7
812/1	طلاق فقط ناگزیر حالات میں	4	374/3	دستر خوان اور میز پر کھانا کھانے کی شرعی حیثیت	1
812/1	طلاق کا اختیار فقط مرد کو	5	105/4	کھانے پینے میں وسعت کی گنجائش	2
813/1	طلاق میں عورت کی رضامندی	6	107/4	کھانا کھانے کے آداب	3
814/1	تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات و حکمتیں	7	108/4	کھڑے ہو کر کھانا کھانا	4
815/1	احسن طریقہ سے طلاق دینے کے فوائد	8		پچھلی امتوں میں بھی کھانا کھانے سے پہلے "بسم اللہ" پڑھنے کا معمول تھا	5
815/1	طلاق کی تدریج میں مرد اور تحدید میں عورت کی رعایت	9	590/5		
815/1			483/6	لذیذ طعام اور مشروب، کھانے پینے کا جواز	6
816/1	ایک وقت میں تین طلاقیں	10	186/8	بیماروں اور معذوروں کے ساتھ مل کر کھانا	7
	بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں	11	187/8	دکیلوں کا اپنی موٹلوں کے گھروں سے کھانا	8
816/1	مذہب اربعہ کے نظریات		188/8	اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا	9
818/1	تین طلاقوں کو ایک قرار دینا	12	270/8	اچھے کھانے کھانا	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
58/12	طلاق کی اقسام	33	818/1	تین طلاقوں کا تین ہونا	13
	جب حاملہ کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے تو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟	34	840/1	جس عورت کو خاوند خرچ نہ دے	14
59/12			841/1	مذاق میں دی گئی طلاق میں شرعی حکم	15
60/12	ایک طہر میں تین طلاق دینے کی تحریم	35	850/1	مطلقہ غیر مدخولہ کا مہر اور متاع	16
61/12	ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاق دینا	36	851/1	مطلقہ کی متاع کی مقدار	17
	فی نفسہ طلاق کے ناپسندیدہ ہونے کے متعلق احادیث	37	852/1	مطلقہ کی متاع کا شرعی حکم	18
61/12			852/1	متاع کے وجوب پر فقہاء کے دلائل	19
66/12	تین طلاقوں کی ممانعت پر دلیل	38	871/1	مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی	20
	مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کا معنی	39	343/4	حالت غضب میں طلاق	21
67/12				بیوی کو طلاق اور اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت خیار مذاہب فقہاء	22
68/12	طلاق اور اس سے رجوع پر گواہ بنانا	40	416/9		
<u>81-86</u> 12	طلاق ثلاثہ کے بعد نفقہ اور سکنتی	41	510-511	اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں مذاہب ائمہ	23
	سورۃ الطور	11	9		
405/11	سورۃ کا نام	1		مطلقہ کو نصف مہر اور متاع دینے کے وجوب کے محال	24
405/11	سورۃ الطور اور سورۃ الذاریات میں مناسبت	2	513/9		
405/11	سورۃ الطور کے متعلق احادیث	3	514/9	مطلقات کی اقسام اور متاع کا بیان	25
406/11	سورۃ الطور کے مشمولات	4	47/12	مسئلہ طلاق کی تحقیق	26
408/11	الطور کا معنی اور مصداق	5		ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں	27
469/11	سورۃ الطور کا اختتام	6	48-53/12		
	طواف	12	53-57/12	ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا	28
101/4	برہنہ طواف کی ممانعت	1	57/12	مسئلہ طلاق میں نبی ﷺ کو ندا کرنا	29
746/7	طواف کی اقسام	2	57/12	حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت	30
	سورۃ طہ	13	57/12	طلاق بر طریقہ سنت کی دو صورتیں	31
323/7	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	58/12	طلاق کا لغوی و اصطلاحی معنی	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
783/6	ظالموں کے لیے قرآن کا گمراہی ہونا	7	323/7	سورہ مریم اور سورہ طہ کی باہمی مناسبت	2
397/8 395/8	ظلم کو خود منانا	8	324/7	سورہ طہ کا زمانہ نزول	3
582/8	کیا حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا قبلی کو قتل کرنا ظلم تھا؟	9	326/7	سورہ طہ کے مقاصد و مسائل	4
788/8	ظالم کی مدد کرنے کی ممانعت	10	330/7	طہ النسخ کا شان نزول	5
341/9	ظلم کا لغوی و عرفی معنی	11	330/7	طہ کے معانی	6
341/9	ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث	12	505/7	سورہ طہ کا اختتام	7
585/9	انسان کے ظالم ہونے کی توجیہ	13		طہارت	14
876/9	ظالموں کے ازدواج کی تفسیر	14	249/8	طہور کا معنی اور اس کا مصداق	1
338/10	ظلم کی اقسام اور اللہ کا ظلم سے پاک ہونا	15	249/8	کسی نجس چیز کے گرنے سے پانی کا طہور	2
518/10 625/10	ظلم کی مذمت میں احادیث	16	250/8	دو درودہ (۱۰x۱۰) کی مقدار میں پانی کا طہور	3
657/10	انسان کا ظلم اور اللہ کا کرم	17	250/8	قلبتین کی مقدار میں پانی کا طہور	4
	ظن	2	251/8	جاری پانی کا طہور ہونا	5
635/3	اتباع ظن کی مذمت	1		طیب	15
151/8	ظن کی تعریف	2	628/1	طیب کا معنی	1
	ظہار	3		ظ	
372/9	ظہار کی تعریف، حکم اور اس کا کفارہ	1		ظالم/ظلم	1
	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنے کا شرعی حکم	2	383/5	ظالموں سے فدیہ قبول نہ کیا جانا	1
373/9			384/5	ظالموں کے پشیمانی چھپانے کی توجیہ	2
767/11	ظہار کی تعریف اور اس کا حکم	3		ظالموں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کی توجیہ	3
768/11	ظہار کے الفاظ اور اس کی دیگر تفصیل	4	384/5		
768/11	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنا	5	651/5	دنیا میں ظلم کا قابل درگزر نہ ہونا	4
772/11	کفارہ ظہار کے متعلق احادیث	6	472/6	اس سوال کا جواب کہ سب لوگ ظلم کرتے ہیں	5
772-774 11	ظہار میں فقہاء اربعہ کا موقف	7		اس سوال کا جواب کہ غیر ظالموں کو ہلاک کرنا عدل کے خلاف ہے	6
775/11	ظہار میں غیر مقلدین کا موقف	8	473/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
436/9	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اصلاحی اقدام پر قرآن سے دلائل	13	775/11	مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	9
				ع	
	عالمین	3		عاجزی کرنا	1
170/1	عالمین کا لغوی و عرفی معنی	1		دیکھئے "47: توابع" صفحہ 97	1
171/1	عالمین کے متعلق اقوال	2		حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	2
	عالم	4	82/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کی تفصیل	1
380/1	بے عمل علماء کے عذاب کا بیان	1		نزول وحی سے قبل رسول اللہ ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے برأت کے متعلق علم	2
579/1	علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ قبیح ہونا	2	87/8		
66/2	علماء راہنہ	3	89/8	کسی نبی کی زوجہ نے کبھی بدکاری نہیں کی	3
89/2	علماء دین کی فضیلت	4		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت پر علماء اہل سنت کے دلائل	4
703/3	علماء کا فتنہ کے زمانے میں گوشہ نشین ہونا	5	89/8		
415/4	بد عمل اور رشوت خور عالم کی مذمت	6	90/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت پر علماء شیعہ کے دلائل	5
416/4	بد عمل اور رشوت خور عالم کی کتے کے ساتھ مماثلت	7	91/8 103/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل	6
547/6	زمانہ فترت میں علماء مبلغین کا حجت ہونا	8		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا کہ "میں حضور ﷺ کیلئے قیام نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی"	7
791/6	عالم خلق اور عالم امر	9	86/8		
194-197 7	علماء ظاہر اور علماء باطن	10		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کی سزا	8
423/7	بے عمل عالم کے متعلق احادیث	11	118/8		
615/8	اپنے آپ کو عالم کہنا	12	119/8	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت کی بشارت	9
616-619 8	من عرف نفسه فقد عرف ربه	13	92/8	حدیث افک سے استنباط شدہ مسائل	10
83/9	قرآن میں بیان کردہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے	14	97/8	حدیث افک پر اعتراضات کے جوابات	11
84/9	عالم دین کی تعریف اور اس کی شرائط	15	434/9	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق شیعہ کی ناگفتنی روایات	12

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
16	عالم دین کے فرائض	86/9	7	عبادت کا حکم (مومنین، کفار، منافقین)	304/1
17	علماء کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کے متعلق آیات	255/9	8	عبادت پر غرور کرنا	307/1
18	علماء کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کے متعلق احادیث	258/9	9	اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنا	716/1
19	علماء دین کی فضیلت میں احادیث	676/9	10	اخلاص سے عبادت کرنا	486/3
20	انما ینحسی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر	677/9	11	رضاء الہی کے لیے عبادت کرنے کے تین مراتب	162/5
21	علماء عالمین کا ڈھلتی ہوئی عمر میں ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	825/9	12	غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے پر دلائل	340/5
22	علماء دین کی اقسام	493/11	13	عبد کا معنی	620/6
23	علماء کی فضیلت میں آیات و احادیث	786/11	14	یہودیوں کا ہفتہ کو اور عیسائیوں کا اتوار کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا	597/6
5	سورة العاديات		15	عبادت کا مستحق فقط اللہ ہے	684/6
1	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	942/12	16	دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرنا	232/7
2	سورة العاديات کی تکمیل	948/12	17	عابدین کا معنی	681/7
6	قوم عاد		18	ایک کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنا	716/7
1	دیکھئے "13: حضرت محمد علیہ السلام" صفحہ 282		19	یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کی عبادت کے مقامات	764/7
7	عابد/عبادت		20	اگر عبادت قضاء ہو جائے تو اسے ادا کر لیا جائے	264/8
1	عبادت کا لغوی و اصطلاحی معنی	178/1	21	رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی فضیلت	265/8
2	قرآن میں عبد کے اطلاقات	179/1	22	فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت	267/8
3	عبد النبی نام رکھنا	180/1	23	عبادت میں غفلت نہ کرنا	145/8
4	عبادت کا اللہ میں منحصر ہونا	181/1	24	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے اصحاب کی عبادت کی تفتیش کرنا	471/8
5	ایک نعت میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کی وجوہ	182/1	25	پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت	83/9
6	عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجوہ	184/1			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ	11	812/9	اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سید محمد اسلم کے معانی	26
	حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی سوانح اور ان کے فضائل	1	189/10	طلب ثواب و رضا کے لیے عبادت کرنا	27
71/11			210/10	عبادات میں صحیح اور احسن افعال	28
	عبرت	12		عبادات کے بجائے اللہ کے فضل پر نظر رکھنی	29
	پچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا	1	581/10	چاہیے	
767/7			811/10	اپنی خواہش کی عبادت	30
	عبداللہ بن ابی	13	871/11	دوزخ سے نجات کے لیے عبادت کرنا	31
210/5	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کا شان نزول	1	872/11	جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا	32
217/5				رات کو کم سونے اور زیادہ عبادت کرنے کی فضیلت	33
218/5			362/11	کفار کا اللہ کی عبادت پر بتوں کی عبادت کو ترجیح دینا	34
210/5	رسول اللہ ﷺ کا ابن ابی کے کفن کیلئے قمیص عطا فرمانے کی وجوہ	2	788/12	تبلیغ کے بعد اللہ کی عبادت میں کوشش کرنا	35
	اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود ابن ابی کے لیے استغفار کی وجوہات	3	865/12	بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے اجر میں اضافہ	36
211/5	ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق امام رازی کا تسامح	4	890/12	عبادت میں کثرت طلب کرنا	37
212/5	کیا ابن ابی کے حق میں مغفرت کی دعا کا قبول نہ ہونا آپ کی محبوبیت کے منافی ہے؟	5	957/12	العاص بن وائل	8
220/5	ابن ابی کا رسول اللہ ﷺ سے بدزبانی کرنا	6	312/7	العاص بن وائل کی مذمت	1
899/11	غزوہ احد میں ابن ابی کا اپنے ۳۰۰ ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے نکل جانا	7		عاشورہ	9
899/11	ابن ابی کا نبی ﷺ کی حرم محترم پر ہندی تہمت لگانا	8	724/12	عاشورہ کی فضیلت میں احادیث	1
901/11	ابن ابی کا حضور ﷺ اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا	9		سورۃ العنبر	10
905/11			566/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
			567/12	سورۃ العنبر کے مشمولات	2
			584/12	سورۃ العنبر کا اختتام	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
573/10	عجلت کی مذمت	1		رسول اللہ ﷺ کا عبد اللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا	10
	عدت	17	174/12		
846/1	عدت کی تعریف اور عدت وقات	1		عتاب	14
847/1	عدت کے مسائل اور شرعی احکام	2	543/6	عتاب کا معنی	1
867/1	عدت وقات اور حفاظت نماز میں مناسبت	3	570-577	رسول اللہ ﷺ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ	2
867/1	عدت وقات کا ایک سال تک منسوخ ہونا	4	12	کی وجہ سے تیوری چڑھانے پر عتاب	
868/1	عدت وقات کا شرعی حکم	5	123/12	رسول اللہ ﷺ پر عتاب کا محمل	3
869/1	عدت وقات کے متعلق فقہاء کے نظریات	6		حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	15
798/1	عدت کا معنی اور اس کے احکام	7		حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوف خدا	1
799/1	عدت مقرر کرنے کی حکمتیں	8	429/5		
800/1	قرء کے معانی	9		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا	2
59/12	عدت کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	10	391/6		
60/12	دوران عدت عورتوں کو گھروں سے نکالنے یا ان کے از خود نکلنے کی ممانعت	11	179/8	اس امت کی پہلی اجماعی ناشکری، قتل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے	3
62-66 12	عدت طلاق کے دوران عورت کا گھر سے باہر نکلنا	12	579/8	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خوف خدا	4
79/12	جن بوزھی عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت	13	431/9	قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ	5
80/12	بیوہ حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ	14	430/9	قاتلین عثمان کا سازش کرنا	6
80/12	نابالغہ کی عدت	15	287/11	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصاص عثمان، نہ لینے کی وجوہ	7
	عدل	18	290/11	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشہور قاتلین	8
94/4 551/6	عدل کا معنی	1		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا دنیا میں انجام	9
552/6	عدل کی تعریف	2	291/11		
555/6	عدل اور احسان میں فرق	3		عجلت	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
188/5	عذاب مقیم کا معنی	15	789/7	سزا بقدر جرم دینا عدل ہے	4
244/5	منافقوں کو دو مرتبہ عذاب دینا	16	421/8	عدل کا لغوی و اصطلاحی معنی	5
301/5	دنیا و آخرت میں منافقین کے عذاب کی تفصیل	17	422/8	عدل کرنے کے متعلق احادیث	6
373/5	مشرکین پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ	18	423/8	عدل کرنے کے متعلق آثار	7
	نزول عذاب کے بعد ایمان لانے کا فائدہ	19	424/8	عدل کرنے کے متعلق اقوال علماء	8
373/5	مند نہ ہونا		425/8	عدل عقلی اور عدل شرعی	9
382/5 384/5	عذاب کی وعید کا برحق ہونا	20	425/8	عدل اور احسان	10
519/5	کفار کو دو گنا عذاب	21	426/8	عدل اور انصاف کے فوائد	11
	گذشتہ قوموں کی برائیوں کے مرتکبین پر	22		عذاب	19
621/5	نازل ہونے والے عذاب سے ڈرنا چاہیے		753/1	عذاب کی بادلوں کے ساتھ تمثیل	1
637/5	کفار مکہ پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے کی وجہ	23	312/2	عذاب کا عدل ہونا	2
638/5	وعید اور وعدہ کی جامع آیت	24	445/2	عذاب کے درجات	3
	سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہونے کے دو	25	697/2 298/2	روح اور جسم دونوں کو عذاب	4
650/5	سبب		697/2	تعذیب بلا معصیت	5
	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب	26	523/3	عذاب کی اقسام	6
117/6	نازل نہ ہونا		43/4	نزول عذاب کے وقت معذرتیں کا اعتراف جرم	7
	اللہ کے عذاب کے ساتھ اس کی رحمت کو بھی	27	135/4	دو گنے عذاب پر سوال و جواب	8
296/6	ملاحظہ رکھنا ضروری ہے		626/4	نبی کی موجودگی میں عذاب کا نہ آنا	9
350/6	سورۃ النحل کی ابتداء عذاب کی وعید سے	28	656/4	عذاب کے مستحق کو عذاب نہ دینا بھی جائز ہے	10
	مستقبل کے عذاب کو ماضی سے تعبیر کرنے	29	656/4	اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا	11
351/6	کی وجہ		658/4	نعمت کی عذاب میں تبدیلی	12
396-401 6	امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونا	30	606/4	ظالموں پر عذاب کے نزول میں صالحین کا شمول	13
401/6	کافروں کو اپنے پیروکاروں کے کفر پر عذاب	31		بدکاروں کے گناہوں کی وجہ سے نیکوکاروں کو بھی عذاب	14
410/6	کفار کے انتظار عذاب کی توجیہ	32	608/4		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب دیئے گئے	52	455/6	کفار مکہ کو انواع و اقسام کے عذاب سے ڈرانا	33
79/9			546/6	دوسروں کو کافر بنانے پر دو گنا عذاب	34
204/9	عذاب قبر کے متعلق احادیث	53	586/6	روح اور جسم دونوں کو عذاب	35
340/9	عذاب ادنیٰ اور عذاب اکبر کے مصادیق	54	660/6	گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب	36
639/9	نبی علیہ السلام کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	55	662-669 6	جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کو عذاب	37
701/9	آثار عذاب کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا	56		اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا	38
725/9	جن کو عذاب سے ڈرانا مفید ہے	57	673/6	قبر پر قرآن پڑھنے سے عذاب میں تخفیف	39
779/9	سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محال	58	726/6	دوزخ کے عذاب سے انبیاء اور ملائکہ کا ڈرنا	40
889/9	عذاب قبر پر ایک اشکال کا جواب	59	746/6	دامنی عذاب، صرف کفار کو	41
46/10	سابقہ امتوں پر ان کی تکذیب کی وجہ سے عذاب کا نازل ہونا	60	379/7	حضور ﷺ کی تکذیب کے باوجود کفار کو عذاب نہ دینا	42
221/10	عذاب کی چہرے کے ساتھ خصوصیت کی توجیہ	61	500/7	نزول عذاب کی میعاد	43
274/10 416/10	کفار کے آخرت میں عذاب کی تفصیل	62	500/7	مکہ میں گناہ کا عذاب	44
365/10	عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن کی آیات	63	734/7	آخرت میں عذاب کا ایک دن	45
366/10	عذاب قبر کے ثبوت میں احادیث	64	771/7	مستقبل میں عذاب سے نجات کا مدار	46
374/10	عذاب قبر کی نفی پر قرآن سے دلائل اور ان کے جوابات	65	437/8 454/8	اللہ کے عذاب کو جلد طلب کرنا	47
374/10	عذاب قبر کے خلاف عقلی شبہات کے جوابات	66	455/8	جرم کے بغیر بھی عذاب دینا اللہ کا ظلم نہیں	48
376/10	عذاب قبر کی مزید وضاحت	67		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر عام و خاص کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	49
446/10	امت محمدی سے کون کون سا عذاب اٹھایا گیا ہے	68	462/8 461/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	50
810/10	اللہ رب العزت کا کفار اور فجار کو عذاب دینا عدل ہے	69	463/8 62/9	عذاب کا بیان	51

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
479-487 12	کفار قریش کو عذاب سے ڈرانا	90	140/11	سابقہ امتوں پر عذاب کی کیفیت	70
363/12	لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کے محامل	91	140/11	اس زمانہ کے کافروں کے عذاب کی کیفیت	71
349/12	کفار کے جسمانی و روحانی عذاب کی تفصیل	92	146/11	آخرت میں کفار کا عذاب	72
	رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے	93	438/11	عذاب کی وعید پورا کرنے پر دلائل	73
211/12	زیادہ سخت ہونا			منافقوں اور مشرکوں کی ضرر رسائی اور ان کے عذاب کی نوعیت کا فرق	74
	کفار کو دوزخ میں ستر ہاتھ لمبی زنجیر سے جکڑ کر عذاب دینا	94	237/11		
212/12			440/11	کفار کے عذاب کے احوال	75
212/12	حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقصیر کا عذاب	95		قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے عذاب قبر کا ثبوت	76
264/12	عذاب قبر کا ثبوت	96	463/11		
	عذر	20	465/11	عذاب قبر کے اسباب	77
292/4	بندوں کے اعزاز کی آخرت مدت	1		جن صورتوں میں عذاب قبر سے نجات ملتی ہے	78
	عرش	21	466/11		
307/5	عرش کا معنی	1	977/12	کفار کے عذاب کی کیفیت	79
308/5	عرش کے متعلق احادیث و آثار	2	732/12	عذاب کے کوڑے کا معنی	80
308/5	عرش کی تفصیل میں اقا و ایل علماء	3	697/12	بڑی آگ کا مصداق	81
500/5	عرش کے پانی پر ہونے کے متعلق احادیث	4	714/12	بہت بڑے عذاب کا محمل	82
	عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے متعلق علماء کی آراء و نظریات	5	714/12	کفار اور مشرکین کو عذاب دینا ضروری کیوں؟	83
501/5			708/12	کفار پر شدت عذاب	84
778/6	اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو عرش پر ساتھ بٹھانا	6	612/12	مترکب کبیرہ کو دائمی عذاب نہ ہونا	85
319/10	حاملین عرش کی صورت اور ان کی تعداد	7	517-523 12	کفار کا عذاب دائمی ہے کہ نہیں؟	86
323/10	حاملین عرش کی دعا کے احکامات	8	523/12	اہل نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث	87
208/12	عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے	9		خلو و عذاب کے منکرین کا استدلال اور اس کا جواب	88
	عرس	22	524-526/12		
203/4	صالحین کا عرس	1	527/12	مقامی زمانہ کے جرم کی غیر مقامی زمانہ تک سزا	89

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
671/3	عشر کے نصاب میں مذاہب فقہاء	7		عربی زبان	23
	عصا	30	447/4	عربی زبان کی فضیلت	1
359/7	عصار کھنے کے فوائد	1	447/4	عربی زبان کی تاریخ	2
360/7	عصا موسیٰ کی تاریخی حیثیت	2		عراف	24
360/7	عصا کو زمین پر ڈالنے کی وجوہ	3	44/11	عراف کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	1
361/7	عصا کا سانپ بن جانا	4		عزت	25
361/7	حیز، شعبان اور جان	5	660/9	تمام عزتیں اللہ کے لیے ہونے کے محال	1
361/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سے ڈرنا	6		عزیمت	26
362/7	عصا اور یہ بیضا میں سے عظیم معجزہ کون سا ہے؟	7	266/9	عزیمت کی تفصیل	1
	عصمت انبیاء	31		عزالت نشینی	27
347/1	عصمت انبیاء کا معنی	1	911/9	عزالت نشینی کی فضیلت میں احادیث	1
348/1	عصمت انبیاء پر دلائل	2	912/9	عزالت نشینی کے استحباب کے متعلق فقہاء اسلام کے اقوال	2
350/1	عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	3		حضرت عزیر علیہ السلام	28
350/1	عصمت انبیاء کے متعلق محققین کا مذہب	4	119/5	حضرت عزیر علیہ السلام کا نام و نسب، تعارف اور ان کو ابن اللہ کہنے کا سبب	1
350/1	عصمت انبیاء پر اعتراضات کے جوابات	5	121/5	حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟	2
790/5 186/6	عصمت کی تعریف	6		عشر	29
766/6	مکرین عصمت انبیاء کے اعتراضات اور ان کے جوابات	7	958/1	عشر کا بیان	1
488-492 7	عصی 'ادم ربہ لغوی کی تفسیر	8	958/1	عشر کا نصاب	2
580/8	عصمت کی تحقیق	9	961/1	عشری اور خراجی زمین	3
640/8	انبیاء کا معصوم اور ان کے اصحاب کا محفوظ ہونا	10	962/1	خراج کی مقدار	4
787/8	عصمت انبیاء پر ایک اعتراض کا جواب	11	671/3	ارضی پاکستان کا عشری ہونا	5
				فصل کی کتابی کے حق سے مراد عشر ہے یا امام صدقہ	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
426/2	منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر	11	122/10	عصمت انبیاء پر دلیل	12
428/2	آپ ﷺ کے غنودرگزر کے مختلف محامل	12	123/10	عصمت کی تعریف اور معصوم و محفوظ میں فرق	13
503/4	غنودرگزر کے متعلق قرآن کی آیات	13	150-154	وامستغفر لذنبك سے حضور ﷺ کی	14
504/4	غنودرگزر کے متعلق احادیث	14	11	عصمت پر اشکال کے جوابات	
508/4	انتقام کو ترک کرنا	15	366/12	عصمت انبیاء پر ایک اعتراض کا جواب	15
	عقیدہ	35		سورة العصر	32
273/9	عقیدہ اور تقلید میں فرق	1	967/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
209/10	عقائد میں باطل نظریات کو رد کرنا	2	973/12	سورة العصر کی تفسیر کی تکمیل	2
	عقد	36		عطاء کرنا	33
33/3	عقد کا معنی	1		عطاء کرنے کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی	1
34/3	عقد کی اقسام	2	163/5	طرف کرنا	
703/3	فضول کے عقد میں مذاہب فقہاء	3		غنودرگزر	34
	عقل	37		نبی کریم ﷺ کے غنودرگزر کے متعلق قرآنی	1
420/4	عقل کا محل دل ہے یا دماغ؟	1	419/2	آیات	
422/4 770/7	عقل کی تعریف	2		نبی کریم ﷺ کے غنودرگزر کے متعلق	2
423/4	محل عقل کے متعلق مختلف اقوال	3	419/2	احادیث	
	محل عقل کے بارے میں ائمہ مذاہب کے	4	420/2	سراقہ بن مالک کو معاف کرنا	3
770/7	اقوال		420/2	عمیر بن وہب کو معاف کرنا	4
813/9	عقل کے معانی	5	422/2	عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا	5
814/9	عقل کی تعریفات و اقسام	6	422/2	ابوسفیان اور ہند کو معاف کرنا	6
815/9	عقل کے اجزاء اور حصص	7	423/2	صفوان بن امیہ کو معاف کرنا	7
835/9	عقل کا زندگی کا سبب ہونا	8	424/2	عکرمہ بن ابی جہل کو معاف کرنا	8
	عقل کی تعریف، اقسام اور اس کے متعلق	9	425/2	وحشی کو معاف کرنا	9
790/10	احادیث		426/2	حبار بن الاسود کو معاف کرنا	10

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
10	یومنون، یوقنون اور یعقلون فرمانے کی توجیہ	790/10	5	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں فرق	452/4
11	عقل کا محل	338/11	6	علم کی ذاتی اور عطائی میں تقسیم	453/4
12	علامہ قرطبی کی یہ تحقیق کہ کفار کی عقلیں نہیں ہیں	455/11	7	حصول علم دین کا فرض کفایہ ہوتا	292/5
			8	حصول علم دین کا فرض عین ہوتا	293/5
13	کفار کے ہڈیاں کا محرک ان کی عقل ہے یا ان کی سرکشی؟	456/11	9	علم دین کے فضائل	293/5
38	عقیدہ		10	جس سے علم حاصل کیا جائے اس کی تعظیم ضروری ہے	780/5
1	بچہ کا نام رکھنا، اس کو گھٹی دینا اور اس کی ولادت کے مسائل	131/2	11	علم دین کی وجہ سے روز قیامت علماء کی مغفرت	783/5
2	عقیدہ کے متعلق احادیث و آثار	133/2	12	دلوں سے علم کا نکل جانا	793/6
3	عقیدہ کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	136-138	13	حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق	150/8
4	عقیدہ کے متعلق احکام شرعیہ	138/2	14	علم کی تعریف	155/8 158/8
5	عقیدہ کو منسوخ قرار دینا	139/2	15	علم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا	152/8
6	بچہ کی پرورش کا حق	158/2	16	پرندوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہد	153/8
39	سورۃ العلق		17	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت پر قرآن سے دلائل	154/8
1	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	874/12	18	جمادات، نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت اور احادیث سے دلائل	155/8
2	سورۃ العلق کے مشمولات	874/12	19	علم کی فضیلت	611/8
3	سورۃ العلق کی تفسیر کا اختتام	886/12	20	اللہ کی تمام نعمتوں میں نعمت علم کی خصوصیت	619/8
40	علم/علم دین		21	علم پر عمل کرنے کا فائدہ	119/9
1	علم اور شعور کا فرق	603/1	22	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے ادب سے درخواست کرنا	255/9
2	علم چھپانے پر وعید	615/1			
3	نا اہل لوگوں کے سامنے علم و حکمت بیان کرنا	615/1	23	اہل علم کا مصداق	599/9
4	علم چھپانے کی مذمت	510/2			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
437-446 12	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تین دن بھوکا رکھ کر، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا	10	191/10	حکماء، محدثین اور متکلمین کی اصطلاح میں علم کی تعریف	24
	علم جعفر	42	192/10	علم دین کی تفصیل	25
527/8	علم جعفر کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	192/10	علم کی فضیلت میں قرآن کی آیات	26
528/8	علم جعفر کا تفصیلی تعارف	2	193/10	علم کی فضیلت میں احادیث	27
530/8	علم جعفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	3	574/10	کونسا علم باعث فضیلت ہے؟	28
	علم جعفر کی بنیاد پر غیب کی خبروں اور پیش گوئیوں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تبصرہ	4	149/11	علم کی فضیلت اور علم کا محمل پر مقدم ہونا	29
532/8	حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعے پیش گوئیاں	5	463/11	کس علم کا حصول فرض عین ہے اور کس علم کا حصول فرض کفایہ ہے؟	30
534/8	چاند نظر آنے کی سائنسی اور تکنیکی وجوہ	6		حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	41
	علم غیب	43	65/3 220/3 247/3	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت	1
472-475 3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب	1		حضور ﷺ کیلئے حضرت علی رضی اللہ عنہ منزلہ ہارون علیہ السلام ہیں	2
496/3	مفتاح الغیب کی تفسیر	2	294/4	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوف خدا	3
499/3	آپ ﷺ کو فقط غیب کی خبریں دی گئیں تھیں یا علم غیب بھی	3	430/5	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر ایک روایت	4
500/3	اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علم میں فرق	4	431/5	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کی دلیل کا جواب	5
236/4 471-484/4	سیدنا محمد ﷺ کا علم غیب	5	51/6	حضرت علی رضی اللہ عنہ مظہر ہارون علیہ السلام تھے	6
469/4	غیب کا معنی	6	424/7	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوف خدا	7
484/4	حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا	7	579/8	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصاص عثمان نہ لینے کی وجوہ	8
485/4	حضور ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت میں علماء دیوبند کا نظریہ	8	287/11	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت عائشہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہم کے احترام کے متعلق احادیث و آثار	9

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
9	حضور ﷺ کی طرف علم غیب کی نسبت میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ	486/4	27	کیا اللہ کا ہنوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	307/12
10	علم غیب کی خبروں اور علم غیب کے اطلاق کی بحث	561/5	28	کیا اللہ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	308/12
11	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمانا	89/7	29	کیا اللہ جادو گروں کو غیب کی خبریں دیتا ہے؟	309/12
12	علم غیب کی تحقیق	721/8	30	علم غیب اور نجبی خبروں میں فرق	316/12
13	رسول اللہ ﷺ کو علم غیب	721-724 8	31	علم کلی کی تحقیق	318/12
14	غیب کا لغوی و اصطلاحی	725/8	32	علم کلی دفعہ عطا کیے جانے کے متعلق دلائل	319-323 12
15	رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق آیات و احادیث	726-732 8	33	ماکان و ملبکون کے علم کے ثبوت میں احادیث	323/12
16	ذاتی اور عطائی علم غیب کی تحقیق	44/11	34	علم کلی تدریجاً عطا کیے جانے کے دلائل	325/12
17	انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علم غیب کی تحقیق	69/11	35	علم کلی کے استدلال پر شبہات کے جوابات	326/12
18	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	834/11	44	علم لدنی	
19	لفظ علم الغیب کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	834/11	1	علم لدنی کی تعریف	171/7
20	حضور علیہ السلام کے علم غیب پر ایک دلیل	130/12	45	علم نجوم	
21	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	299/12	1	علم نجوم کی تعریف اور ستاروں کی تاثیرات ماننے کا شرعی حکم	253/6
22	غیب کی اقسام	300/12	2	نجومیوں کا رد	134/7
23	اللہ تعالیٰ کے غیر پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں	300/12	3	علم نجوم کا لغوی معنی اور اس کے اصول و مبادی	517/8
24	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع	300-303 12	4	علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حکم	518/8 310/12
25	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں اظہار بہ معنی تسلط	304/12	5	علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	519-526 8
26	سورۃ الجن آیت نمبر ۲۶ میں عالم الغیب اور علیٰ غیب سے مراد ہر غیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت		6	نجومیوں کی پیش گوئیوں اور غیب کی خبروں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہم کا تبصرہ	526/8
			46	علم باری تعالیٰ	
		306/12	1	اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے واقعات کا علم ہے	88/5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
815-816 7	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کا عموم	7	337/5	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	2
862/8	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنے نبی ہونے کا علم	8	341/5	جس چیز کے وجود کا اللہ کو علم نہ ہو اس کا وجود محال ہے	3
144/10	حضور ﷺ کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام اشیاء کا علم دیا جانا	9	57/6 525/6	اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی خصوصیات	4
144-147 10	حضور ﷺ کو علم کلی دیا جانا	10	60/7	اللہ تعالیٰ کے علم کے حادث ہونے کا اشکال	5
85/11	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنی رسالت کا علم	11	42/9	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	6
86/11	بعثت سے قبل حضور ﷺ کو اپنی نبوت کا علم	12	265/9	ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے احاطہ علم میں ہے	7
	علاج	48	521/10	اللہ تعالیٰ کا علم غیب قطعی اور ذاتی ہے	8
228/4	دوا کرنے اور علاج کرنے کے متعلق احادیث	1	716/11	اللہ تعالیٰ کے علم پر دلائل و نظائر	9
228/4	دوا اور دم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علاج کرانا	2		بعض مترجمین کے ترجمہ سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بے علمی کا ظاہر ہونا	10
227/4	دم کرانے پر توکل	3	739/11	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	11
387/5	قرآن مجید سے جسمانی شفاء حاصل کرنے کی تحقیق	4	947/12	اللہ تعالیٰ کے علم محیط پر دلائل	12
385/5	انبیاء کرام کا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے مبعوث ہونا	5	150/12	اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کا علم	13
386/5	قرآن سے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے چار مدارج	6	529/12	اللہ تعالیٰ کے علم پر حادث ہونے کے اعتراض کے جوابات	14
389/5	قرآن مجید سے جسمانی شفاء کے حصول کے متعلق احادیث و آثار	7	331/12	علم نبوی ﷺ	47
392/5	کلمات طیبہ سے دم کرنے کا جواز	8	251/3	نبی کریم ﷺ کے علم کی اقسام	1
393-403 5	دم اور تعویذ کی ممانعت کے متعلق اقوال اور ان کے جوابات	9	252/3	کس علم کی تبلیغ میں آپ ﷺ کو اختیار ہے؟	2
			254/3	کس علم کا اخفاء واجب ہے؟	3
			645/3	علم کی مراتب	4
			329/6	رسول اللہ ﷺ کے علم پر ایک اشکال کا جواب	5
			331-337 6	رسول اللہ ﷺ کو اپنے اور دوسروں کے انجام کا علم	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1050/12	قرآن کی سورتوں سے دم	31	403/5 405/5	تعویذ لگانے کا جواز	10
	علاماتِ قیامت	49	403-405 5	دم اور تعویذ کے جواز کے متعلق مختلف اقوال	11
696/3	قیامت سے قبل دس نشانوں کا ظہور	1	405/5	خواب میں ڈرنے کا تعویذ	12
424/4	علم قیامت کے متعلق سوالات و جوابات	2	406/5	بخار کا تعویذ	13
443/4 569/9 148/11	علاماتِ قیامت	3	406/5	وضع حمل میں تنگی اور مشکل کے متعلق تعویذ	14
			408/5	تکسیر کے متعلق تعویذ	15
742/8	دابۃ الارض کا محل خروج وغیرہ	4	408/5	دل یا سینہ میں درد کے لیے تعویذ	16
579/11	قیامت کے قریب آنے کے متعلق احادیث	5	408/5	میعادی بخار کے لیے تعویذ	17
477/12 207/12	قیامت کے وقوع کی علامات	6	408/5	عرق النساء کے لیے تعویذ	18
	علوم خمسہ	50	408/5	گنہیاء کے لیے تعویذ	19
284/9	علوم خمسہ کی نفی کی آیت	1	408/5	داڑھ کے درد کے لیے تعویذ	20
285-286 9	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی	2		پھوڑے، پھنسیوں، آبلوں اور ہر قسم کی انفیکشن کے لیے تعویذ	21
286/9	بارش کے نزول کا علم	3	408/5		
287/9	ماؤں کے رحم کا علم	4		علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے متعلق احادیث	22
288/9	کل اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم	5	495/6		
289/9	مرنے کی جگہ کا علم	6	496/6	علاج کرنے کا استحباب	23
290/9	قیامت کا علم	7	497/6	صوفیاء کے نزدیک علاج کرنا	24
291-296 9	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ کا علم دیا جاتا	8	501/6	ترک علاج کو افضل کہنا	25
	عمارت	51		علاج کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے دلائل	26
	متعدد منزلہ ہلڈنگیں، خوبصورت عمارات، پلازہ اور شاپنگ سنٹر بنانا	1	507/6		
390/8			782/6	تعویذ لگانا	27
	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ	52	781/6	مریضوں پر دم کرنا	28
820/1	حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک الزام کا جواب	1	398/7	تعویذات کے بعض احکام	29
428/5	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت، زہد اور خوفِ خدا	2	340/8	دوا اور علاج کے متعلق احادیث	30

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
46/4	اعمال کے وزن کے متعلق مذاہب علماء	2		حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ	3
	انسان کے اعمال کو زندہ اور مردہ لوگ دیکھتے	3	391/6	کار رسول اللہ ﷺ سے دعا کی درخواست کرنا	
255/5	ہیں		324/7	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام	4
369/5	ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے	4	578/8	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا	5
186/6	نیک اعمال کا آخرت میں کام آنا	5	245/11	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت	6
314/6	اعمال کے مطابق جزاء و سزا	6		عمران کی بیوی	53
566/6	مومن کے ہر عمل کا باعث اجر و ثواب ہونا	7	129/2	عمران کی بیوی کی نذر	1
566/6	اعمال کا ایمان سے خارج ہونا	8		عمر	54
677-680 6	نیک اعمال کا مقبول ہونا	9	729/5	پختگی کی عمر کے متعلق متعدد اقوال	1
712/6	بغیر علم کے ظن پر عمل کرنا	10	119/6	عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	2
216/7	جن لوگوں کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں	11	513/6	انسان کی عمر میں تغیر	3
217/7	جن لوگوں کے عمل ضائع نہیں ہوتے	12	514/6	ارذل عمر کا معنی اور اس سے پناہ طلب کرنا	4
664/7	نیک اعمال کے لیے ایمان کا شرط ہونا	13		عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے	5
662/9	نیک عمل کے محامل	14	665/9	ہوئے کو مٹانا	
663/9	کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کا اوپر چڑھنا	15	822/9	انسان کی عمروں کے مختلف ادوار	6
	انسان کے اچھے یا برے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ	16	823/9	انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث	7
727/9	ہونا		824-828 9	ارذل عمر کی تحقیق	8
	نیکی اور برائی کے عمل کا مرنے کے بعد بھی	17	74/12	عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث	9
728/9	جاری رہتا			عمری	55
	نیک اعمال کے اجر حسن سے مراد آخرت کا	18	574/5	عمری کا معنی	1
197/10	اجر ہے		575/5	عمری کے متعلق احادیث	2
361/10	اعمال کے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل	19	575/5	عمری میں مذاہب ائمہ	3
	نیک اعمال کا مشکلات سے بچانا اور عذاب	20		عمل	56
390/10	سے چھڑانا		233/4	نیک عمل نزول رحمت کا جبکہ بد عمل نزول عذاب کا باعث ہیں	1

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
21	مومن کی صحت کے ایام کے نیک اعمال کا سلسلہ مرض اور سفر میں بھی منقطع نہیں ہوتا	439/10	8	عورتوں کی آزادی کے نتائج	709/6
22	واعظ اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وعظ پر خود بھی عمل کرے	489/10	9	عورت کا نبی نہ ہونا	369/7
23	تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا	782/12	10	عورت کو مردوں سے اپنی آواز مستور رکھنے کا حکم	424/9
24	مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت	952-953 12	11	بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت	425/9
25	وہ نفوس جو قیامت کے دن اپنے اعمال کے عوض گروی ہوں گے	388/12	12	متبرج اور جہلیہ الاولیٰ کی تفسیر	426/9
26	لغو کاموں کی تفصیل	395/12	13	جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلنے پر ایک اعتراض کا جواب	427/9
27	ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت	129/12	14	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اصلاح کے قصد سے بصرہ روانہ ہونا	428/9
57	سورۃ العنکبوت		15	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و بصرہ روانہ کرنا	429/9
1	سورۃ کا نام	35/9	16	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں میں جنگ کر دینا	430/9
2	سورۃ العنکبوت کے متعلق احادیث	35/9	17	قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تسلط اور تغلب	430/9
3	سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول	36/9	18	قرآن میں خواتین کا ذکر	450/9
4	سورۃ العنکبوت کے مشمولات	36/9	19	عورتوں کے ناقص ہونے کی وجوہ	666/10
5	سورۃ العنکبوت کا اختتام	122/9	20	دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟	780/10
58	عورت		59	عہد	
1	عورت پر مرد کی خدمت	809/1	1	وعدہ خلافی کرنا	215/2
2	زمانہ جاہلیت کے مظالم سے نجات دلانا	612/2	2	وعدہ خلافی کی سزا	216/2
3	عورت کی حاکمیت کا عدم جواز	656-657 2	3	اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی اقسام	559/6
4	ملکہ بلقیس کی حکمرانی	658/2	4	ایک دوسرے سے تعاون کا معاہدہ	560/6
5	وراثت و نکاح میں عورتوں کے حقوق	814/2			
6	عورتوں کا اپنے حقوق ساقط کرنا	818/2			
7	آزاد اور پاک دامن عورت	486/3			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	مائدہ کا مزمل اور اس میں شک کرنے والوں پر عذاب آنا	11	562/6	مظلوم کا بدلہ لینے کا باہمی معاہدہ	5
165/2			563/6	عہد شکنی کی مذمت	6
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ	12	856/7	عہد کی حفاظت کرنا	7
166/2			316/7	مومنوں کا رحمان سے لیا ہوا عہد	8
170/2	انجیل کا نزول	13	803/9	عہد کا معنی اور اس کی اقسام	9
170/2	آسمانوں پر اٹھایا جانا	14	865/11	وعدہ پورا کرنے والوں پر وعید	10
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے مابین مدت	15	351/12	اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا ضروری کیوں؟	11
173/2				عہد شکنی	60
175/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علوم و معجزات	16	659/4	قبیلہ بنو قریظہ کی عہد شکنی	1
179/2	آپ علیہ السلام سے یہود کی مخالفت کا سبب	17	660/4	فرقی ثانی کی عہد شکنی کی وجہ سے معاہدہ ختم	2
180/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر شبہ	18		مسلمانوں کے سربراہ کی عہد شکنی زیادہ مذموم ہے	3
182/2	وفات کا تعلق بمعنی موت نہیں	19	661/4		
185/2	ابن اللہ ہونے کی دلیل کا رد	20		حضرت عیسیٰ علیہ السلام	61
186/2	حضرت عیسیٰ و آدم علیہما السلام میں وجوہ مماثلت	21	446/1	عیسیٰ کا معنی	1
856-858	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا	22	37/2 59/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا یا بیٹا نہ ہونا	2
2				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مس شیطان سے محفوظ رہنا	3
859-863	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کی حکمتیں	23	130/2		
2					
885/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان	24	147/2	سوانح عمری	4
885/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح من اللہ ہونا	25	150/2	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تصدیق کرنا	5
140/3 262/3 264/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ ہونا	26	160/2 885/2	آپ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینا	6
			161/2	سج کا معنی	7
141/3 613/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا نہ ہونا	27	161/2	آپ علیہ السلام کی وجاہت	8
363/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات	28	162/2	پختہ عمر میں کلام کرنا	9
364/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی حکمتیں	29	163/2	آپ علیہ السلام کا میلاد	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
732-736	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اٹا کیے میں بھیجنا	47	366/3 371/3	نزول ماندہ کا معجزہ	30
9				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ادب سے اپنی برأت ظاہر کرنا	31
702/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے، خدا یا اس کے بیٹے نہ تھے	48	377/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا	32
730/10			377/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت کرنا	33
703-704	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی تحقیق	49	378/3	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی عالی نصاریٰ کا رد فرمانا	34
10				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہونا	35
704/10	یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو قتل کر دینا	50	271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ	36
			271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی برأت فرمانا	37
	بل دفعہ اللہ الیہ پر مرزائیہ کے اعتراض کے جوابات	51	271/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا	38
705/10			273/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا نظریہ	39
	انسی متوفیک ورافعک الی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	52	275/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ	40
706/10			259/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں	41
	انسی متوفیک ورافعک الی پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	53	275/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث	42
708/10			489/9	اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ	43
	ومکرواومکرا اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	54	660/7	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ پر مطلع ہو کر مسلمانوں میں احکام جاری فرمانا	44
708/10				حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں اجتہاد کر کے احکام جاری فرمانا	45
	یکلم الناس فی المهد وکھلا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	55	490/9	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ سے اسلام کے احکام حاصل کرنا	46
709/10			490/9		
	ایک اور آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر استدلال	56	490/9		
710/10			491/9		
710/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان	57			
711/10	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حکمتیں	58			
711/10	مذکورہ استدلال پر مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	59			
712/10	وما محمد الا رسول سے مرزائیہ کے اعتراض کا جواب	60	493/9		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
680/6	غریب و امیر کے طبقاتی فرق کی حکمتیں	1		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی عبادت کا حکم دینا	61
	غزوة بدر	4	716/10		
	دیکھئے "10: (معرکہ) بدر" صفحہ 81	1		حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ کی آمد کی بشارت دینا	62
	غصہ	5	867/11		
372/2	غصہ ضبط کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت	1		موجودہ انجیل کے متن میں حضور ﷺ کی بشارت	63
654/6	غصہ میں بددعا کرنا	2	867/11		
507/10	غصہ نہ کرنے اور معاف کر دینے کی فضیلت	3		عیادت	62
507/10	غصہ کرنے کے دینی و دنیاوی نقصانات	4	157/7		1 عیادت کا ثبوت
615/10	حالت غضب میں معاف کرنے کی فضیلت	5			63 عیب
	غفلت / غافل	6	299/11		1 مسلمانوں کے عیوب بجا کرنے کی ممانعت
684/10	اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہونے کا وبال	1			64 عیش و عشرت
	مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ	7	422/9		1 عیش و عشرت میں غلو نہ کرنے کی تلقین
	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کی وفات	1	771/9		2 عیش و آرام کے حال میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے
304/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کا قرآن و حدیث سے مقام	2			غ
305/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کی جن احادیث سے مغفرت متوقع ہے	3			1 سورة الغاشیة
306/10	مصنف تبیان القرآن کی والدہ کا جن واقعات سے مقرب ہونے کا پتہ چلتا ہے	4	704/12		1 سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ
	غلام	8	704/12		2 سورة الغاشیة کی سورة الاعلیٰ کے ساتھ مناسبت
855/7	اس دور میں غلام بنانا	1	705/12		3 سورة الغاشیة کے مشمولات
855/7	عورتوں کا غلاموں سے جنسی عمل کرنا	2	715/12		4 سورة الغاشیة کی تفسیر کی تکمیل
436/8	غلاموں کے بعض احکام	3			2 نعبین
					1 نعبین فاحش کی تعریف مع شرعی حکم
					3 غریب

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	غیر اللہ کو پکارنے میں مسلمانوں اور مشرکوں	1	756/12	غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت میں احادیث	4
493/3	کافرق			غلام احمد قادیانی	9
384-387 6	والذین یدعون من دون اللہ کا مصداق	2		مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و	1
744/6	غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھ کر پکارنا	3	475/9	اصرار	
731/10	غیر اللہ کی عبادت کا باطل ہونا	4		مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کہ وہ تشریحی	2
	غیب	15	480/9	نبی ہیں	
258/1	غیب کا معنی	1	480/9	مرزا غلام احمد قادیانی کا جہاد کو منسوخ قرار دینا	3
258/1	مومن بالغیب کا مصداق	2		مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات سے حیات	4
259/1	مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کرنا	3	713/10	مسح اور نزول مسیح پر استدلال	
57/6	غیب کا لغوی و اصطلاحی معنی	4		مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسیح موعود اور	5
	غلطی کرنا	16	715/10	دعویٰ نبوت کا ابطال	
	دیکھئے "39: سہ" صفحہ 150	1		غلو	10
	غیبت	17	265/3	غلو حق اور غلو باطل	1
842/2	غیبت کی ممانعت کے متعلق احادیث	1		مال غنیمت	11
	مظلوم کا ظالم کے ظلم کو بیان کرنا کیا غیبت	2	441/2	مال غنیمت میں خیانت کرنا	1
844/2	ہے؟		442/2	مال غنیمت کے چند ضروری مسائل	2
847/2	غیبت کرنے کی مباح صورتیں	3		غناء	12
300/11	غیبت کی تعریف	4	219/9	سہو الحدیث کا محمل غناء کو قرار دینا	1
	غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت	5	220/9	غناء کی تحریم میں آیات و احادیث	2
301/11	کھانے سے تشبیہ دینے کی وجوہ		233/9	غناء کے متعلق اعلیٰ حضرت کی تحقیق	3
302/11	غیبت کرنے پر عذاب کی وعیدیں	6		غور و فکر	13
302/11	غیبت کا کفارہ	7		دیکھئے "11: تذیر" صفحہ 90	1
303/11	جن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے	8		غیر اللہ کو پکارنا	14
	غیرت	18			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
281/11	فاسق کی روایت و شہادت کا شرعی حکم	4	107/12	غیرت کا معنی	1
296/11	فاسق معلن کا فسق بیان کرنے کا جواز	5		غیظ و غضب	19
	سورۃ الفاطر	5	338/4	غیظ و غضب کا معنی	1
626/9	سورۃ کا نام	1		غیظ و غضب کو ضبط کرنے کے متعلق قرآنی آیات	2
626/9	سورۃ الفاطر کے مشمولات	2	339/4		
629/9	فاطر کا معنی	3		غیظ و غضب کو ضبط کرنے کے متعلق احادیث کریمہ	3
702/9	سورۃ الفاطر کا اختتام	4	339/4		
	فاحشہ	6	343/4	حالت غضب میں طلاق	4
93/4	فاحشہ کا معنی اور مراد	1		ف	
	فال	7		سورۃ الفاتحہ	1
	دیکھئے "24: شگون" صفحہ 155	1	133/1	سورۃ الفاتحہ کے اسماء	1
	فارس	8	136/1	سورۃ الفاتحہ کے فضائل	2
879/11	فرزندان فارس کا علم دین کی بلندیوں پر پہنچنا	1	139/1	سورۃ الفاتحہ کا مقام نزول	3
	فبای 'الاء ربکما تکذبن'	9	140/1	سورۃ الفاتحہ کی آیات کی تعداد مع مضامین	4
609/11	فبای 'الاء ربکما تکذبن' کے مخاطبین	1		فاتحہ خلف الامام	2
612/11	فبای 'الاء ربکما تکذبن' کو ۳ بار کر کے ذکر کرنے میں حکمت	2	219/1	فاتحہ خلف الامام کے بارے میں ائمہ اربعہ کے نظریات	1
	فتح	10		حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا	3
72/2	فتح کا مدار	1	860/1	تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا	1
386/2	فتح اور شکست کی گردش	2	910/7	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب	2
652/9	فتح کی متعدد تفاسیر	3		فاسق / بد عقیدہ	4
	فتویٰ	11	533-537 3	فاسق و بد عقیدہ سے اجتناب	1
815/2	فتویٰ کا معنی، تقاضے اور مسائل	1	645/3	فساق کو مقتدر بنانے کی حکمت	2
	فتنہ	12	741/11	فاسق کا معنی	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
262/4	رب موسیٰ و ہارون کہنے کی وجہ	4	703/3	فتنہ کے زمانہ میں نیک علماء کا گوشہ نشین ہونا	1
263/4	فرعون کا حوام کو شبہات میں ڈالنا	5	636/4	فتنہ کا معنی	2
263/4	فرعون کا اپنی دھمکی پر عمل کرنا یا نہ کرنا؟	6		سورۃ الفتح	13
265/4	فرعون کے معبود کی تفسیر میں اقوال	7	182/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
270/4	قوم فرعون پر پد پد پے بلائیں نازل ہونا	8	183/11	سورۃ الفتح کی پہلی دو سورتوں سے مناسبت	2
279/4	قوم فرعون پر طوفان اور ٹنڈی دل وغیرہ بھیجنے کا عذاب	9	197/11	سورۃ الفتح کا مقام نزول اور زمانہ نزول	3
282/4	ستر ہزار فرعونوں کا طاعون میں مبتلا ہونا	10	197/11	سورۃ الفتح کے مسائل و مقاصد	4
455/5	قوم فرعون کے بیان کردہ دو عذر	11	271/11	سورۃ الفتح کا اختتام	5
457/5	فرعون کے واقعہ سے نبی ﷺ کو تسلی دینا	12		فتر	14
461/5	فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی توجیہ	13	142/3	فتر کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
462/5	فرعون کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	14		سورۃ الفجر	15
618/5	فرعون کی گمراہی اور دوزخ میں اس کا اپنی قوم کا مقتدا ہونا	15	716/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
463/5	فرعون کے منہ میں حضرت جبرائیل کا مٹی ڈالنا اور اس پر اشکال کا جواب	16	716/12	سورۃ الفجر کی سورۃ الغاشیہ سے مناسبت	2
399/7	فرعون کے جادو گروں کا ایمان لانا	17	716/12	سورۃ الفجر کے مشمولات	3
402/7	فرعون کی بیوی کا ایمان لانا	18	720/12	الفجر سے مراد معروف صبح اور اس کی فضیلت	4
400/7	فرعون کی لاف و گزاف کی توجیہ	19	712/12	سورۃ الفجر کا اختتام	5
399/7	رب العالمین کے بجائے رب موسیٰ و ہارون کہنا	20		فحش کام	16
406/7	فرعون کا سمندر میں بنے ہوئے خشک راستہ پر جانا	21	747/6	کھلم کھلا فحش کام کرنا	1
306/7	فرعون کو کلمہ پڑھنے سے روکنے پر ایک اعتراض کا جواب	22		فخر	17
				دیکھئے "36: تکبر" صفحہ 94	1
				فرعون/ قوم فرعون	18
			397/1	فرعون کا اصل نام	1
			396/1	فرعون کا بنو اسرائیل پر عذاب	2
			71/2	قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
364/10	مرد مومن کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھنا	38		فرعون کی طرف جانے کا حکم صرف حضرت	23
	آل فرعون کو قبر اور آخرت میں عذاب پر	39	240/8	موسیٰ علیہ السلام کو تھا یا ان کے بھائی کو بھی؟	
365/10	پیش کرنا		301/8	آیا فرعون موحد تھا، مشرک، یا دہریہ؟	24
691/10	فرعون کے قصہ کو بیان کرنے کے فوائد و مقاصد	40		فرعون کا حضرت موسیٰ کے برحق ہونے کے	25
763/10	قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالنے کی توجیہ	41	307/8	تاثر کو زائل کرنا	
730/12	قوم فرعون کا عذاب	42		فرعون اور اس کے حواریوں کی اپنی کامیابی	26
	فرقے	19	308/8	کے متعلق خوش فہمی	
496/1	اسلامی فرقوں کی تحقیق	1	773/8	فرعون کا اپنے خدشات کا شکار ہونا	27
651/5	دنیا کے مشہور فرقے	2		فرعون کی بیوی کے فضائل اور جنت میں ان	28
	اللہ تعالیٰ رسول ﷺ اور کتاب کے ایک	3	780/8	کا ہمارے نبی کے نکاح میں ہونا	
653/5	ہونے کے باوجود اسلام میں فرقے کیوں؟			فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور اس کا عبرت	29
	فرق	20	813/8	ناک انجام	
472/1	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت میں فرق	1	814/8	فرعون کا خدا کو دیکھنے کے لیے بلند عمارت بنوانا	30
918/1	حبیب اور خلیل میں فرق	2		فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والوں کا	31
918/1	حبیب اور کلیم میں فرق	3	325/8	بیان	
165/10	انزال اور تنزیل کا فرق	4	46/10	فرعون کو میٹھوں والا کہنے کی وجہ	32
214/10	وعد اور وعید کا فرق	5	344/10	قوم فرعون کا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام	33
223/10	حضور ﷺ اور کفار کی موت کا فرق	6	353/10	کے قتل سے باز رکھنا	
281/10 578/10	دنیا کے طالب اور آخرت کے طالب کا فرق	7		قوم فرعون کے مرد مومن کا تعارف اور اس	34
	دنیا کی نعمتوں سے استفادہ میں مومن اور	8	349/10	کی فضیلت	
143/11	کافر کی نیت اور عمل کا فرق		353/10	مرد مومن کا قوم کو بار بار نصیحت کرنا	35
609/11 691/11	آلاء اور انعماء کا فرق	9		فرعون کا خدا کو دیکھنے کے لیے بلند عمارت	36
610/11	ظاہری اور باطنی نعمتوں کا فرق اور ان کی تفصیل	10	356/10	بنوانا	
677/12	کفار کے کید اور اللہ تعالیٰ کے کید کا فرق	11	360/10	آل فرعون کے مرد مومن کی قوم فرعون کو	37
				توحید اور دنیا سے بے رغبتی کی نصیحتیں	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
802/7	فرشتوں کو رسول بنانے کی آیتوں میں تعارض	433/12	دنیا کے کافر اور جنت کے کافر کا فرق	12
803/7	بعض فرشتوں اور انسانوں کو بیٹا بنانا		رب کے نام کو یاد کرنے اور رب کو یاد کرنے کا فرق	13
622/9	فرشتوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہونا	345/12		
649/9	ملائکہ کی تعریف		اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق	14
858/9	فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل	346/12		
962/9	فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں		اعلیٰ حضرت کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علم کا فرق	15
969/9	فرشتوں کا صفیں باندھ کر عبادت کرنا	317/12		
			فرقہ بندی	21
140-143	الملاء الاعلیٰ سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟	697/3	فرقہ بندی کی مذمت	1
10			فرشتہ	22
328-322	کیا فرشتے انبیاء سے افضل ہیں؟		ملائکہ کی حقیقت، خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی	1
10				
322/10	فرشتوں کی شفاعت کرنا		فرشتہ اور بشر کے درمیان افضلیت کا بیان	2
484/10	فرشتوں کا مؤمنین کے لیے معاون و مددگار ہونا	333/1	فرشتوں کی کثرت عبادت سے انسان کو عبادت پر ابھارنا	3
	فرشتوں کا موت کے وقت مؤمنین کو انعامات کی بشارت دینا	360/1	فرشتوں کی کثرت عبادت ان کی افضلیت کو مستلزم نہیں	4
485/10				
512/10	فرشتوں کی دائمی تسبیح پر ایک اشکال کا جواب	521/4	فرشتوں کو انسانوں پر مامور کرنے کی وجوہات و حکمتیں	5
	بشر اور فرشتوں میں باہمی افضلیت کی تحقیق			
512/10		522/4		
542/10	فرشتوں کا تسبیح اور حمد کرنا			
543/10	فرشتے کن کن کے لیے استغفار کرتے ہیں؟			
730/10	فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں	60/6		
	اللہ تعالیٰ کے لکھنے اور فرشتوں کے لکھنے میں تعاون کا جواب	352/6		
822/10		458/6		
	فرشتوں کے مؤنث ہونے پر دلائل	529/7		
517/11				
896/12	فرشتوں کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا	537/7		
	فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں	538/7		
898/12				

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
881/11	اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف تعبیریں	1	899/12	فرشتوں کا سلام	32
890/11	اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرنے کے محال	2	668/12	فرشتوں کا اعمال نبی آدم لکھتا	33
	فضیلت	30	535/12	روح اور فرشتوں کے صحیح بات کہنے کی توجیہات	34
489/3	بعض لوگوں کی بعض پر فضیلت کا آزمائش ہونا	1	378/12	فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں	35
			378-383 12	دوزخ کے فرشتوں کی تعداد	36
559/3	حضور علیہ السلام کے تمام آباء کا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہونا	2	115/12	اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد فرشتوں کی مدد کا ذکر	37
	فطرت	31		فریب	23
154/9	فطرت کا لغوی و شرعی معنی	1	699/9	فریب کی ممانعت	1
156/9	ہر بچہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث	2		سورۃ الفرقان	24
156/9	حدیث میں فطرت سے مراد	3	203/8	سورۃ کا نام و وجہ تسمیہ	1
	فعل	32	206/8	سورۃ الفرقان کا زمانہ نزول	2
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل سنت و جبریہ کے نظریات	1	207/8	سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کی باہمی مناسبت	3
72/6			208/8	سورۃ الفرقان کے مشمولات	4
	افعال انسان کے مخلوق ہونے کے متعلق اہل سنت و معتزلہ کے نظریات	2	279/8	سورۃ الفرقان کا اختتام	5
71/6				فراست	25
72/6	جبریہ کے نظریہ کا رد	3	305/6	فراست کا معنی اور اس کے مصادیق	1
72/6	معتزلہ کے نظریہ کا رد	4	306/6	فراست کے متعلق احادیث	2
73/6	نظریہ اہل سنت کی مزید وضاحت	5		فرمانبردار	26
73/6	معتزلہ کے اعتراضات کے جوابات	6		دیکھئے "58: اطاعت" صفحہ 61	1
75/6	جبریہ کے رد پر مزید دلائل	7		فساد	27
75/6	خلق اور کسب کی وضاحت	8	403/8	فساد کی اقسام	1
579/6	کام کو فعل و اسم سے تعبیر کرنا	9		فضول خرچی	28
906/9	بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے	10		دیکھئے "40: اسراف" صفحہ 59	1
972/12	افعال میں حسن اور قبح عقلی ہے یا شرعی؟	11		فضل	29

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
673/8	حدود اور قصاص کے ماسوا میں عورتوں کی قضاء	3		فقہ	33
	سورۃ الفیل	40	526/3	فقہ کا معنی	1
979/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	612/5 367/7	فقہ کا لغوی و اصطلاحی معنی	2
985/12	سورۃ الفیل کی تفسیر کی تکمیل	2	691/11	کتب فقہ کو بے وضو چھونا کیسا؟	3
	فئے	41		فقیر / فقر	34
638/4	فئے کا معنی	1	94/7	فقراء مسلمین کی مجلس میں بیٹھنا	1
809/11	فئے کا لغوی و شرعی معنی	2	95/7	فقراء کی فضیلت میں احادیث	2
	مال غنیمت اور مال فئے کو کفار کی ملکیت سے نکال کر مسلمانوں کو دینے کی وجہ	3	98/7	فقراء کو مجلس سے اٹھانا	3
810/11	مال غنیمت اور مال فئے کا فرق	4	600/10	بعض لوگوں کو فقیر بنانے کی مصلحتیں	4
810/11	قرآن و حدیث سے مال فئے کے وقف ہونے پر دلائل	5	682/10	حضور ﷺ کے لیے فقر کو پسند کرنے کی وجوہ	5
811-813 11				فلسطین	35
			404/4	فلسطین میں اسرائیل کا قیام	1
				فلسفہ	36
	سورۃ ق	1	599/9	جزء لائبریری کے ثبوت پر دلیل	1
311/11	سورۃ کا نام	1		سورۃ الفلق	37
311/11	سورۃ ق سے سورۃ الحجرات کی مناسبت	2	1042/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
311/11	سورۃ ق کے متعلق احادیث	3	1042-1046 12	المعوذتین کی فضیلت میں احادیث	2
353/11	سورۃ ق کا اختتام	4	1051/12	سورۃ الفلق کا خاتمہ	3
	قاضی	2		فواکہہ	38
743/1	قاضی اور دیگر افسروں کا ہدیہ قبول کرنا	1	324/1	پھلوں کو بتدریج پیدا کرنے میں حکمت	1
744-746/1	قضاء کا ظاہر اور باطن نافذ ہونا	2		فیصلہ	39
	قائیل / ہائیل	3	224/2	حکم کا معنی	1
154/3	قائیل کا ہائیل کو قتل کرنا	1	162/8	فیصلہ کے لیے قاضی کے بلانے پر جانا	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
725/6	قبر پر کھجور کی شاخ کے ٹکڑے رکھنا	5	156/3	قاتل کے قتل کرنے کی کیفیت	2
726/6	قبر پر قرآن مجید پڑھنا	6	157/3	قاتل کا انجام	3
739/6	قبروں سے نکلنے کی کیفیت	7		قارون	4
581/11	قبر سے نکلنے والوں کی دو حالتیں	8	856/8	قارون کا نام و نسب اور اس کا مال و دولت	1
464/11	شیطان کا قبر میں آ کر مومنوں کو بہکانا	9		قارون کا اپنے مال کو فقط اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھنا	2
	قبلہ	7	856/8		
	دیکھئے "8: تحویل قبلہ" صفحہ 90	1	857/8	قارون کا اپنے مال و دولت پر اترانا اور اکرنا	3
	قبول اسلام	8	858/8	قارون کو زمین میں دھنسا دینا	4
272/8	حضرت وحشی کا قبول اسلام	1	858/8	قارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی	5
	قبح	9	858/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قارون کے خلاف دعا	6
708/6	قبح کا عقلی ہونا	1	859/8	دیکان کا معنی اور اس کی ترکیب	7
	قتل	10	78/9	قارون کا ذکر کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دینا	8
764/1	حضری کے قتل کی تاریخ	1		قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجوہ	9
754/2	قتل خطا	2		سورة القارعة	5
755/2	قتل خطا کا معنی و اقسام	3	949/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
756/2	قتل خطا، عمد اور شبہ عمد کی دیت	4	954/12	سورة القارعة کی تفسیر کی تکمیل	2
759/2	قتل خطا کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمتیں	5		قبر	6
762/2	قتل عمد کی تعریف	6		دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اور اس سے قبر پر اذان کا استدلال	1
763/2	قتل عمد پر اللہ اور رسول ﷺ کا غضب	7	221/5		
764/2	مسلمان کے قاتل کی مغفرت	8	182/6	قبر میں فرشتوں کا سوال کرنا	2
765/2	سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنا	9	184/6	قبر میں سوالات اس امت کی خصوصیت ہے	3
686/3	قتل برحق کی اقسام	10		جو مسلمان قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے	4
688/3	قتل مومن پر وعید	11	185/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
48/1	قرآن مجید کی تعریف و اسما	1	710/6	کسی مسلمان کو قتل کرنے کی جائز صورتیں	12
50/1	قرآن مجید کے فضائل اور اجر و ثواب	2		قدرت باری تعالیٰ	11
	قرآن کو پڑھنے اور سننے کے آداب مع ضروری مسائل	3	300/1	اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معنی	1
53/1			63/6	بجلی اور بادل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور	2
59-63/1	قرآن مجید کا اعجاز	4	755/6	اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	3
91/1	مکمل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں	5	716/11	اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل و نظائر	4
96/1	قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان	6	779-780 12 578/12 580/12	اللہ کی قدرت پر دلائل	5
103/1	قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کا حکم	7		اللہ تعالیٰ کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پر استدلال	6
104/1	قرآن مجید کا غیر محرف ہونا	8	157/12	اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات سے اپنی قدرت پر استدلال	7
106/1	قرآن مجید کا سات حرفوں پر نازل ہونا	9		زوج کے معنی سے قدرت باری تعالیٰ پر استدلال	8
108/1	قرآن مجید کی سورتوں، آیتوں اور حرفوں کی تعداد	10	157/12	سورة القدر	12
109/1	قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر مستشرقین کے اعتراضات مع جوابات	11	508/12	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
112/1	قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ	12	887/12	سورة القدر کی تفسیر کی تکمیل	2
114/1	قرآن مجید پر رموز اوقاف لگانے کی تاریخ	13	900/12	قذف	13
118/1	مضامین قرآن کا خاکہ	14		قذف کا لغوی معنی	1
122/1	قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے جوابات	15	69/8	قذف کا شرعی معنی	2
123/1	قرآن مجید کی مشروعیت پر دلائل	16	70/8	قرآن و حدیث کی روشنی میں قذف کا حکم	3
129/1	قرآن مجید کی تفسیر کے اصل مآخذ	17	70/8	احسان کی شرائط	4
129/1	قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم	18	71/8	جس پر حد قذف لگ چکی ہو اس کی شہادت	5
242/1	قرآن مجید سب کیلئے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے	19	72/8	قرآن مجید	14

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	قرآن کو مشرکین پر اتمام حجت کے لیے نازل کرنا	41	364/1	قرآن مجید کا تورات کا صدق ہونا	20
695/3			365/1	تعلیم قرآن پر اجرت	21
36/4	قرآن مجید کی تبلیغ	42	369/1	قرآن خوانی کا نذرانہ	22
38/4	قرآن مجید سے ڈرانا اور نصیحت کرنا	43	417/1	آسمانی کتب کے نزول کا مقصد	23
150/4	قرآن مجید کی خصوصیات	44	453/1	قرآن مجید کی صداقت	24
513/4	قرآن مجید پڑھنے کے آداب	45	484/1	قرآن مجید کی آیات منسویہ	25
514/4	قرآن مجید سننے کا حکم	46		قرآن مجید پر مسلمانوں کا عمل نہ کرنا (کحیٰ)	26
515/4	قرآن مجید سننا فرض عین ہے یا فرض کفایہ	47	451/1	(فکریہ)	
516/4	قرآن مجید سننے کے حکم میں مذاہب فقہاء	48	518/1	قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	27
518/4	امام کے پیچھے قرآن سننے میں مذاہب اربعہ	49	38/2	قرآن مجید، کتاب حق ہے	28
338/5	قرآن مجید کو بدلنے کا مشرکین کا مطالبہ	50	706/2	قرآن مجید، اقوال صحابہ پر مقدم ہے	29
339/5	قرآن مجید میں تبدیلی کے مطالبہ کی وجوہات	51	732/2	قرآن میں اختلاف نہیں	30
340/5	قرآن مجید کا وحی الہی ہونا	52	877/2	قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنا	31
365/5	قرآن مجید کی پیش گوئیاں	53	890/2	قرآن کا نور ہونا	32
366/5	قرآن مجید کی تفصیل الكتاب ہونے کا معنی	54	139/3	قرآن مجید کے فوائد و مقاصد	33
463/5	قرآن مجید کی صداقت	55		نزول قرآن کے بعد انجیل پر عمل کے حکم کی توجیہ	34
493/5	قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے کے معانی	56	205/3		
512/5	قرآن مجید کا معجز ہونا	57	206/3 589/3	قرآن کا سابقہ آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا	35
664/5	قرآن مجید کا مبین ہونا	58	210/3	قرآن مجید کی آیات	36
883/5	قرآن مجید میں ہر شی کی تفصیل کا محمل	59	454/3	قرآن تمام عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کا جامع ہے	37
105/6	مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کا نزول قرآن سے خوش ہونا	60	458/3	قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے	38
	قرآن مجید کو حکم عربی فرمانے کی وجہ اور اس کا قدیم ہونا	61	459/3	قرآن میں صرف ہدایت کا ذکر ہونا	39
107/6			588/3	قرآن مجید کی خیر و برکت	40

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
275/8	قرآن کو غفلت و بے پرواہی سے سنتا	84		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن مجید کی تلاوت سے لوگوں کو مسلمان کرنا	62
204/8	قرآن کا سات حرف پر نازل ہونا	85	131/6		
	کیا قرآن اہل کتاب کے تعاون سے بتایا گیا ہے؟	86	227/6	قرآن مجید کا ہدایت کے لیے کافی ہونا	63
214/8			235/6	قرآن مبین اور کتاب کا معنی	64
237/8	قرآن کو تدریجاً نازل کرنے کی وجوہ	87	235/6	قرآن مبین اور کتاب میں تغایر	65
287/8	الکتاب المبین کا معنی	88	235/6	الکتاب کو قرآن مبین پر مقدم کرنے کی وجوہ	66
	قرآن کو نبی ﷺ کے قلب پر نازل کرنے کی کیفیت	89	245-247/6	قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری اسباب	67
441/8			547/6	قرآن مجید میں ہر چیز کا روشن بیان ہے	68
446/8	قرآن کا عربی زبان میں ہونا	90	767/6	قرآن کی پیش گوئی کا پورا ہونا	69
448/8	سابقہ آسمانی کتب میں قرآن کا ذکر	91		قرآن کا جسمانی و روحانی امراض کے لیے شفا ہونا	70
449/8	قرآن کو غیر عربی میں پڑھنا کیسا؟	92	780/6		
450/8	کیا ترجمہ قرآن پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے؟	93	783/6	نیکیوں اور بروں پر قرآن کے مختلف آثار	71
457/8	شیاطین قرآن کو نازل نہیں کر سکتے	94	811/6	قرآن کو حق کے ساتھ نازل کرنا	72
653/8	عربی قواعد کے خلاف قرآن کی کتابت	95	812/6	قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی وجہ	73
655/8	قواعد رسم الخط کے خلاف الفاظ	96	813/6	پست اور بلند آواز سے نماز میں قرآن پڑھنا	74
823/8	قرآن کو یکبارگی نازل نہ کرنے کی وجوہ	97	41/7	قرآن میں کجی نہ ہونا	75
213/9	قرآن کا ہدایت و رحمت ہونا	98	338/7	قرآن کا صرف ڈرنے والوں کیلئے نصیحت ہونا	76
306/9	قرآن کی مختلف النوع ہدایات	99	339/7	قرآن کریم کی عظمت	77
333/9	رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے کی ممانعت	100	431/7	قرآن پر ذکر کا اطلاق	78
	دو شہادتوں سے کسی آیت کا قرآن میں درج کرنا	101	483/7	قرآن مجید کی صفات	79
407/9			483/7	قرآن کی تلاوت میں عجلت کرنا	80
629/9	امت مسلمہ کا قرآن کا وارث ہونا	102	517/7	قرآن کے حادث ہونے کے اشکال کا جواب	81
	قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا قرآن کی ناقدری کرنا ہے	103	518/7	قرآن کو جادو قرار دینا	82
88/10			536/7	قرآن اور کتب سابقہ کے تین محامل	83

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
46/11	قرآن مجید کو کفار کا جادو کہنا	121	89/10	قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب	104
75/11	قرآن مجید پر کفار مکہ کے اعتراض کا جواب	122	158/10	قرآن کریم کا جن وانس کے لیے نصیحت ہونا	105
916/11	قرآن مجید کو نور فرمانے کی وجہ	123	219/10	قرآن سن کر خوف خدا سے روکنے کھڑے ہونا	106
869/11	اللہ کے نور کو بھانے کے معانی و مصداق	124		قرآن سن کر اظہار وجد کرنے والوں کے	107
884/11	قرآن مجید کی پیشین گوئی کی صداقت	125	219/10	متعلق صحابہ و فقہاء کی آراء	
833/11	قرآن مجید کی عظمت	126	222/10	قرآن کے تین اوصاف	108
738/11	نزول قرآن کی حکمت	127		قرآن و ذکر میں مشغول ہونا افضل ہے یا	109
683/11	قرآن کریم کو کریم فرمانے کی دس وجوہ	128	410/10	دعا کرنے میں؟	
687/11	قرآن مجید کو کتاب اور مکتون فرمانے کی توجیہ	129	431/10	قرآن مجید کی دس صفات	110
987-691 11	بے وضو قرآن کو چھونا	130		قرآن مجید کے پیچھے اور سامنے سے باطل	111
691/11	کتب تفسیر اور کتب فقہ کو بے وضو چھونا	131	516/10	نہ آنے کے محال	
696/11	جنبی اور حائض کا قرآن کو چھونا	132		قرآن مجید کو غور سے نہ سننے کی وجہ سے کفار	112
700/11	قرآن مجید کو بتدریج نازل کرنے کی وجوہ	133	517/10	کا ہدایت سے محروم ہونا	
605/11	کس کو رحمن نے قرآن کی تعلیم دی؟	134	523/10	قرآن مجید پر کفار کو ایمان لانے کی نصیحت	113
585/11	قرآن مجید کے آسان ہونے کے محال	135	655/10	قرآن مجید کو قرآن عربی فرمانے کی وجوہ	114
236/11	القرآن ذو وجوہ کا جواب	136		کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن	115
	اس سوال کا جواب کہ قرآن مجید چونکہ حضور	137	679/10	کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا	
412/11	ﷺ کی زندگی میں جمع اور مرتب نہیں ہوا تھا		687/10	نبی ﷺ اور آپ کی قوم کے لیے قرآن کا	116
	اس لیے اس کا وجود مشکوک ہے			شرف عظیم ہونا	
421/11	قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے متعلق عیسائیوں	138		قرآن کے آسان ہونے پر ایک اعتراض	117
	کے اعتراض کا جواب		783/10	کا جواب	
	حضور ﷺ کو اپنی وفات سے قبل مکمل اور	139	788/10	تنزیل قرآن کے مقاصد	118
422/11	مرتب قرآن حفظ ہو چکا تھا		805/10	قرآن کا ہدایت و رحمت ہونا	119
423-429 11	صحابہ کرام کو بھی حضور ﷺ کی زندگی میں	140		قرآن مجید کا انکار، استخفاف اور استحقار کفر	120
	مکمل اور مرتب قرآن حفظ ہو چکا تھا		41/11	ہے	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
341/12	قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھنے کے محال	156		وفات سے قبل حضور ﷺ کے پاس مکمل قرآن کا لکھا ہوا ہونا	141
342/12	خوش الحالی سے قرآن پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء	157	430/11	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو ایک مصحف اور ایک جلد میں جمع کرنا	142
198/12	قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال	158	431/11	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صرف لغت قریش پر قرآن کو باقی رکھنا اور باقی نسخوں کو جلا دینا	143
214/12	قرآن مجید کا سحر، شعر اور کہانت نہ ہونا	159			
216/12	قرآن مجید کی ایجابی صفات	160	434/11	جمع قرآن کے متعلق حرف آخر	144
	قرض	15	435/11	قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت	145
996/1 874/1	اللہ کو قرض حسد دینا	1	811/12	قرآن مجید کی آیات اور ایک حدیث کا تعارض	146
997/1	مقروض کو مہلت دینا	2	816/12	اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اور رسول اللہ کا قرآن کو نہ بھولنا	147
998/1	قرض معاف کرنے پر اجر و ثواب	3	689-694		
1004/1	دین اور قرض کی تعریفیں اور ان میں فرق	4	12		
1005/1	آیت مداینہ کا حکم	5	661/12	قرآن مجید کی فضیلت	148
1005/1	دین پر مبنی عتقہ کی دستاویزات	6		قرآن مجید کا پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہونا	149
1018/1	قرض کے بعض ضروری مسائل	7	577/12	قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت	150
724/11	قرض حسن کی شرائط	8			
	اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض فرمانے کی توجیہ	9	454/12	قرآن اور احادیث سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب	151
725/11					
	قرامطہ	16	457/12	رسول اللہ ﷺ کا دوران وحی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے عجلت کرنا	152
272/2	قرامطہ کی تعریف	1			
273/2	قرامطہ کے عقائد	2	411/12	حضور علیہ السلام کی تلاوت قرآن کا طریقہ	153
270/2	قرامطہ کا حجر اسود اکھاڑ کر لے جانا	3	340/12	ترتیل کا لغوی و اصطلاحی معنی	154
271/2	کعبہ کی بے حرمتی	4	339/12	قرآن کی تلاوت کو خوش الحالی سے پڑھنا	155
	قراءت خلف الامام	17	340/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
935-938 9	قربانی کے حکم میں آئمہ مذاہب اربعہ کا نظریات	20	519/4	قراءت خلف الامام احناف کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے	1
938-939 9	قربانی کے دنوں کی تعیین و تحدید میں فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	21	519/4	قراءت خلف الامام کی ممانعت پر احادیث	2
				قربانی	18
940/9	قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ	22	737/7	مویشیوں کی قربانی کرنے کا طریقہ	1
941/9	قربانی کے جانور کا معیار	23	738/7	مسافروں اور حجاج پر قربانی	2
942/9	افضل قربانی کا بیان	24	738/7	قربانی کرنے کا وقت	3
942/9	قربانی کے گوشت کے احکام اور دیگر مسائل	25	739/7	قربانی کا گوشت خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا	4
943/9	قربانی کے اسرار و رموز	26	756/7	البدن کا معنی اور اس کا صدق	5
258-261 11	محصر کے لیے قربانی کی جگہ کا تعیین	27	756/7	کیا البدن میں گائے شامل ہے؟	6
	قریش	19	757/7	اونٹوں کو نحر کرنے کا طریقہ	7
987/12	قریش کے فضائل	1	758/7	قربانی کی دعا کب پڑھی جائے؟	8
988/12	القریش کا الفیل کے ساتھ مربوط ہونا	2	760/7	قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع	9
988/12	قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کی توجیہ	3	237/7	قربانی کے عمل میں ریا کاری	10
988/12	قریش کی وجہ تسمیہ اور حضور ﷺ کا نسب	4	751/7	حدی کو حرم سے باہر ذبح کرنا	11
989/12	قریش پر انعام کا تقاضا	5	927/9	قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث	12
	قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے اسباب	6	929/9	قربانی کے شرعی حکم سے متعلق احادیث	13
989/12				ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟	14
	سورۃ القریش	20	929/9		
986/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	931/9	قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمریں	15
987/12	سورۃ القریش کی تفسیر کا اختتام	2	931/9	قربانی کے جانوروں کے عیوب	16
	قرعہ اندازی	21	932/9	نماز عید پڑھنے سے قبل قربانی کرنا	17
	سفر میں بیوی کو ساتھ لے جانے کیلئے قرعہ اندازی کرنا	1	933/9	قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی کیفیت	18
87/8			934/9	قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں دینا	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
729/12	رات کی قسم کھانے کی وجوہ	19		قرض خواہ	22
475/12	جن پانچ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی	20		قرض خواہ اپنا حق مقروض کی لاعلمی میں بھی لے سکتا ہے	1
402/12	قسم سے پہلے حروف "لا" کے دو محمل	21	620/10		
183/12	زیادہ قسم کھانے کی مذمت	22		قسم	23
110/12	قسم کی گرہ کھولنے کا طریقہ	23	790/1	قسم کا معنی، شرائط اور ارکان	1
110/12	آیا رسول اللہ ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں؟	24	791/1	غیر اللہ کی قسم کھانا نیز مستقبل اور ماضی میں طلاق و عتاق کی قسم کھانا	2
	قصہ	24	793/1	جھوٹی قسم کھانا	3
665/5	قصہ کا لغوی معنی	1	793/1	بلا قصد قسم	4
665/5	سورہ یوسف کو "حسن القصص" فرمانے کی وجوہ	2	794/1	بالقصد قسم	5
687/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیں	3	794/1	قسم کی اقسام	6
	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا احسن القصص ہونا	4	215/2	قسم توڑنا	7
683/5			216/2	قسم توڑنے والوں کی سزا	8
	قصاص	25	565/6	قسم توڑنا	9
200/3	قصاص کے حکم کا شان نزول	1	166/8	منافقوں کی قسموں کا غیر معتبر ہونا	10
200/3	ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنا	2	309/8	غیر اللہ کی قسم کھانے کا ممنوع ہونا	11
201/3	اعضاء کے بدلے قصاص کی کیفیت	3	858/9	اللہ تعالیٰ کا من پسند فرشتوں کی قسم کھانا	12
202/3	بدلہ نہ لینے کی فضیلت	4	36/10	اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا	13
790/7	تلوار سے قصاص لینا	5	764/12	قسم اور جواب قسم	14
338/9	ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہ کرنا	6		نفس انسان کی قسم سے مراد انسان کامل محمد ﷺ کی قسم ہے	15
	قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ	7	766/12		
431/9			856/12	دن اور رات کی قسم کھانے کی توجیہات	16
	سورۃ القصص	26	872/12	شہر مکہ کی قسم کھانے کی توجیہ	17
765/8	سورۃ کا نام	1	968/12	زمانہ کی قسم کھانے کی وجوہ	18

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
574/11	سورۃ کا نام اور زمانہ نزول	1	765/8	سورۃ القصص کی سورۃ النحل سے مناسبت	2
574/11	واقعہ شق القمر کے متعلق احادیث	2	766/8	سورۃ القصص کے مشمولات	3
576/11	واقعہ شق القمر پر اعتراضات کے جوابات	3	767/8	سورۃ القصص کے اغراض	4
602/11	سورۃ القمر کا اختتام	4	770/8	سورۃ القصص کا خلاصہ	5
	قناعت	32	865/8	سورۃ القصص کے اختتامی کلمات	6
48/7	قناعت کی تعریف	1		قضاء	27
46/7	قناعت کے متعلق احادیث	2		قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث	1
	دعائے قنوت	33	666/2	قضاء علی الغائب کے متعلق مذاہب ائمہ	2
360/2 450/9	قنوت کا معنی	1	703/2	قضاء کے آداب اور قاضی کا ظلم و عدل	3
360-362 2	قنوت کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کے نظریات	2		کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کی حجت پر استدلال	4
363/2	قنوت کے متعلق غیر مقلدین کا نظریہ	3	705/2	اہل ذمہ کے مابین فیصلہ	5
	قوت	34	195/3	قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا	6
353/6	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال	1		قلب	28
561/12	قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال و فساد	2		قلب کی تعریف	1
528/12	قوت عملیہ کے تین شعبے	3	287/1	سورۃ القلم	29
	قواعد فقہیہ	35		سورۃ کا نام	1
330/1 125/4	اشیاء میں اباحت کا اصل ہونا	1	160/12	سورۃ القلم کے مشمولات	2
277/5 504/7	اشیاء میں اصل اباحت ہے	2	160/12	سورۃ القلم کا اختتام	3
	قیاس	36	198/12	نون اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث	4
733/2	قیاس کا حجت ہونا	1		قمار	30
457/3	قیاس کی حجیت پر دلائل	2	164/12	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قمار کی وضاحت	1
675/3	قیاس کی اصل	3		سورۃ القمر	31
363/5	قیاس کے حجت ہونے پر ایک اعتراض کا جواب	4	209/2		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
136/11	جنگی قیدیوں کو غلام بنانا	94/7	14	قیاس کرنے کا جواز	5
137/11	جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کے فوائد	552/10	15	مشروعیت قیاس پر دلائل	6
	قیام تعظیسی	551/10	38	نفی قیاس پر دلیل	7
864/5	قیام تعظیسی کی ممانعت کے متعلق احادیث		1	قیاس، فروع اور احکام میں جائز ہے جبکہ اصول اور عقائد میں جائز نہیں	8
864/5	قیام تعظیسی میں مذاہب فقہاء	564/10	2		
866/5	آنے والے کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا	68/11	3	قیاس کے ثبوت پر دلائل	9
621/12	مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت		4	قیدی/ قیدی	37
621/12	قیام تعظیسی کی ممانعت کے محال	623/2	5	جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈی بنانا	1
622-626	اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کا استحسان	625/2	6	مالی فدیہ کے بدلے جنگی قیدی آزاد کرنا	2
12				مسلمان قیدیوں کے بدلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنا	3
	قیامت	626/2	39		
173/1	یوم قیامت کی مقدار	627/2	1	جنگی قیدیوں کو احساناً آزاد کرنا	4
175/1	وقوع قیامت پر عقلی و شرعی دلائل		2	جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے میں مذاہب اربعہ	5
433/3	منکرین قیامت کا خسارہ	678/4	3		
696/3	قیامت سے قبل دس نشانیوں کا ظہور		4	جنگی قیدیوں کو فدیہ کے بدلہ میں آزاد کرنے کے متعلق احادیث	6
433/3	روز قیامت کو ساعت اور اللہ سے ملاقات کا دن فرمانے کی وجہ	679/4	5		
43/4	قیامت کے دن رسولوں اور ان کی امتوں سے سوالات	682/4	6	موجودہ دور میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانا	7
45/4	قیامت کے دن مجرموں سے سوال کرنا یا نہ کرنا	350/3	7	شک کی بناء پر ملزم یا متہم کو قید میں رکھنا	8
441/4	وقوع قیامت کے وقت کو مخفی رکھنے کی حکمت	351/3	8	مجرموں کو قید میں رکھنا	9
447/4	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ	351/3	9	نادہندہ مقروض کو قید میں رکھنا	10
358/5	قیامت کے دن شرکاء کی مشرکین سے بیزاری	135/11	10	گواہ بنانے کیلئے بعد از نماز وقت کی خصوصیت	11
				گواہ بنانے میں مقام کی خصوصیت	12
				اسیران جنگ کے بارے میں اسلام کی ہدایات	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
908/7	قیامت کے دن نبی ﷺ کے نسب، نکاح اور سسرال کے رشتوں کے سوا تمام رشتوں کا منقطع ہونا	32	622/5	وقوع قیامت کی دلیل	11
			219/6	وقوع قیامت پر عقلی دلیل	12
			221/6	قیامت کے دن کفار کا کف افسوس ملنا	13
145/8	قیامت کے دن دلوں اور آنکھوں کا الٹ پلٹ جانا	33	324/6	قیامت کے دن مسلمانوں سے سوال	14
			325/6	قیامت کے دن کفار سے سوال	15
233/8	قیامت کے دن کی مومنوں پر طوالت	34	544/6	قیامت کے دن بتوں اور مشرکوں کا مکالمہ	16
234/8	قیامت کے احوال	35		قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کسی صورت میں آنے کی توجیہ	17
757/8	قیامت کے دن پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا	36	544/6		
742/8	دآبۃ الارض کا محل خروج وغیرہ	37	587/6	قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا	18
137/9	قیامت پر دلائل	38	656/6	قیامت کے دن اعمال نامہ پڑھوانا	19
139/9	قیامت کے دن مشرکین کے احوال	39		ہر شخص قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ ہوگا	20
205/9	قیامت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا	40	761/6		
328/9	قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا ثمر آور نہ ہونا	41	119/7	قیامت کے دن برہنہ حشر کرنا	21
				حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنانا	22
569/9	رسول اللہ ﷺ کو قیامت کا علم تھا یا نہیں؟	42	120/7		
571/9	علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات	43	120/7	قیامت کے دن اعمال نامہ	23
			277/7	روز قیامت کے مشاہدہ کا عظیم ہونا	24
597/9	وقوع قیامت پر دلائل	44	278/7	روز قیامت کا یوم حسرت ہونا	25
629/9	قیامت کے دن متکبر اور پس ماندہ کافروں کا مناظرہ	45	279/7	اس دن کا مصداق جب فیصلہ ہو چکا ہوگا	26
			356/7	وقوع قیامت پر دلیل	27
783/9	قیامت کا اچانک آنا	46	435/7	قیامت کے وقوع پر کفار کا شبہ	28
817/9	قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی نیکیاں بیان کریں گے	47	437/7	قیامت کے دن پکارنے والے	29
			667/7	قیامت کا خوف و دہشت	30
818/9	قیامت کے دن مجرموں کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے	48	907/7	قیامت کے رشتوں کا ختم ہونا	31

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
726/11	قیامت کے دن منافقوں اور مؤمنوں کا معاملہ	66	819/9	مجرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی توجیہ	49
651/11	قیامت کا واقع ہونا اور اس کا جھوٹ نہ ہونا	67	871/9	مشرکین کا انکار قیامت پر اصرار کرنا	50
624/11	روز قیامت کی ہولناکیاں	68	249/10	قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑنے والے	51
581/11	قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کا صور پھونکنا	69	287/10	قیامت کے دن فساق کی اپنی اعمالیوں پر ندامت	52
325/11	قیامت کے دن کفار اور شیطان سے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام	70	301/10	قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت	53
439/11	قیامت کی کیفیات	71	301/10	قیامت کے دن مؤمنوں کے ثواب کی کیفیت	54
567/11	قیامت کے دن انسان کے گذشتہ اعمال دکھانے کی توجیہ	72	296/10	قیامت کے دن سب سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے امور	55
950/12	قیامت کے دن لوگوں کے احوال	73	336/10	قیامت کے دن لوگوں کی مستور چیزوں کو ظاہر کرنا	56
951/12	قیامت کے دن پہاڑوں کے احوال	74	337/10	قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی	57
737/12	قیامت کے دن کفار و فساق فجار کا کف افسوس ملنا	75	573/10	حضور ﷺ کا ایک حکمت کی وجہ سے وقوع قیامت کی خبر نہ دینا	58
737/12	قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیہات	76	775/10	قیامت کے دن کو فیصلہ کا دن فرمانے کی توجیہات	59
707/12	قیامت کے دن کو العاشیہ فرمانے کی وجہ	77	817/10	قیامت کے وقوع پر دلیل	60
620/12	قیامت کے دن کی گرمی کی شدت سے پسینہ آنا	78	819/10	قیامت کے دن کون کون گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے؟	61
628/12	قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم رہنا	79	824/10	قیامت کے متعلق کفار کے دو گروہ	62
627/12	روز جزاء کی تکذیب کرنے والے	80	916/11	قیامت کے دن کو عدم التخابن فرمانے کی وجہ	63
606/12	قیامت کے احوال و آثار کے ذکر سے مقصود	81	725/11	قیامت کے دن مؤمنوں کے نور کی مختلف مقدار	64
610/12	روز جزاء کی تکذیب کے محامل	82	726/11	قیامت کے دن منافقین کا جنت کے راستہ سے محروم ہونا	65

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
88/9	کائنات کی ہر چیز کا برحق ہونا	1	613/12	روز جزاء کے ادراک کی نفی کا محمل	83
	کاہن	2	581/12	قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم	84
861/9	کاہنوں کی اقسام	1	550/12	قیامت کے احوال	85
	کاہن کی تعریف اور اس کے پاس جانے کا شرعی حکم	2	537/12	روز قیامت کے حق ہونے کی توجیہ	86
861/9				کفار قریش کو قیامت کی دن کے عذاب سے ڈرانا	87
44/11	کاہن کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	3	478/12		
	سورۃ الکافرون	3	435/12	قیامت کے احوال کو شر کہنے کی توجیہ	88
1011/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	457/12	قیامت کے دن کو پس پشت ڈالنے کی توجیہ	89
1012/12	قل یا ایہا الکافرون کا شان نزول	2		قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے متعلق احادیث	90
1013/12	یا ایہا الکافرون سے پہلے قل لانا	3	409/12		
1016/12	سورۃ الکافرون کی آیات میں تکرار کا جواب	4	404/12	قیامت اور نفس لوامہ کی مناسبت	91
1016/12	لکم دینکم ولی دین کے محامل	5	406/12	قیامت کی تکذیب کرنا	92
1016/12	سورۃ الکافرون کی تکمیل	6	$\frac{422-423}{12}$	وقوع قیامت کی دلیل	93
	کامیابی	4	351/12	قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ	94
823/10	حقیقی کامیابی کا مصداق	1	204/12	قیامت کو الحاقہ فرمانے کی وجوہ	95
	کبوتر بازی	5	207/12	قیامت کے وقوع کی علامات	96
382/8	کبوتر بازی کے متعلق احادیث	1	225/12	قیامت کے دن کی مقدار	97
385/8	کبوتر بازی کے متعلق فقہاء کی تصریحات	2	298/12	حضور ﷺ کو وقوع قیامت کا علم	98
	کتاب	6		سورۃ القیامہ	40
70/7	کتوں کو رکھنے کا شرعی حکم	1	399/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	کتاب	7	399/12	سورۃ القیامہ کے مشمولات	2
240/1	کتاب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	424/12	سورۃ القیامہ کا اختتام	3
550/1	کتاب و حکمت کی تعلیم و تزکیہ نفس	2			
418/10	کتاب آسمانی کی تعداد کی تحقیق	3			
				کائنات	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کراما کاتبین کا قضاء حاجت اور جماع کے	8	741/11	کتاب کا معنی	4
611/12	وقت انسان سے الگ ہو جانا		702/12	کتابوں کی تعداد کی تحقیق	5
	کسب	11		کذب	8
1028/1	کسب و کتاب کا معنی	1		دیکھئے "30: جھوٹ" صفحہ 107	1
1028/1	شکر و کتاب کے ساتھ مخصوص کرنا	2		کرامت	9
268/7	معاش کے حصول کے لیے کسب کرنا ضروری ہے	3	434/5	کرامت کی تعریف اور خلاف عادت کاموں کی اقسام	1
	کعبہ	12		اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	2
545/1	تعمیر کعبہ کی تاریخ	1	435/5		
567/1	کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار	2		اولیاء اللہ کی کرامات کے ثبوت میں احادیث صحیحہ	3
569/1	کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا	3	437/5		
257/2	کعبہ کا بیت اول ہونا	4		کرامت کے اختیاری ہونے میں علماء کی تصریحات	4
259/2	تعمیر کعبہ کی تاریخ	5	437/5		
261/2	کعبہ کے فضائل	6	693/8	کرامت کی تعریف	5
265/2	بیت اللہ کے اسماء	7	305/12	علامہ زمخشری کا کرامات اولیاء کا انکار کرنا	6
266/2	کعبہ کی برکت و ہدایت کا معنی	8		کراما کاتبین	10
267/2	کعبہ اور مقام ابراہیم کی نشانیاں	9	505/3	کراما کاتبین کی تعریف اور ان کے فرائض	1
271/2	کعبہ کی بے حرمتی کرنا	10	505/3	کراما کاتبین کے متعلق قرآنی آیت	2
	تعمیر کعبہ کے وقت تہبند اتار کر کندھے پر رکھنے کی روایت کی تحقیق	11	506/3	کراما کاتبین کے وظائف	3
102/4				آیا دل کی باتوں کو کراما کاتبین لکھتے ہیں یا نہیں؟	4
	کفر/ کفار	13	507/3		
304/1	کفار کا فروع کا مکلف ہونا	1	509/3	اعمال کو لکھوانے کی حکمتیں	5
279/1	کفر کے معانی	2	322/11	کراما کاتبین کا صحیفہ اعمال میں دیکھنا	6
620/1	کفار کے عذاب میں تخفیف و عدم تخفیف	3	611/12	کراما کاتبین کے اعمال بنی آدم لکھنے کی تفصیل	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
748/2	کفار کے ساتھ دوستی	26	938/1	کفار کو نور سے نکالنا	4
829/2	کفر پر راضی ہونا	27	939/1	کفار کی ظلمت کی مثال	5
836/2	کفار کے نابالغ بچوں پر عذاب	28	227/2	کفر طے واحد ہے	6
830/2	کفار کا مسلمانوں پر غلبہ	29	103-106/2	کفار سے دوستی کی ممانعت	7
148/3	کفر اور فسق کی وجوہات	30	107/2	کفار سے مواسات	8
176/3	کیا اللہ نے کافر کے کفر کا ارادہ کیا تھا؟	31	108/2	کفار سے مجرم معاملہ	9
212-213 3	کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت	32	203/2	کفار کی نیکیوں کا مقبول یا مردود ہونا	10
224/3	ملکی و جنگی معاملات میں کفار سے خدمت	33	244/2	کفار کی اقسام	11
393/3	کفار احسان فراموش ہیں	34	322/2	آخرت میں کفار کے اعمال کا ضائع ہونا	12
396/3	کفر باللہ اور کفر بالرسول	35	324/2	کفار کو راز دار بنانا	13
400/3	کفار کے انکار کا حقیقی سبب	36	326/2	مسلمانوں کا کفار سے محبت کرنا	14
418/3	کفار کے اخروی نقصان کا معنی	37	326/2	مسلمانوں کے خلاف کفار کا غیظ و غضب	15
423/3	کفار کے کانوں پر ڈاٹ لگانا	38		متقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنا	16
430/3	قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت	39	327/2		
448/3	کفار کو مردہ کہنے کی حکمت	40	328/2	غیر مسلموں سے دینی و دنیوی کام لینا	17
449/3	کفار کی مطلوبہ نشانیاں نازل نہ کرنے کا سبب	41	355/2	کفار پر لعنت	18
	کافروں کے عمومی عذاب میں مومن شامل ہوں گے یا نہیں؟	42	367/2	کفار کے لیے دوزخ کا تیار کیا جانا	19
470/3			400/2	دینی معاملات میں کفار کی اطاعت	20
484/3	کافروں کو ڈرانے کا محمل	43	475/2	دنیا میں کفار کی خوشحالی	21
	کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کرنا	44	478/2	کفار کو گناہوں کے لیے ڈھیل دینا	22
495/3				کفار کی زیادتیوں کو ختمہ پیشانی سے برداشت کرنا	23
626/3	کفار کے دلوں کو پھیرنا	45	507/2		
644/3	کافر کے مردہ ہونے کی مثال	46	528/2	کفار کے لیے دنیا میں عیش	24
645/3	کفار کو مقدر بنانے کی حکمت	47	676/2	قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال	25

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
48	کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولنا	137/4	68	کفر کا غلبہ فقط عرب سے یا مکمل دنیا سے ختم کرنا مقصود ہے	636/4
49	کفار کی جنتوں کا مسلمانوں کو وراثت میں ملنا	140/4	69	کفار مکہ نے اللہ کی جن نعمتوں کی ناشکری کی	657/4
50	کفار کو دوزخ میں کھانے پینے سے محروم رکھنا	147/4	70	کفر کے علمبرداروں کا مصداق	79/5
51	کفار کا اخروی خسارہ	150/4	71	کفار سے محبت کا تعلق رکھنا منع ہے جبکہ بغیر محبت کے معاملات جائز ہیں	100/5
52	کافروں کی مثال	188/4	72	زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیوں پر اجر و ثواب	156/5
53	رنج و راحت کے نزول میں کفار کے احوال	232/4	73	زندہ کافروں کے لیے مغفرت اور ہدایت کی دعا کا جواز	274/5
54	کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجنے کی وجہ	235/4	74	کافر کے مُسْرِف ہونے کی وجوہ	334/5
55	کفار مکہ کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	236/4	75	کفار کے ایمان نہ لانے پر نبی ﷺ کو تسلی	370/5
56	سابقہ امتوں کے عذاب سے کفار مکہ کا سبق حاصل نہ کرنا	236/4	76	کفار کے ناکام ہونے کی واضح دلیل	449/5
57	کفار کے دلوں کو پھیرنے کی توجیہ	318/4	77	کفار کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	454/5
58	کفار کی نیکیوں کا ضائع ہونا	332/4	78	کفر کا فطرت کے خلاف ہونا	481/5
59	کفار کا جانوروں سے زیادہ گمراہ ہونا	424/4	79	کفار کی دنیا میں خوشحالی	494/5
60	جاہل کفار کا حضور ﷺ کو مجنوں کہنا	437/4	80	کفار کا مصیبت میں مایوس ہونا اور راحت میں ناشکری کرنا	508/5
61	کفار کو گمراہی پر پیدا کرنے کا معنی	440/4	81	قیامت کے دن کفار کے خلاف گواہی دینے والوں کے مصداق	517/5
62	کفار کے فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی وجہ	512/4	82	کفار مکہ کی چودہ وجوہ سے مذمت	518/5
63	بعض صحابہ کے نزدیک لشکر کفار سے مقابلہ کا ناگوار ہونا	554/4	83	کفار کو دو گنا عذاب	519/5
64	ابوسفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کو بعض صحابہ کے ترجیح دینے کا بیان	556/4	84	جب کفار حق کو سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان سے گرفت کیوں ہوئی؟	519/5
65	کفار قریش کا حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنا	622/4			
66	کفار کی سازش کا ناکام ہونا	623/4			
67	کفار کا استغفار	626/4			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
103/6 171/6 412/6 414/6	جب کفار کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو ان کی مذمت کی وجہ	101	534/5	جب اللہ تعالیٰ کفار کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرمائے تو پھر گمراہ ہونے میں ان کا کیا قصور ہے؟	85
103/6	کافروں اور مسلمانوں کے مصائب کا فرق	102	620/5	کفار کو عذاب دینا عدل اور حکمت کا تقاضا ہے	86
117/6	کفار کے مطالبہ کی وجہ سے ان پر عذاب کیوں نازل نہ ہوا؟	103	630/5	کفار کے عذاب کو آسمان و زمین کے قیام پر موقوف کرنا	87
159/6	کفار کے شبہات کے جوابات	104	631-634 5	کفار کے دائمی عذاب پر دلائل	88
169/6	کفار کے اعمال کی راکھ کے ساتھ وجہ مشابہت	105	637/5	توحید و رسالت کا انکار کفار کی پرانی روش ہے	89
221/6	کفار کا قیامت کے دن کف افسوس ملنا	106	44/6	کفار کا رحمت اور ثواب کے بجائے عتاب اور عذاب کو طلب کرنا	90
222/6	کفار کا مکر	107	237/6	گنہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکلتا ہوا دیکھ کر کفار کی حسرت و ندامت	91
325/6	کفار سے قیامت کے دن سوال	108	242/6	کفار مکہ کو زجر و توحیح	92
478/6	کفار کے مختلف نظریات کا بطلان	109	248/6	کفار کے دلوں میں نبیوں کا استہزاء پیدا کرنے کی بحث	93
546/6	دوسروں کو کافر بنانا	110	249/6	کفار کے انکار اور استہزاء کی وجوہات	94
729/6	کفار کی آنکھوں اور دلوں پر پردہ ڈالنا	111	251/6	کفار مکہ کے مطالبہ پر فرشتوں کو نازل نہ کرنے کی وجہ	95
763/6	کفار کا دنیا و آخرت میں اندھا ہونا	112	76/6	کفر اور ایمان کی پانی اور جھاگ سے تشبیہ	96
765/6	کفار کی فرمائشوں کے متعلق اقوال	113	77/6 543/6	کفار کے اخروی احوال	97
803/6	کفار کا قیامت کے دن سر کے بل چلنا	114	89/6	کفار کی صفات اور آخرت میں ان کی سزا	98
107/7	کفار کا اپنے مال پر فخر کرنا	115	90/6	دنیا میں کفار کی خوشحالی کی وجوہ	99
117/7	کفار کے قیامت کے دن پیش ہونے کی حالتیں	116		کفار کے فرمائشی معجزات نازل نہ کرنے کا سبب	100
139/7	گذشتہ کفار اقوام کے متعلق اللہ کا دستور	117	98/6		
140/7	جن برے کاموں کی وجہ سے کفار پر عذاب ہوا	118			
286/7	کفار کے لیے مغفرت کی دعا	119			
306/7	قیامت کے دن کفار کے حشر کی کیفیت	120			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
452/8	کفار مکہ کا عناد اور ہٹ دھرمی	142	311/7	کفار کے مقام کا زیادہ برا ہونا	121
554/8	جب کفر یہ کاموں کو اللہ نے مزین کیا ہے تو پھر ان کی مذمت کیوں؟	143	317/7	ان کفار کی مذمت جنہوں نے رحمان کیلئے بیٹا گھڑ لیا	122
586/8	کفار کو تنبیہ	144	495/7 497/7	کفار کی زندگی تنگ	123
836/8	کفار کا لغو اور بے ہودہ باتیں کرنا	145	496/7	کفار دنیا میں عیش و عشرت سے ہیں	124
845/8	کفار کے ایک شبہ کے جوابات	146	522/7	کفار کے فرمائشی معجزات نہ بھیجنے کی وجوہ	125
848/8	کافر اور مومن کی دنیا و آخرت میں تقابل	147		”کفار حیات بعد الممات کے قائل نہیں“ پر اعتراض	126
192/9	راحت اور مصیبت میں کفار کے احوال	148	530/7		
205/9	کفار کا قیامت کے دن جھوٹ بولنا	149	589/7	دنیا میں کفار کی حفاظت	127
205/9	کفار کے مطلوبہ معجزات نہ دینے کی وجوہ	150	590/7	کفار پر زمین کے کناروں کا تنگ ہونا	128
235/9	کفار کی سزا کا ذکر	151	718/7	کفار کا ضرر پہنچانا اور نہ پہنچانا	129
347/9	کفار کے فیصلہ کے دن سے مراد	152	719/7	کافروں کی سزا کے بعد مومنوں کی جزاء	130
	کفار کو اللہ تعالیٰ کا غزوہ خندق سے بے نکل	153	761/7	کفار کو قتل کرنے کی ممانعت	131
409/9	مرا م لوٹانا		762/7	کفار سے درگزر کرنا	132
509/9	کفار سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	154	882/7	کفار کو ان کے کفر کے باوجود نعمتیں عطا کرنا	133
628/9	کفار سے کیا ہوا معین وقت کا وعدہ	155		کفار کے کثرت اور ان پر نزول عذاب کی کیفیت	134
	کفار کے گھبرانے اور ان کی جائے فرار نہ ہونے کی متعدد تقاسیر	156	884/7		
643/9			900/7	کفار کا عذاب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھانا	135
644/9	روزِ حشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	157	147/8	کفار کے اعمال بے فائدہ ہیں	136
644/9	روزِ حشر کفار کی خواہشات	158	244/8	کفار سے سننے اور عقل کی نفی	137
664/9	کفار کے مکر کا بیان	159	245/8	کفار کا چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہونا	138
695/9	کفار کو دائمی عذاب دینے کی وجہ	160	248/8	کفر کے اندھیروں کا ختم ہونا	139
696/9	کفار کے نقصان اٹھانے کے محامل	161	288/8	کفار کا ایمان نہ لانا	140
718/9	کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنے کا محمل	162	289/8	کفار کا بدرتج سرکشی میں بڑھنا	141

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
656/10	کفار مکہ کی شقاوت اور ایذا رسانی	183	724/9	کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا	163
732/10	کفار کو سلام کرنے کا مسئلہ	184	746/9	کافروں کے خلاف فرشتوں کو نازل کرنا	164
761/10	کفار کا اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا محض ان کا مشغلہ اور دل لگی ہے	185	783/9	کفار قیامت کی خبر کو وعدہ کیوں کہتے تھے؟	165
772/10	کفار کے مطالبہ پر ان کے باپ دادا کو زندہ نہ کرنے کی وجہ	186	790/9	کفار کا اپنی قبروں کو خواب گاہوں سے تعبیر کرنا	166
782/10	کفار مکہ کے انتظار اور حضور ﷺ کے انتظار کے الگ الگ محل	187	791/9	کفار کا اللہ کا ذکر رحمن کے نام سے کرنا	167
807/10	کفار کی زندگی اور موت کا مسلمانوں کے برابر نہ ہونا	188	880/9	کافر پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ	168
812/10	کفار کے کان اور دل پر مہر لگانے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی توجیہ	189	881/9	کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وعیدات	169
814/10	کفار کے نقل کردہ قول پر ایک اعتراض کا جواب	190	38/10	کفار کا تکبر کرنا	170
816/10	کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلا دلیل انکار کرتے ہیں	191	39/10	کفار کا ابوطالب سے شکایت اور حضور ﷺ کا جواب	171
816/10	حشر و نشر کے انکار پر کفار کی حجت کا جواب	192	40/10	کفار کا اپنے بتوں کی عبادت پر صبر کرنے کا محل	172
819/10	کفار کا خسارہ	193	130/10	طاغین سے مراد کفار ہیں نہ کہ اصحاب کبار	173
125/11	اللہ کی راہ سے روکنے والے کفار	194	131/10	دوزخ میں کفار اور ان کے پیروکاروں کا مناظرہ	174
140/11	کفار کے اعمال ضائع کرنے کی وجہ	195	204-206 10	کفار کا نقصان زدہ ہونا	175
146/11	کفار کا آخرت میں عذاب	196	263/10	کفار کا دھمکیاں دینا	176
914/11	کفار کے پیدا کرنے میں حکمت	197	382/10	کفار کے اعذار کا قبول نہ ہونا	177
776/11	کفار کی دنیا و آخرت میں رسوائی	198	433/10	کفار کے دلوں پر پردوں اور کانوں میں ڈاٹ کا سبب	178
793/11	کفار پر مسلمانوں کے غلبہ سے مراد	199	438/10	آیا کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں؟	179
793/11	کفار سے ان کے دین کی وجہ سے محبت کرنا	200	477/10	کفار کے جرائم اور ان کی سزا	180
			632/10	کفار قیامت کے دن بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں؟	181
			633/10	انسان کے کفر کا سبب	182

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
201	کفار کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ	845/11	219	کفار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ	530/12
202	کفار کے لیے آزمائش کا معنی	846/11	220	کافر کے قول "کاش! میں منی ہو جاتا" کے متعلق روایات	538/12
203	کفار کے لیے وعیدیں	665/11	221	کفار قریش کو عذاب سے ڈرانا	478-481 12
204	کفار کے لیے آخرت میں عذاب کی مہمانی	704/11	222	متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا	483/12
205	کفار کے جہنم میں گھومنے کی کیفیت	625/11	223	کفار کا قیامت کے دن باتیں کرنا یا نہ کرنا	484-487 12
206	ازل میں کفار کو ایمان سے پھیر دینے کی توجیہ	360/11	224	کفار کا اللہ کے سامنے مکر کرنے سے عاجز ہونا	487/12
207	کفار کی مذمت	461/11	225	کفار کا نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا	496/12
208	کفار کو ان کے مال پر چھوڑنے کے حکم کی توجیہ	462/11	226	کفار کو نماز نہ پڑھنے پر عذاب سے ڈرانا	496/12
209	کفار کی تمناؤں کا پورا نہ ہونا	515/11	227	کفار کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی متعدد تفاسیر	497/12
210	کفار کے باطل عقائد پر ظن کے اطلاق کی توجیہ	518/11	228	عبداللہ کا لفظ کفار کو شامل نہیں ہے	433/12
211	کفار کی بد عقیدگی کو ان کا مبلغ علم قرار دینے کی توجیہ	520/11	229	کفار کو فتا کر کے دوسری قوم کو پیدا کرنا	459/12
212	کفار کے لیے عذاب کی وعید	758/12	230	کفار کا قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا	383/12
213	کفار اہل کتاب کے عذاب کو مشرکین کے عذاب پر مقدم کرنے کی توجیہ	911/12	231	کفار کی اپنی مہم میں ناکامی	182/12
214	کفار کے انکار عذاب کا بطلان	157/12	232	کفار کا عذاب قیامت کو طلب کرنا	222/12
215	کفار کا رسول اللہ ﷺ کو مجنون کہنا	164/12	233	کفار اور فجار کو ڈھیل دینا	286/12
216	کفار کا دنیا کی خوشحالی کے بعد آخرت کی تنگی کی طرف لوٹنا	637/12	14	کفارہ	
217	کفار کے چہروں کی آخرت میں کیفیات	583/12	1	کفارہ کا معنی	255/10
218	کفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا	564-565 12	2	اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کی قسم کا کفارہ ادا کرنا	104/12
			15	کفریہ کلمات	
			1	جان کے خوف سے کلمہ کفر کہنا	580/6
			2	کفریہ محاورے	289/10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
607/3	کھجور کے خواص	2	416/6	کن فیکون پر ایک اعتراض کا جواب	2
178/6	شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے	3		کن فیکون پر خطاب بالمعدوم اور تحصیل	3
179/6	کھجور کے درخت اور مومن میں وجوہ مشابہت	4	851/9	حاصل کے اعتراض کا جواب	
263-266	کھجوروں میں پیوند کاری کی ممانعت کی	5		سورۃ الکوثر	23
6	احادیث		997/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
862/7	کھجور کے غذائی اور طبی فوائد	6	997/12	سورۃ الکوثر کا مکی یا مدنی ہونا	2
	سورۃ الکہف	28	998/12	سورۃ الکوثر کی سورۃ الماعون سے مناسبت	3
33/7	سورۃ الکہف کا زمانہ نزول	1		سورۃ الکوثر کا اس سے پہلی سورتوں کیلئے تتر	4
34/7	سورۃ الکہف کا سبب نزول	2	999/12	ہونا	
	روح کے سوال کو بنی اسرائیل میں اور بقیہ	3	1001/12	سورۃ الکوثر کا بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہونا	5
34/7	دو سوالوں کو الکہف میں ذکر کرنے کی توجیہ		1010/12	سورۃ الکوثر کی تفسیر کی تکمیل	6
35/7	سورۃ الکہف کے متعلق احادیث	4	1003/12	"انا" اور "اعطاء" کے فوائد و نکات	7
36/7	سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں مناسبت	5	1004/12	لفظ کوثر کی تفسیر	8
37/7	سورۃ الکہف کے مشمولات	6		کوڑے	24
40/7	سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا ارتباط	7	58/8 72/8	کوڑے مارنے کے مسائل و فقہی احکام	1
238/7	اختتامی کلمات	8		کھیل	25
	گ		306/3	کھیل اور ورزش کا شرعی حکم	1
	گدھا	1	308/3	کرکٹ میچ کا شرعی حکم	2
269/9	گدھے کی آواز کی مذمت	1	442/3	کھیل اور ورزش کے متعلق اسلامی احکام	3
	گداگری	2		کھانا کھانے کے آداب	26
650/1 972/1	سوال کرنے کی جائزہ	1		دیکھئے "7: طعام" صفحہ 168	1
662/1	سالمین کو دینا	2		کھجور	27
971/1	گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنا	3		کھجور کے فضائل اور اس کا مومن کی صفت	1
972/1	مسجد میں سائل کو دینا	4	605/3	پر مشتمل ہونا	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
477/11	ضلال کے معانی	10		گرفت	3
478/11	انبیاء کی طرف ضلال کی نسبت کرنا	11	701/9	اللہ تعالیٰ کا بتدریج گرفت فرمانا	1
	اللہ کی طرف ضلال کی نسبت کرنے کے دو معانی	12		گروی رکھنا	4
479/11				دیکھئے "29: رہن (گروی رکھنا)" صفحہ 138	1
	گمان	7		گستاخ رسول ﷺ	5
	دیکھئے "13: بدگمانی" صفحہ 82	1		رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا شرعی حکم	1
	گنبد خضریٰ	8	283/4		
716/2	گنبد خضرا کی زیارت کے لیے سفر کرنا	1		احادیث و آثار میں غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کی تصریح	2
	گناہ	9	385/4		
628/1	گناہ کا معنی	1		غیر مسلم گستاخ رسول کو قتل کرنے کے متعلق فقہاء مذاہب اربعہ کی تصریحات	3
	گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ اور فقط ارادہ پر عدم مواخذہ	2	386/4		
848/1			551/9	اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات	4
99/2	مرکب کبیرہ کا بلا توبہ فوت ہونا	3	552/9	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات	5
375/2	گناہ پر نادم ہونا	4		گمراہ / گمراہی	6
378/2	گناہ پر اصرار کا معنی	5	634/3	عقیدہ اور عمل کی گمراہی	1
523/2	گناہ بخشنے میں تکرار	6	418/4	گمراہی کا اللہ کی طرف سے ہونے کا معنی	2
610/2	جہالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توبہ	7	135/6	بہت دور کی گمراہی کا معنی	3
646/2	صغیرہ اور کبیرہ گناہ	8	564/6	اللہ کا بعض بندوں کو گمراہ کرنا	4
649/2	اصرار سے صغیرہ کا کبیرہ ہونا	9	718/7	بہت دور کی گمراہی	5
808/2	گناہگاروں کے لیے نوید مغفرت	10	643-641	حضور ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کی تحقیق	6
806/2	ہر گناہ پر سزا	11	9		
	گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے	12	964/9	کسی کو گمراہ کرنے کی قدرت	7
468/3			631/10	گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے	8
491/3	جہالت کی وجہ سے گناہوں کی معافی	13		بعض بندوں کو رسول اور بعض کو گمراہ بنانے کی توجیہ	9
638/3	ظاہری اور پوشیدہ گناہ کی ممانعت	14	811/10		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
15	اٹم کا معنی و تعریف	638/3	32	گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے متعلق مذاہب	121/7
16	دل کے افعال پر مواخذہ	639/3	33	گناہوں کی صفات اور کبار میں تقسیم	121/7
17	تمام گناہوں کی اصل	128/4	34	گناہ کبیرہ کی تعداد	123/7
18	گناہگار مسلمانوں کے لیے دائمی عذاب	132/4	35	گناہ کبیرہ کی تعریفات	124/7
19	گناہوں پر اصرار کے ساتھ اجر و ثواب کی طمع کی مذمت	406/4	36	گناہ کبیرہ کے مرکب کی مغفرت	301/7
20	گناہوں کو ترک کرنے کا طریقہ	509/4	37	بندہ کا بہت زیادہ گناہ کرنا	411/7
21	کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے صغیرہ کا معاف ہونا	620/4	38	توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کرنا	413/7
22	مومنوں اور کافروں کا دنیا و آخرت میں فرق	620/4	39	اللہ کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطا فرمانا	274/8
23	ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کی معافی	630/4	40	ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق علامہ	
24	کافر کے سابقہ گناہ بخشنے میں اللہ کا لطف و کرم	632/4	41	غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ کا موقف	348/8
25	اپنے گناہوں کو چھپانا واجب ہے اور ظاہر کرنا حرام ہے	483/5	42	قرآن میں مذکور حضور ﷺ کے ذنب کا ترجمہ گناہ کرنا	474/8
26	پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کا معاف ہونا	648/5	43	عوام اور خواص کے معاصی کا فرق	583/8
27	نیکیوں سے صغیرہ گناہ مٹتے ہیں یا کبیرہ؟	649/5	44	لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا	49/9
28	اللہ کی عنایت کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں	750/5	45	گناہ کے سبب بننے والے پر گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا	50/9
29	اللہ تعالیٰ کا توبہ اور بغیر توبہ کے گناہوں کو بخش دینا	155/6	46	بنو آدم کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا	701/9
30	اس اشکال کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ اطمینان کو گمراہ کرنے کیلئے طویل عمر نہ دیتا تو لوگ گناہ نہ کرتے	279/6	47	کیا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہیں؟	806-809/9
31	گناہگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال	324/6	48	اٹم، کبیرہ اور فحش کا معنی	611/10
			49	چند گناہ کبیرہ کا بیان	612/10
			50	لغو اور گناہ کی باتیں	661/11
				گناہ کا سبب دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت ہے	404/11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
89/4	لباس کی نعمت پر شکر ادا کرنا	1	523/11	گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تعریفات	51
116/4	لباس پہننے وقت کی دعا	2	895/12	گناہ میں اضافہ	52
116/4	لباس کی انواع و اقسام	3	608/12	اللہ تعالیٰ کا فوراً گناہوں پر سزا نہ دینا	53
117/4	لباس کے رنگ	4	247/12	بعض گناہوں کی معافی	54
118/4	اجلا، صاف اور عمدہ لباس	5		گوشت	10
119/4	قیمتی اور معمولی لباس پہننا	6	369/6	مچھلی پر گوشت کا اطلاق	1
121/4	لباس پہننے کے شرعی احکام	7	372/6	گوشت کو کمی اور زیادتی کے ساتھ چھینا	2
355/6	اون کا لباس پہننا	8		گاوہ	11
270/8	اچھا لباس پہننا	9	139/6	گاوہ کا کلمہ شہادت پڑھنا	1
	کیا ایک سے زائد لباس رکھنا سرکشی اور بغاوت ہے؟	10		گواہی دینا	12
594/10				دیکھئے "29: شہادت" صفحہ 156	1
594/10	ایک سے زائد لباس رکھنے کا ثبوت	11			
510/12	لباس کا معنی اور رات کو لباس فرمانے کی وجہ	12			
365/12	لباس پاک رکھنے کے محامل	13			
	لذت	6			
403/8 884/9	جسمانی و روحانی لذتیں	1			
	دنیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دینا	2			
700/12			572/6	لاحول ولا قوۃ پڑھنے کی فضیلت	1
	لذیذ	7	108/7	معنی اور اس کے متعلق احادیث	2
95/11	لذیذ اور پسندیدہ چیزوں کے حصول کی اجازت	1			
	لشکر	8			
238/11	اللہ تعالیٰ کے لشکر کا مصداق	1			
	لعان	9			
75/8	قرآن کا لغوی و شرعی معنی	1			
				لباس	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
699/5	لقطہ کے اعلان کی مدت میں مذاہب فقہاء	6	76/8	لعان کی وجہ تسمیہ	2
	آج کل کے دور میں لقطہ کے اعلان کا طریقہ کار	7	76-79/8	لعان کے بعد تفریق	3
700/5			79/8	لعان کی وجہ سے بچہ کے نسب کی نفی	4
701-705/5	اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد لقطہ کا مصرف	8		لعنت	10
			616/1	لعنت کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1
	لقیط	14		مردہ کافروں پر لعنت کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کا عدم جواز	2
693/5	لقیط کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	619/1		
694/5	لقیط کے شرعی احکام	2	620/1	مسلمانوں پر لعنت کی ممانعت	3
	سورہ لقمان	15	686/2	لعنت کی اقسام	4
207/9	سورہ کا نام	1	686/2	کسی شخص پر لعنت کرنا	5
207/9	سورہ لقمان کا زمانہ نزول	2	160/11	لعنت کی اقسام	6
208/9	سورہ لقمان کی سورہ الروم سے مناسبت	3		لغو	11.
209/9	سورہ لقمان کے مشمولات	4			
296/9	سورہ لقمان کا اختتام	5	853/7	لغو کا لغوی معنی	1
	حکیم لقمان	16	854/7	لغو کا اصطلاحی معنی	2
241/9	حکیم لقمان کا تعارف	1		لقب	12
243/9	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	2	389/6	غوث اعظم، غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ	1
250/9	حکیم لقمان کو شکر کرنے کی تلقین	3		ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنے کی ممانعت	2
251/9	حکیم لقمان کے بیٹے کا نام اور اس کا دین	4	296/11		
	لکھنا	17		لقطہ	13
382/7	لکھنے کے جواز پر قرآن کی آیات	1	695/5	لقطہ کا لغوی معنی	1
383/7	لکھنے کے جواز پر احادیث	2	695/5	لقطہ کے متعلق احادیث	2
384/7	لکھنے کی ممانعت پر دلائل	3	696-697/5	لقطہ کو اٹھانے کے حکم میں مذاہب فقہاء	3
880/12	لکھنے کی فضیلت اور اس کے متعلق احادیث	4	697/5	لقطہ کی اقسام اور ان کے احکام	4
	لوح محفوظ	18	698/5	لقطہ کا اعلان کرنے کے مقامات اور طریقہ کار	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
219/4	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	6		لوح محفوظ سے تمام امور کا روایت و روایت سے لکھا جاتا	1
214/4	حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب	7	393/2		
214/4	حضرت لوط علیہ السلام کا مقام بعثت	8		لوح محفوظ تمام مخلوقات کے تمام احوال کی جامع ہے	2
	رب کے ہاں فرشتوں کا نوخیز لڑکوں کی شکل میں مہمان ہونا	9	454/3		
215/4			501/3	لوح محفوظ کا بیان	3
216/4	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت	10	798/7	لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا	4
597/5	حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا	11		لوح محفوظ میں قرآن مجید اور مخلوق کے اعمال کا ثابت ہونا	5
598/5	حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہ	12	655/10		
	حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صلیبی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش کیا تھا یا قوم کی بیٹیوں کو؟	13	736/11	لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمتیں	6
598/5			661/12	لوح محفوظ کی تفسیر میں اقوال مفسرین	7
599/5	قوم کی بیٹیوں کے ارادہ پر دلائل	14		لوح قرآنی	19
	حضرت لوط علیہ السلام کا مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنا	15		دیکھئے "22: حروف مقطعات" صفحہ 114	1
600/5				لواطت	20
	اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بجائے مضبوط قبیلہ کی پناہ کو طلب کرنے کی توجیہات	16	606/2	لواطت کی حرمت پر آیات	1
601/5			607/2	لواطت کی حرمت پر احادیث	2
	حضرت لوط علیہ السلام کا نجات پانا اور بد معاش کافروں کا بھاگنا	17	608/2	عمل قوم لوط کی حد یا تعزیر	3
602/5			216/4	لواطت کی عقلی قباحتیں	4
603/5	قوم لوط کی بستی اٹنہ کے متعلق روایات	18	217/4	قرآن و حدیث میں لواطت کی مذمت	5
604/5	قوم لوط کو سنگسار کرنے کے متعلق روایات	19	219/4	لواطت کی سزا	6
	حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں آنا	20		حضرت لوط علیہ السلام	21
300/6			216/4	قوم لوط کی بری عادتیں	1
	قوم لوط کا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ان لڑکوں (فرشتوں) پر ہجوم کرنا	21	216/4	عمل قوم لوط کی عقلی قباحتیں	2
300/6			217/4	قرآن میں عمل قوم لوط کی مذمت	3
304/6	قوم لوط پر عذاب کا نزول	22	217/4	احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت	4
307/6	قوم لوط کے آثار	23	217/4 219/4	عمل قوم لوط کی سزا	5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	لوحا	23	582/5 614/7	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	24
738/11	لوہے کے فوائد	1	953/9		
	لہو و لعب	24		حضرت لوط علیہ السلام کی اہل سدوم کی طرف بعثت	25
435/3	دنیاوی زندگی کو لہو و لعب قرار دینا	1	409/8		
441/3 733/11	لہو و لعب کا معنی	2	412/8 703/8	عمل قوم لوط کی سزا	26
	لہو و لعب کے متعلق احادیث	3	412/8	قوم لوط کی بری خصلتیں	27
382/8	محمد شین کے نزدیک لہو کی تعریف	4	413/8	قوم لوط کی زبان درازی اور عذاب کا مستحق ہونا	28
383/8	لہو باطل کے نقصانات	5		حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور اس کا عذاب	29
385/8	سورۃ اللیل	25	413/8		
	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	701/8	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	30
776/12	سورۃ اللیل کے مشمولات	2		قوم لوط کا بے حیائی کے کاموں میں بصیرت رکھنا	31
777/12	سورۃ اللیل کی تفسیر کا اختتام	3	701/8		
802/12	لیلۃ القدر	26	702/8	قوم لوط پر زمین کا پلٹ دینا	32
	لیلۃ القدر میں قرآن کا آسمان دنیا کی طرف نازل ہونا	1	70/9	قوم لوط کا راستوں کو منقطع کرنا	33
889/12	لیلۃ القدر میں قدر کے معانی	2	71/9	قوم لوط کا برسر مجلس بے حیائی کے کام کرنا	34
890/12	کیا حضور ﷺ کو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم تھا؟	3	74/9	قوم لوط پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	35
891/12	لیلۃ القدر کے فضائل	4	75/9	آیا جنت میں عمل قوم لوط ہو گا یا نہیں؟	36
892/12	رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے پر دلائل	5	592/11	حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ	37
893/12	لیلۃ القدر میں عبادت کا طریقہ	6	593/11	قوم لوط پر عذاب کی کیفیت	38
894/12	لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں	7		سورۃ اللہب	22
895/12	لیلۃ القدر میں فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا	8	1027/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
896/12			1028/12	سورۃ اللہب کا شان نزول	2
			1029/12	تبت کا معنی	3
			1033/12	سورۃ اللہب کی تکمیل	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
544/4	مجاہدوں کو مال غنیمت سے زائد انعام دینا	2		م	
639/4	مال غنیمت کی تعریف	3		مال	1
678/4	مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل	4	1002/1	مال کا مذموم یا محمود ہونے کا مدار	1
694/4	بلا اجازت مال غنیمت لینا	5	70/2	مال کے ذکر میں حسن ترتیب	2
	سورۃ المائدہ	3	205/2	مخالف کا مال کھانا	3
27/3	سورۃ کا نام	1	207/2	کافر اقوام کا مال کھانا	4
28/3	سورۃ المائدہ کا زمانہ نزول	2	249/2	پسندیدہ اور محبوب مال کا معیار	5
30/3	سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ میں مناسبت	3	617/4	مال کا فتنہ ہونا	6
30/3	سورۃ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ	4	693/4	مال دنیا کی طمع کی وجہ سے بعض صحابہ پر عتاب	7
382/3	سورۃ المائدہ کا اختتام	5	158/5	مال کا سبب عذاب ہونا	8
	ما شاء اللہ	4	184/7	بقدر ضرورت مال دنیا جمع کرنا	9
109/7	معنی اور اس کے متعلق احادیث	1	108/9	مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنا	10
	سورۃ الماعون	5	193/9	اپنا مال قرابت داروں کو دینے کی فضیلت	11
991/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	633/9	مال کی محض کثرت باعث فخر نہیں	12
	سورۃ الماعون کے کئی یا مدنی ہونے میں	2	599/10	مال و دولت کی تقسیم میں مساوات کی خرابیاں	13
992/12	اختلاف		599/10	مال کی زیادتی کی خرابیاں	14
995/12	الماعون کی تعریف میں بارہ اقوال	3	44/11	مال کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	15
996/12	سورۃ الماعون کی تفسیر کی تکمیل	4	734/11	مال میں کثرت کی طلب مطلقاً مذموم نہیں ہے	16
	مباہلہ	6	945/12	مال کی محبت کے متعلق احادیث	17
189/2	مباہلہ کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1	846/12	مال کی محبت کے اثرات	18
187/2	نصاریٰ نجران کو دعوت مباہلہ	2	857/12	مال میں کثرت طلب کرنا کیسا؟	19
	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا	7	286/12	مال دنیا کا خرابیاں	20
103/12	حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی سوانح	1		مال غنیمت	2
103/12	ماہور پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی تہمت	2	543/4	مال غنیمت کے استحقاق میں صحابہ کا اختلاف	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
761/9	ظلمت کا اصل اور نور کا عارض ہونا	2		مباشرت	8
762/9	زمان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت	3	629/2	لوٹڈیوں سے بغیر نکاح کے مباشرت کرنا	1
528/10	آفاق اور نفس کی نشانیوں کا تجزیہ	4		مایوس ہونا	9
	لوگوں کو ان کے صحائف اور اعمال کی طرف بلانا	5	99/6	یسس کا ترجمہ	1
821/10				اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوسی کی ممانعت	2
	مٹی	13	282/10		
150/10	مٹی کا آگ سے افضل ہونا	1		متقی	10
	مجرم	14	294/6 405/6	متقین کی تحقیق	1
492/3	مجرموں کے طریقہ کو بیان کرنے کی حکمت	1		متقین کے لیے غیر مترقبہ نعمتوں کے علاوہ	2
226/6	مجرموں کے اخروی احوال	2	336/11	خصوصی مزید انعام	
801/9	مجرموں کا دوسروں سے الگ اور جدا ہونا	3	441/11	متقین کے درجات	3
	کفار کی تمام اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا	4	488/12	متقین کو اجر و ثواب عطا کرنا	4
802/9			489-495 12	متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت و عبادت کو داخل کرنا یا نہ کرنا	5
	مجمع البحرین	15		متقین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلے میں احادیث	6
149/7	مجمع البحرین کا مصداق	1			
150/7	مجمع البحرین کی طرف سفر	2	68/12		
	مجدوب	16		متعہ	11
563/10	مجدوب کی تعریف	1	630-632 2	جو از متعہ پر شیعہ کے دلائل	1
	مجہد	17	633-634 2	حرمت متعہ پر قرآن و حدیث سے دلائل	2
514/11	مجہدین کے ظن کا صحیح ہونا	1	636/2	احادیث شیعہ سے حرمت متعہ	3
	مجلس	18	636/2	بعض مفسرین کا تسامح	4
	امیر اور منتظم کو چاہیے کہ عام لوگوں کو صف اول سے اٹھا کر اصحاب فضل کو بٹھائے	1	855/7	متعہ کرنا کیسا؟	5
784/11				متفرقات	12
785/11	صاحب فضل کا کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا	2	173/6	مستقبل کے مکالمہ کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنا	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ولہال عشرہ سے مراد محرم کے دس دن اور ان کی فضیلت	2.	786/11	اللہ کی کسادگی کرنے کا معنی	3
723/12				مجوسی	19
	سورۃ محمد	25	906/12	مجوس اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں؟	1
122/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1		سورۃ المجادلہ	20
122/11	سورۃ محمد کے متعلق احادیث	2	762/11	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
123/11	سورۃ محمد کے اغراض	3	762/11	سورۃ المجادلہ کے متعلق احادیث	2
180/11	سورۃ کا اختتام	4	763/11	سورۃ المجادلہ کا زمانہ نزول	3
	محبت	26	763/11	سورۃ المجادلہ کے مشمولات	4
119/2	محبت کا معنی	1	796/11	سورۃ المجادلہ کا اختتام	5
119/2	محبت رسول کا معنی	2		مچھلی	21
120/2	اللہ کی محبت کا حصول	3		کڑوے پانی میں لذیذ مچھلی	1
121/2	جن افعال و عبادات سے اللہ محبت کرتا ہے	4	368/6	مچھلی پر گوشت کا اطلاق	2
	عارضی اور فانی محبت، دائمی اور باقی محبت کے مبادی و اسباب	5	369/6	پکی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا	3
687/4			159/7		
688/4	صحابہ کرام کی باہمی محبت کا سبب	6		محسن	22
	باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، قریبی اعزہ، وطن، تجارت اور مال و دولت سے زیادہ اللہ و رسول اللہ ﷺ کا محبوب ہونا	7	121/9	محسنین کا معنی و مصداق	1
102/5				محراب	23
	صحابہ کرام محبت کے اس معیار کا کامل نمونہ تھے	8	257/7	محراب کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
103/5			257/7	امام کا محراب میں کھڑا ہونا	2
	اللہ اور رسول ﷺ کے مخالفوں سے محبت نہ کرنے والوں پر انعامات	9	610/9	محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق	3
795/11			612/9	محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	4
827/11	صحابہ اور اخیار تابعین سے محبت کا وجوب	10		محرم الحرام	24
	سیدنا محمد عربی ﷺ	27	721/12	الفجر سے مراد ماہ محرم کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث	1

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
1	حضور ﷺ کی نبوت پر دلیل	314,453 457/1	17	روم اور فارس کی فتح کی پیش گوئی	100/2
2	حضور ﷺ کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا	358/1	18	محمد عربی ﷺ کے نبی ہونے پر اعتراضات کے جوابات	100/2
3	حضور ﷺ کی رسالت کی پتھروں، درختوں اور جانوروں کا گواہی دینا	431/1	19	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر دلیل	158/2
4	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنا	475-480 1	20	آپ ﷺ کا علم غیب	158/2
5	حضور ﷺ سے سوالات کی ممانعت	486/1	21	تمام نبیوں کا آپ ﷺ پر ایمان لانا	229/2
6	حضور ﷺ کا درگزر کرنا	492/1	22	آپ ﷺ کی نبوت کا عام ہونا	230/2
7	حضور ﷺ کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا	448/1	23	زمینوں، آسمانوں اور تمام مخلوق کا آپ ﷺ کی اطاعت کرنا	232/2
8	حضور ﷺ کے والدین کریمین کا ایمان والا ہونا	514/1	24	آپ ﷺ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا	355/2
9	بعض آیات میں بظاہر حضور ﷺ سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب	518/1	25	بعض کافروں پر لعنت کرنا آپ ﷺ کی رحمت کے خلاف نہیں	356/2
10	حضور ﷺ پر تمام امتوں کے افعال و احوال کا پیش کیا جانا	571/1	26	علم رسالت پر اعتراض کا جواب	364/2
11	حضور ﷺ کے تبرکات سے استفادہ و حصول شفاء	884/1	27	رسول اللہ ﷺ کی اطاعت، مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے	368/2
12	حضور ﷺ کی رسالت پر دلیل	892/1	28	رسول اللہ ﷺ کی وفات و نماز جنازہ	289/2
13	بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے آپ ﷺ کو تسلی	895/1	29	رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کے بعد مسلمانوں کا سوجانا	405/2
14	حضور کا افضل الرسل ہونا	896-909 1	30	آپ ﷺ نوع انسان اور بشر سے مبعوث ہوئے	451/2
15	دیگر انبیاء کے معجزات پر آپ ﷺ کے معجزات کا افضل ہونا	921/1	31	تلاوت، تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم	453/2
16	حضور ﷺ کا اپنے آپ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینے سے منع کرنا	923/1	32	آپ ﷺ سے اللہ کی محبت	474/2
			33	آپ ﷺ کو تسلی دینا	498/2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
622/3	آپ علیہ السلام کی نبوت پر کفار کا شبہ	53		حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گمشدہ ہار کے متعلق	34
623/3	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی	54	680/2	حضور ﷺ کا علم	
	رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاملہ اللہ کے	55	733/2	آپ ﷺ کا سب سے زیادہ شجاع ہونا	35
624/3	ساتھ معاملہ ہے		790/2	آپ ﷺ کا فیصلہ کرنے کا طریقہ	36
632/3	حضور ﷺ کی نبوت کی دلیلیں	56	791/2	آپ ﷺ کو کفار کی حمایت سے منع کرنا	37
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اول المسلمین	57		طعمہ کے معاملہ میں آپ ﷺ کو استغفار	38
702/3	ہونا		792/2	کا حکم	
	حضور ﷺ کے تمام آباء کا اپنے زمانے	58	795/2	حضور ﷺ کو ماکان و مایکون کا علم	39
559/3	کے تمام لوگوں سے افضل ہونا		799/2	آپ ﷺ کا معصوم ہونا	40
	آپ ﷺ سے سوال کرنے کی ممانعت کی	59	880/2	ہمارے نبی ﷺ کا اللہ سے ہم کلام ہونا	41
332/3	وجوہات		881/2	رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانا	42
	آپ ﷺ سے کیے ہوئے سوالات کے متعلق	60	884/2	آپ ﷺ کی دعوت پر دلیل	43
335/3	احادیث		890/2	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا برہان ہونا	44
336/3	مشکل سوالات اور بھارت ڈالنا	61		نبی کریم کو منع کرنا دراصل امت کیلئے تعریض	45
337/3	سوالات کے جائز و ناجائز مواقع	62	487/3	ہے	
	کثرت سوالات اور مطالبات کی وجہ سے	63	487/3	حضور ﷺ کی عصمت پر اعتراض کا جواب	46
337/3	سابقہ امتوں کا ہلاک ہونا			امت کے اختلاف سے نجات کے لیے دعا	47
401/3	محمد عربی ﷺ پر طعن اور استہزاء	64	524/3	سے آپ ﷺ کو اللہ کا منع فرماتا	
445/3	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلی کی آیات	65	580/3	نبی ﷺ کا تمام صفات انبیاء کا جامع ہونا	48
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم مثل ہونے	66	585/3	رسول اللہ ﷺ کی قدر شناسی	49
453/3	کا محمل			حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمومی بعثت پر	50
486/3	مسکینوں کا حساب آپ کے ذمہ نہ ہونے کی	67	590/3	یہودیوں کا اعتراض اور اس کا جواب	
	وضاحت		590/3	آخرت پر ایمان حضور پر ایمان کو مستلزم ہے	51
129/4	رسول ﷺ کا ان کی جنس سے ہونا جن کی	68	622/3	رسول اللہ کے ذمہ کیا چیز ہے؟	52
	طرف مبعوث کیے گئے ہیں				

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
457/4	قرآن وحدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم کا عموم	84	حضور علیہ السلام کی حضرت ہود و نوح علیہما السلام سے زیادہ عزت	69
159/5	رسول اللہ ﷺ کی تقسیم پر اعتراض کرنا	85	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت پر دلیل	70
160/5	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کو آپ علیہ السلام کا سزا نہ دینے کی وجہ	86	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن سے دلائل	71
161/5	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کی نسل سے خارجیوں کا پیدا ہونا	87	رسول اللہ ﷺ کے لکھنے پر مودودی کے اعتراضات کے جوابات	72
197/5	حضور ﷺ کے فرمان ”میں صرف ظاہر پر حکم کرتا ہوں“ کی توضیح	88	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لکھنے کے متعلق محدثین کی تحقیق	73
278/5	نبی ﷺ کا توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول کرنے کی توجیہ	89	تورات اور انجیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت	74
302/5	نبی ﷺ کی پانچ صفات	90	امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات	75
305/5	امت پر سخت احکام کا آپ ﷺ پر دشوار ہونا	91	اشیاء کو حلال و حرام کرنا حضور علیہ السلام کا منصب	76
306/5	دنیا و آخرت میں امت کی فلاح پر آپ ﷺ کا حریص ہونا	92	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر	77
307/5 102/6	آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا تسلی دینا	93	رسول اکرم ﷺ کا اصل کائنات ہونا	78
325/5	نبی کریم ﷺ کو ساحر کہنے کا جواب	94	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیامت کے دن لوگوں کو نفع پہنچانا	79
364/5	تورات میں نبی ﷺ کی آمد کی خوشخبری	95	رسول اللہ ﷺ کے حکم پر عمل کا واجب ہونا	80
409/5	رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت پر فرحت و مسرت کا اظہار	96	اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا واحد ہونا	81
108-117 6	قریش کا یہ اعتراض کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے شادیاں کیوں کیں اور اس کے جوابات	97	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے عموم و شمول پر دلائل	82
			رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ اور علم روح وغیرہ	83

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
128/7	نبی ﷺ کا مدد کے لیے مسلمانوں سے اپیل کرنا	114	135-136/6	سیدنا محمد ﷺ کی بعثت کا عموم	98
388/7	نبی اکرم، حضرت ابو بکر و عمر کا ایک ہی مٹی سے مخلوق ہونا	115	137/6	نبی ﷺ کی رسالت نباتات، جمادات اور حیوانات سب کے لیے ہے	99
539/7	حضور ﷺ کی تمام نبیوں اور فرشتوں پر فضیلت	116	138/6	کفار کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آپ ﷺ کی رسالت کو جانتی ہے	100
565/7	رسول اللہ ﷺ کا مرض الموت	117	220/6	کیا نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل سمجھتے تھے؟	101
566/7	نزع روح کے وقت رسول اللہ ﷺ کو سخت تکلیف	118	243/6	کفار کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجنوں کہنا	102
570/7	اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی عیادت و تعزیت	119	244/6	آپ ﷺ کی تائید کے لیے فرشتہ کا نزول	103
571/7	رسول اللہ ﷺ کی وفات سے قبل اور بعد کے احوال	120	304/6	رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی قسم	104
576/7	رسول اللہ ﷺ کی وفات کی تاریخ	121	252/6	رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی ضرورت و اہمیت	105
578/7	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ	122	537/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات کریمہ کے متعلق احادیث	106
582/7	وفات کے بعد رسول اللہ ﷺ کا امت کے اعمال پر مطلع ہونا	123	539-541/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضلات کریمہ کی طہارت	107
587/7 766/7	کفار کے استہزاء پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	124	682/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف عبادت غیر اللہ کی نسبت	108
643/7	حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات	125	705/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حصول تبرک کا جواز	109
898/7	نبی علیہ السلام سے دعا کرانا	126	749/6	اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد فرمانا	110
162/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا عالم میں آشکارا ہونا	127	765/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ثابت قدم رکھنا	111
166/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب سابقہ میں صفات	128	767/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آزمائشوں میں کامیابی	112
			793/6	رسول اللہ ﷺ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت	113

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
				حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کی تاکید	129
692/8	نہی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفت "کن" کے مظاہر	144	191/8	لا تجعلوا دعاء الرسول کے محامل	130
			192/8	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیغام حق نہ سنانے پر کفار کا مال کی پیش کش کرنا	131
324/8	ہمارے نبی ﷺ کی فضیلت	145	215/8	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کفار کا اعتراض کہ آپ تو بازاروں میں چلتے ہیں	132
				آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کفار کا اعتراض کہ آپ کے پاس سونے چاندی کے محلات کیوں نہیں؟	133
336/8	حضور علیہ التحیۃ والتسلیم کے کھانے پینے کے اسرار	146	216/8	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مذاق اڑانا	134
90/9	انبیاء سابقین کے احوال سے حضور ﷺ کو تسلی دینا	147	216-220	رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	135
653/9	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لکھنے اور پڑھنے کا ثبوت	148	8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کا برحق ہونا	136
97/9	ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے مصداق ہیں	149	243/8	دوسرے انبیاء کو مانگنے سے روکنا جبکہ ہمارے نبی کو بے مانگے عطا فرمانا	137
			293/8	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر دلائل	138
			724/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کی وجہ	139
			537/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حالت قیام و ساجدین میں دیکھنے کے محامل	140
100/9	تورات وغیرہ پڑھنے پر حضور ﷺ کا ناراض ہونا	150	347/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قیص اور اس میں بن لگانا	141
			440/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حیوانوں کا باتیں کرنا	142
			451/8	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کفار کی طرف مکاتیب	143
108/9	حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب کی محفل و وسعت	151	817/8		
			459/8		
111/9	نبی ﷺ کے اہل کے پاس ایک سال کا مال ہونے کے باوجود محفل	152			
244/9	نبی ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	153			
275/9	آپ ﷺ کو الحمد للہ کہنے کا حکم دینے کی وجہ	154	476/8		
345/9	حضور ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محامل	155	584/8		
348/9	حضور ﷺ اور کفار کے انتظار کرنے میں فرق	156	632/8		
360/9	حضور ﷺ کو کفار کا پیغام توحید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	157	678/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضور ﷺ کے قلب پر حجاب اور آپ کی	173	360/9	حضور ﷺ کو ڈرنے کا حکم دینے کی توجیہ	158
104/10	توبہ و استغفار کا عمل			حضور ﷺ کی ذات عبادت اور معاملات کا	159
105/10	ایک دن میں سو بار توبہ کرنے کی توجیہ	174	398/9	نمونہ	
108/10	حضور ﷺ کا افضل الرسل ہونا	175		حضور ﷺ کو مجوسیوں، مشرکوں اور یہود و	160
	ہواؤں اور جنات پر تصرف حضور ﷺ کو	176	361/9	نصاری کی مخالفت کرنے کا حکم دینا	
108/10	بھی حاصل ہے			حضور ﷺ کی ذات میں سختیوں اور مشقتوں	161
157/10	حضور ﷺ کا مشقت اٹھا کر پیغام پہنچانا	177	397/9	پر صبر کرنے کا نمونہ	
	حضور ﷺ کو سب سے پہلے اسلام لانے	178		رسول اکرم ﷺ مردوں میں سے کسی کے	162
203/10	کے حکم کی توجیہ		460/9	باپ نہیں ہیں	
	حضور ﷺ کا مکمل جانفشانی سے پیغام حق	179	498/9	رسول اللہ ﷺ کو تقویٰ کا حکم دینے کی توجیہ	163
266/10	سنانا			رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ میں دو ذبیحوں	164
290/10	حضور ﷺ کا خزانوں کا مالک ہونا	180	924/9	کا بیٹا ہوں	
	حضور ﷺ کو تسلی دینا	181	504/9	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	165
342/10	حضور ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت	182	504/9	رسول اللہ ﷺ کا اللہ کی توحید اور ذات و	166
383/10	رسول اللہ ﷺ پر بڑھاپے کے آثار	183		صفات پر شاہد ہونا	
412/10	حضور ﷺ کا شیطان کے دوسروں سے محفوظ	184	505/9	رسول اللہ ﷺ کا دنیا میں امور آخرت پر	167
506/10	رہنا		506/9	شاہد ہونا	
516/10	کفار کی دل آزار باتوں پر حضور ﷺ کو	185	507/9	رسول اللہ ﷺ کا عملا امت پر شاہد ہونا	168
518/10	تسلی دینا			رسول اللہ ﷺ کو سراج کہنے کی توجیہ	169
685/10	رسول اللہ ﷺ کے حرم محترم کا تہمت سے	186	529/9	رسول اللہ ﷺ کو ایذا کس بات سے پہنچی	170
525/10	بری ہونا			تھی؟	
	رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق	187	640/9	رسول اللہ ﷺ کو نبوت عطاء فرمانے میں	171
616/10	ہیں		750/9	تخصیص	
				نبی ﷺ کے لیے غیب اور قدرت کا ثبوت	172

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
188	نزل قرآن سے قبل حضور ﷺ کو اجمالی طور پر قرآن عطا کیا جانا	647-649	203	حضور ﷺ کے شاہد ہونے اور تہذیب و تہذیب کا معنی	238/11
189	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کے متعلق احادیث	686/10	204	حضور ﷺ کے سر منڈانے اور بال کتروانے کے محل	266/11
190	حضور ﷺ کے خلاف سازش کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لینا	729/10	205	حضور ﷺ کو کاہن اور مجنون کہنے کا رد	453/11
191	حضور ﷺ کو جاہلوں کی اتباع سے منع کرنے کا محل	803/10	206	کفار کو حضور ﷺ کی موت کا انتظار کرنے کا حکم	454/11
192	بعض مفسرین کی محبت و ادب رسول ﷺ سے محروم تفسیریں	804/10	207	اللہ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی عزت و وجاہت	810/12
193	حضور ﷺ سے افتراء کی تہمت کا ابطال	47/11	208	دن بہ دن رسول اللہ ﷺ کی عزت و کرامت کا زیادہ ہونا	810/12
194	حضور ﷺ کی نبوت پر کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب	49/11	209	آپ ﷺ کی آخرت کا آپ ﷺ کی دنیا سے افضل ہونا	811/12
195	حضور ﷺ کا شام سفر	90-92 11	210	حضور ﷺ کا فرمان کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا	813/12
196	مشرکین کے ظلم و ستم پر حضور ﷺ کو تسلی	144/11	211	رسول اللہ ﷺ کی دنیا و آخرت میں فضیلت	818/12
197	حضور ﷺ کے ارشادات کو سننے میں منافقین کی کیفیت	146/11	212	آخرت میں رسول اللہ ﷺ کو عزت و کرامت عطا فرمایا جانا	818/12
198	رسول اللہ ﷺ کو بشر کہنے کی تحقیق	915/11	213	رسول اللہ ﷺ کو غنی کرنے کے محال	828/12
199	رسول اللہ ﷺ کی صفات	878/11	214	رسول اللہ ﷺ کو یتیم بنانے کی حکمتیں	829/12
200	رسول اللہ ﷺ کا قیامت تک کے مسلمانوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور ان کے باطن کو صاف کرنا	880/11	215	رسول اللہ ﷺ کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا ہے؟	836/12
201	حضور ﷺ کے ہر فعل میں حسن ہے	785/11	216	رسول اللہ ﷺ کو ملنے والی چند نعمتیں	836/12
202	حضور ﷺ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے	815/11	217	حضور ﷺ پر وزر کے محال	854-856 12

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	کفار کا حضور ﷺ کو لالچ دے کر اور دھمکا کر تبلیغ اسلام سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	236	858-865 12	حضور ﷺ کا ذکر بلند کرنا	218
454/12	آپ ﷺ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنا	237	878/12	حضور ﷺ کا ابتداء نبوت میں غار حرا جانا	219
455-457 12	حضور ﷺ کا احسان رکھنے کی ممانعت	238	879/12	حضور ﷺ کا فرشتہ کو پہچانا	220
366-372 12	حضور ﷺ کو صبر کا حکم دینے کی توجیہ	239	879/12	"ماانا بقاری" کی تحقیق	221
372/12	حضور ﷺ اور کفار کے عنقریب دیکھنے سے مراد	240	970/12	"والعصر" سے حضور ﷺ کا زمانہ مراد ہونا	222
182/12	حضور ﷺ کو مجنون کہنے والا	241	1010/12	رسول اللہ ﷺ کا مقام محبوبیت	223
185/12	حضور ﷺ پر کفار مکہ کا نظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا	242		کفار کی ایذا رسانی پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دینا	224
197/12	حضور ﷺ کے برحق رسول ہونے پر دلیل	243	348/12	رسول اللہ ﷺ کی بعثت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ دینے کی توجیہ	225
215/12	اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں حضور ﷺ کو عجز کے اظہار کا حکم	244	350/12	حضور ﷺ کی قیامت کے دن وجاہت	226
296/12	محمد بن عبد الوہاب نجدی	28	129/12	رسول اللہ ﷺ کو مہلت دینے کے حکم کی توجیہ	227
61/3	محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تکفیر	1	678/12	رسول اللہ ﷺ کا درجہ بدرجہ ترقی کرنا	228
	محکم	29	641/12	رسول اللہ ﷺ کا تمام فرشتوں سے افضل ہونا	229
61/2	محکم کا معنی	1	595/12	حضور ﷺ پر رسول کریم کی صفت کا منطبق ہونا	230
60/2	آیات محکمات	2	597/12	حضور ﷺ پر ذی قوۃ کی صفت کا منطبق ہونا	231
62/2	اصولیین کے نزدیک محکم	3	598/12	حضور ﷺ پر معزز اور وجیہ کی صفت کا منطبق ہونا	232
	مخلوق	30	598/12	حضور ﷺ پر مطاع کی صفت کا منطبق ہونا	233
861/7	مخلوق کی ضروریات و مصلحتوں کی رعایت	1	600/12	حضور ﷺ پر امین کی صفت کا منطبق ہونا	234
179/11	مخلوق کے محتاج ہونے کی وضاحت	2	600/12	حضور ﷺ کا حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا	235
	مدہانت	31			
110/2	مدہانت کی تحقیق	1	602/12		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل مددگار	12	111/2 701/11	مددہنت کا معنی	2
543/10	بتالینا گمراہی ہے		183/12	مددہنت کا لغوی و اصطلاحی معنی	3
115/12	مقبولان بارگاہ عزت سے مدد طلب کرنا	13		مدافعت	32
	سورۃ المدثر	34		اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مدافعت کرنا	1
358/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	1008/12	انبیاء سابقین کا خود اپنی مدافعت کرنا	2
358/12	سورۃ المدثر کے متعلق احادیث	2	1009/12	مدد حاصل کرنا	33
359/12	سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل میں مناسبت	3		استعانت کا معنی	1
360/12	سورۃ المدثر کے مشمولات	4	184/1	اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیق	2
398/12	سورۃ المدثر کا اختتام	5	185/1	علامہ آلوسی، شیخ شوکانی اور نواب بھوپالی کا	3
	مدینہ منورہ	35		انبیاء اور اولیاء سے استمداد کو ناجائز قرار دینا	4
391/9	مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت	1	348/5	علامہ آلوسی وغیرہ کی عبارات پر تبصرہ	4
	منافقوں کے اس قول کے محال اے اہل یثرب واپس جاؤ	2	349/5	وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کے معاملہ میں راہ اعتدال	5
393/9	مدعی نبوت	36	351/5	وصال کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استمداد اور استغاثہ کے جواز کے متعلق احادیث و آثار	6
	دیکھئے "34: جمہولی نبوت کے موجد" صفحہ 109	1		وفات یافتہ بزرگوں سے استمداد کی تکفیر کا بطلان	7
	مذاق	37	378/5	مصائب و مشکلات میں صرف اللہ سے مدد حاصل کرنا افضل ہے	8
297/1	اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ	1		غیر اللہ سے استمداد کا جواز	9
294/11	مذاق اڑانے کی ممانعت	2	380/5	مخلوق سے استمداد کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام سے مواخذہ کی توجیہ	10
361/11	کفار و مشرکین سے استہزاء کی سزا	3	773/5	افضل و اولیٰ یہ ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے	11
	مذہب	38	774/5		
176/1	مذہب کا لغوی و شرعی معنی	1			
	حضرت مریم علیہا السلام	39	775/5		
446/1	مریم کا معنی	1			
153/2	قرآن میں فضیلت	2	66/6		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
768/1	مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	1	154/2	احادیث میں فضیلت	3
768/1	مرتد کو قتل کرنا	2	173/2	حمل کی کیفیت	4
769/1	مرتد کو قتل کرنا	3	264/3	حضرت مریم علیہا السلام کا نبی نہ ہونا	5
770/1	ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونا	4	263/7	حضرت مریم علیہا السلام کا مشرقی جگہ جانا	6
770/1	کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	5	263/7	حضرت جبریل علیہ السلام کا بشر کی صورت میں آنا	7
247/11			264/7	فرشتے سے ہم کلام ہونا نبوت کو مستلزم نہیں	8
239/2	مرتدوں کو ہدایت	6		حضرت مریم علیہا السلام کا بیٹے کی پیدائش پر تعجب فرماتا	9
242/2	مرتدین کے کفر میں زیادتی	7	265/7		
243/2	مرتدین کی توبہ کا قبول نہ ہونا	8	265/7	حضرت مریم علیہا السلام کے حمل کا سبب	10
309/2	مرتدین کا حوض پر وارد ہونا	9	266/7	حضرت مریم علیہا السلام کے حمل کی مدت	11
213/3	عہد رسالت اور بعد کے مرتدین	10	266/7	یوسف نجا کا تعاون	12
584/6	مرتد کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگانا	11	266/7	وضع حمل کے لیے دور جانا	13
	مرتد کو قتل کرنے کا وجوب اور اس کو تین دن کی مہلت دینے پر دلائل	12	267/7	”کاش میں پہلے مرجانی“ کہنا	14
246/11			269/7	حضرت مریم علیہا السلام کو لوگوں کا ملامت کرنا	15
	مردار	41	269/7	یا اخت ہارون کی توجیہات	16
51/3	مردار کا معنی اور اس کی اقسام	1		حضرت مریم علیہا السلام کا جواب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنا	17
	سورۃ مریم	42	270/7		
	سورۃ مریم کی وجہ تسمیہ اور اس کے متعلق احادیث	1	659/7	حضرت مریم و عیسیٰ علیہما السلام کا قصہ	18
243/7			660/7	حضرت مریم علیہا السلام میں روح پھونکنا	19
244/7	سورۃ مریم کا زمانہ نزول	2		حضرت مریم علیہا السلام میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں	20
247/7	سورۃ الکہف اور سورۃ مریم میں مناسبت	3	660/7		
247/7	سورۃ مریم کے مشمولات	4		حضرت مریم علیہا السلام کا جنت میں حضور ﷺ کے نکاح میں ہونا	21
319/7	سورۃ مریم کے اختتامی کلمات و دعا	5	132/12		
	مرغ	43		مرتد	40

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
355/12	سورۃ المزمل کے آخر میں زکوٰۃ کا تذکرہ	6	269/9	مرغ کی بانگ کی فضیلت	1
	مسکین	49		مردوں کو زندہ کرنا	44
443/1	مسکین کے ساتھ حسن سلوک	1	479/6	اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے پر دلیل	1
650/1	مسکین کا معنی	2		مرجہ	45
95/7	مسکین کی فضیلت میں احادیث	3	735/11	مرجہ کا رد	1
993/12	مسکین کو کھانا نہ کھلانے کی وعید	4		سورۃ المرسلات	46
	مسجد	50	470/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب	1	470/12	سورۃ المرسلات کے متعلق احادیث	2
503/1	ائمہ		471/12	سورۃ المرسلات کے مشمولات	3
	کافروں سے مسجد کیلئے چندہ لینے میں مذاہب	2	497/12	سورۃ المرسلات کا اختتام	4
92/5	فقہاء			مزارات	47
	کافروں سے مسجد کے لیے چندہ لینے میں علماء	3	77/7	مزارات پر گنبد بنانا	1
94/5	دیوبند کا نظریہ		749/7	اولیاء کے مزارات کا شعار اللہ میں داخل ہونا	2
	مسجد بنانے کا جواز اور استحقاق کن امور پر	4		اولیاء کے مزارات کو بوسہ دینا، طواف کرنا	3
95/5	موقوف ہے		750/7	اور سجدہ کرنا	
	مسجد بنانے کے انحصار میں ایمان بالرسول	5		اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت اور ان	4
95/5	ذکر نہ کرنے کی توجیہ		255/11	سے حصول فیض	
	مسجد بنانے کے فضائل اور مسجد کے اجرو	6		سورۃ المزمل	48
95/5	ثواب کے متعلق احادیث		333/12	سورۃ کا نام	1
97/5	مسجد کے احکام کے متعلق احادیث	7	333/12	سورۃ المزمل کے مشمولات	2
112-113	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب	8	336/12	المزمل کا معنی و مصداق	3
5	اربعہ کا موقف		356/12	سورۃ المزمل کا اختتام	4
256/5	مسجد ضرار کا پس منظر و پیش منظر	9		سورۃ المزمل میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت	5
258/6	مسجد ضرار میں کھڑے ہونے کی ممانعت	10	351/12	کا اجمالی تذکرہ	

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
384/2	مسلمانوں کا اعلیٰ وغالب ہونا	2		کس مسجد کی بنیاد یوم اول سے تقویٰ پر رکھی گئی؟	11
	فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا	3	259/5		
470/2			260/5	مسجد نبوی کے فضائل	12
	مسلمان بھائی کی کامیابی پر زیادہ خوش ہونا	4	261/5	مسجد قبا کے فضائل	13
471/2	چاپے			مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے فضائل	14
528/2	مسلمانوں کے لیے دنیا میں تہکدستی	5	205/6		
830/2	مسلمانوں سے غلبہ کا وعدہ	6		مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کے متعلق فقہاء کے نظریات	15
484/3	مسلمانوں کو ڈرانے کا عمل	7	206/6		
485/3	مسکین مسلمانوں کو مجلس سے اٹھانا	8	729/7	مسجد حرام سے روکنے والوں کی مذمت	16
702/3	اول المسلمین کون؟	9	143/8	مساجد کی تعمیر و آداب اور ان میں ذکر	17
706/3	مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کے محامل	10	697/11	جنسی اوزر حائض کا مسجد میں داخل ہونا	18
706/3	مسلمانوں کی آزمائش	11	289/12	مسجد میں ادا کی جانے والی عبادات و اطاعات	19
707/3	مسلمانوں کے گناہوں پر مواخذہ	12	292/12	مسجد میں برے کام کرنے کی مذمت	20
188/4	مسلمانوں کی مثال	13	293/12	مسجد میں نیک کام کرنے کی فضیلت	21
	رنج و راحت کے نزول میں مسلمانوں کے احوال	14		مسح	51
232/4			886/2	ابہت مسح کا بطلان	1
	اللہ نیک مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے بدکاروں کی نہیں	15	62/2	تشابہ کا معنی	2
596/4			62/2	اصولیین کے نزدیک تشابہ	3
	مسلمانوں کے حق میں کیا چیز حیات آفریں ہے	16	60/2 64/2	آیات تشابہات	4
602/4			161/2	مسح کا معنی	5
650/4	مسلمانوں کے زوال کا سبب	17	190/2	الوہیت مسح کے ابطال پر ایک مناظرہ	6
	کفار سے معاہدہ کی وجہ سے دارالحرب کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنا	18	362/3	حیات مسح اور ان کا زمین پر نزول	7
710/4				مسلمان	52
716/4	مسلمانوں کی دارالکفر میں سکونت کا حکم	19			
155/5	مسلمانوں کی دو حالتوں کا بیان	20	193/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
369/9	لباس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لاگو ہوگا	3	761/5	مسلمان کی تکفیر و عدم تکفیر کے متعلق مذاہب ائمہ	21
369/9	بد عقیدگی، بدعات اور بد اعمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر، گمراہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا	4	341/5	ابتداء میں تمام لوگوں کے مسلمان ہونے پر احادیث و آثار	22
			494/5	مسلمانوں کی دنیا میں بد حالی	23
	مشرق	54	90/6	دنیا میں مسلمانوں کی پس ماندگی و تنگی کی وجوہ	24
239/12	مشارق کی توجیہ	1	103/6	مسلمانوں اور کافروں کے مصائب کا فرق	25
	مشرك	55	324/6	گناہگار مسلمانوں سے قیامت کے دن سوال	26
512/1	مشركین کے فرمائشی معجزات و مطالبات پورا نہ کرنے کی وجہ	1	590/7	مسلمانوں پر زمین کے گناہوں کا کم ہونا	27
802/2	مشركین کے بتوں کا مؤنث ہونا	2	920/7	نیک مسلمانوں کو اچھی جزاء	28
420/3	روز قیامت مشركین کی ناکامی و ناکامی	3	168/8	مسلمانوں کی تنگدستی کے بعد خوشحالی	29
610/3	مشركین کے فرتے	4		امیر کافروں کی خوشنودی کے لیے غریب مسلمانوں کو اٹھانا	30
666/3	مشركین کے خود ساختہ احکام کا رد	5	375/8		
667/3	خود ساختہ شریعت سازی کا رد	6	735/8	مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سینہ صاف رکھیں	31
686/3	بہنیوں کو قتل کرنے کی شقاوت	7	826-836	مسلمین کا لفظ ہمارے نبی ﷺ کے قبضین کے ساتھ خاص ہے	32
49/5	کن مشركوں کو چار ماہ کی مہلت دی گئی	8	8		
70/5	مشركین کو دارالاسلام میں آنے کی اجازت دینا	9	722/10	مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتیں	33
74/5	معاہدہ حدیبیہ کی پابندی اور خلاف ورزی کرنے والے	10	114/12	نیک مسلمانوں کے مصداق	34
273/5	مشركین کے لیے مغفرت کی دعا کی توجیہات	11	115/12	اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد مسلمانوں کی مدد کا ذکر کرنے کی ضرورت	35
338/5	مشركین کا قرآن کو بدلنے کا مطالبہ	12		مشابہت	53
410/5	مشركین کی خود ساختہ شریعت کی مذمت	13	362/9	کفار اور فساق کی مشابہت کے حکم کی تحقیق	1
46/6	مشركین کا یہ کہنا کہ حضور ﷺ پر کوئی معجزہ نازل نہیں کیا گیا	14	363-369	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں مختلف علماء کی تحقیق	2
			9		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
15	مشرکین کے فرمائی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ	46/6	35	مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے محامل	666/9
16	مشرکین کے خود ساختہ شرکاء کا رد	102/6	36	مشرکین کے اعذار کا قبول نہ ہونا	382/10
17	جن مذاق اڑانے والے مشرکوں سے بدلہ لیا گیا	326/6	37	زکوٰۃ نہ دینے پر مشرکین کی مذمت کی توجیہ	438/10
18	اللہ کیلئے عہد مقرر کرنے پر مشرکین کو جزو توبیح	466/6	38	مشرکین کے کفر کی تفصیل	442/10
19	مشرکین کی اوندھی عقل	520/6	39	مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول	472/10
20	مشرکین کا افتراء	577/6	40	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ	562/10
21	مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ	578/6	41	سید مودودی کے نزدیک مشرک کی تعریف	670/11
22	حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات سے مشرکین کے خلاف استدلال	594/6	42	مخلوق کو سمیع و بصیر، فاعل مختار اور قادر کہنے کا جواز اور ان کا شرک نہ ہونا	670/11
23	مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب	667/7	43	سید مودودی کی تعریف سے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی مشرک ہونا	671/11
24	مشرکین کا آخرت میں بہرا ہونا	668/7	44	مشرک کی صحیح تعریف	674/11
25	مشرکین سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا	697/7	45	شرک کرنے والوں کے متعدد گروہ	674/11
26	مشرکین کے تکبر کی وجوہ	885/7	46	اسناد مجاز عقلی کی تعریف وغیرہ	675/11
27	مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجوہ	889/7	47	اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت نہ کرنے پر مشرکین کو ملامت	458/11
28	مشرکین کو تنبیہ	586/8	48	مشرکین کے ظن کا باطل ہونا	514/11
29	مشرکین کے شبہات کے جوابات	819/8	49	مشرکین کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی وضاحت	515/11
30	مشرکین کے مددگار بننے کی ممانعت کے محمل	864/8	50	مشرکین پر اللہ تعالیٰ کی حجت کی تقریر	529/11
31	مشرکین کا رد	61/9	51	مشرکین کا نبی علیہ السلام سے متنفر ہونا اور اعراض کرنا	396/12
32	مشرکین کی ناشکری اور ان کا ظلم	117/9	52	مشرکین کے اس زعم کا رد کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا	238/12
33	مشرک اور موحد میں بہتر کون؟	623/9			
34	فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کا رد	635/9			

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	نمبر شمار
224/2	حکم ربانیین	22		53
499/2	بینات + زبر + کتاب منیر	23	239/12	آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لایا یا نہیں؟
536/2	مرابطہ	24		56
566/2	نحلہ	25	436/1	اُمی اور اُمیۃ
694/2	جبت + طاغوت	26	557/1	حَنِيفٌ
63/2	زائفین	27	882/1	سَكِينَةٌ
614/2	قنطار	28	629/1	سُوءٌ
756/2	دیت	29	938/1	طَاغُوتٌ
34/3	بہیمۃ الانعام	30	629/1	مُحْشَاءٌ
53/3	وما اهل لغير الله به	31	416/1	عَهْدُوْا مِيْثَاقَ
54/3	المنخنة	32	875/1	قَبْضٌ
55/3	الموقودة	33	875/1	بَسَطٌ
55/3	المرتدية	34	752/1	بَيِّنَاتٌ
56/3	النطيحة	35	630/1	نَعَقٌ
146/3	ارض مقدسه كاصداق	36	437/1	وَيَلٌ
147/3	جبارين كايان	37	184/1	اسْتِعَانَتْ
194/3	سحت	38	397/1	اَلٌ
257/3	فتنه	39	511/1	كُنْ فَيَكُوْنُ
338/3	البحيره + السائبه	40	551/1	مِلَتْ
339/3	الوصيله + الحامى	41	560/1	صِبْغَةُ اللّٰهِ
398/3	قرون	42	630/1	عَنْبَرَدٌ
537/3	بسل	43	800/1	قُرْءٌ
604/3	مستقر + مستودع	44	219/2	لِيَّ
629/3	وحى + زخرف القول + غرور	45	222/2	بِشْرٌ

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
338/5	لنظير	69	632/3	لتصفي	46
388/5	تميمه + توله	70	701/3	نسك	47
485/5	يوكيل	71	35/4	المص	48
497/5	تهديد + تبشير	72	52/4	معاش	49
499/5	مستقر + مستودع	73	131/4	مختار كل	50
533/5	جدال	74	135/4	ضعف	51
580/5	الخزي	75	345/4	شمانت	52
591/5	ياويلتي	76	376/4	الطيبات + الخباث	53
603/5	سجيل	77	406/4	خلف + خلف	54
608/5	بقية الله	78	436/4	تفكر	55
629/5	سعاد + شقاوت	79	547/4	وجل	56
629/5	زفير + شهيق	80	638/4	نقل + تنفيل + سلب	57
740/5	السوء + الفحشاء + المخلصين	81	121/5	اخبار + رهبان	58
42/6	صنوان + صنو	82	127/5	كنز	59
43/6	تعجب + اغلال	83	235/5	الدوائر + دائرة السوء	60
96/6	طوبى	84	235/5	قربات + صلوات	61
118/6	محو + اثبات	85	266/5	التائبون	62
133/6	العزير الحميد	86	267/5	العابدون + الحامدون	63
165/6	جبار + عنيد	87	268/5	السانحون + الراكعون + الساجدون	64
166/6	وراء	88		الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر	65
170/6	برزوا	89	269/5		
261/6	رواسي	90	270/5	الحافظون لحدود الله	66
261/6	موزون	91	275/5	اواه	67
269/6	صلصال + الحماء + مسنون	92	324/5	قدم صدق	68

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
93	الجان + نار السموم	272/6	117	غی	301/7
94	متوسمین	304/6	118	لد + رکز	319/7
95	عضین	324/6	119	المنکر + یسطون	799/7
96	اصدع	326/6	120	سر + اخفی	339/7
97	مواخر	376/6	121	یوم الزینت	391/7
98	طاغوت	413/6	122	نسف	435/7
99	مفرطون	477/6	123	العوج + امت	436/7
100	حفدة	518/6	124	تلك الغرائق	778-786 7
101	الحاد + عجم	576/6	125	فرقان	597/7
102	قضی	685/6	126	فظن ان لن نقدر علیہ کی تفسیر	656/7
103	اوابین	695/6	127	الفزع الاکبر	669/7
104	قفا	712/6	128	السجل	670/7
105	تصریف + تذکر	721/6	129	غمره	882/7
106	دلوك	769/6	130	مرید + صادر	709/7
107	مسحور + بصائر + استفزاز + لفیف	810/6	131	تفت	739/7
108	فتیة	62/7	132	منسك + مخبتین	755/7
109	سراد قها	101/7	133	القانع + المعتر	758/7
110	الہشیم	114/7	134	الصوامع + البیع + صلوات	764/7
111	الباقيات الصالحات	115/7 311/7	135	نکوص + سمر + ہجر	885/7
112	موبق	135/7	136	ازر	368/7
113	حقبا	149/7	137	ایامی	131/8
114	منسك	796/7	138	سراب + البقیعہ	146/8
115	سرب	152/7	139	تغیظ + زلیز	220/8
116	تاویل	184/7	140	بوراً	224/8

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
606/9	اوبی	165	231/8 253/8	حجر امحجور + مرج	141
882/9	غول بیابان	166	232/8	ہباء منثورا	142
612/9	جفان + الجواب + قدور + راسیات	167	236/8	مہجور	143
624/9	فجاج + علیم	168	241/8	الرس	144
625/9	کافۃ	169	268/8	غراماً + اسراف	145
630/9	اسروا	170	269/8	التار	146
631/9	مترفین	171	305/8 575/8	ثعبان + حیة + جان	147
643/9	تناوش	172	364/8	صدیق + حمیم	148
813/9	جبل	173	512/8	الاک + الیم	149
693/9	نذیر	174	629/8	طیر	150
716/9	العزیز + الرحیم	175	689/8	عفریت	151
718/9	غفلت	176	782/8	اشد + استوی	152
719/9	مقمحون	177	860/8	علو + فساد	153
729/9	امام مبین	178	317/8	صلیب	154
730/9	ماکان ومایکون	179	872/9	زجرۃ	155
759/9	سبحان + تسبیح	180	190/9	مُنِیبٌ	156
761/9	سلخ	181	267/9	لاتصمر	157
794/9	شغل + فاکھون	182	890/9	شجرۃ الزقوم	158
820/9	طمس + مسخ	183	323/9	ضَلَّالٌ	159
905/9	یمین + یزفون	184	334/9	لتجالی + مضاجع	160
40/10	خَلَقَ + خُلِقَ + اختلاق	185	378/9	السط + خطاء + مغفرت + رحمت	161
49/10	فواق	186	459/9	قدرًا مقدورًا	162
51/10	قط	187	576/9	وجہ	163
131/10	من شکله ازواج	188	851/9	ملکوت	164

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
793/11	استحوذ	213	207/10	طاغوت	189
805/11	اول حشر	214	281/10 601/10	قنوط	190
807/11	الجلء	215	289/10	مقاليد	191
815/11	دولة	216	338/10	الازفة + كاظمين	192
826/11	الشح	217	465/10	صاعقة	193
835/11	الملك + القلوس + السلام + المؤمن + العزیز + الجبار	218	471/10 362/10	قيض لاجرم	194 195
835/11	المتكبر + الخالق + الباري + المصور	219	363/10	تفويض	196
738/11	البيئات	220	577/10	حرت	197
652/11	رجت + بست + هباء منبثا + السابقون	221	603/10 563/10	ولى حميد اجتباء	198 199
652/11	اصحاب اليمين + اصحاب المشمة	222	571/10	داخضة	200
655/11	سبقت	223	589/10	اقترات + شكر	201
655/11	ثلة	224	601/10	غيث	202
656/11	موضونة	225	674/10	اهدى	203
657/11	ولدان + غلمان	226	672/10	مستمسكون	204
658/11	اكواب + اباريق + كاس + معين	227	805/10	بصيرت	205
379/11	حطام + تفكهون + مفرمون + محرومون	228	718/10 793/10	خليل ويل + اصرار	206 207
380/11	مقوين	229	807/10	جرح + اجتراح	208
682/11	مواقع النجوم	230	43/11	اثارة	209
703/11	روح + ريحان	231	139/11	تعالهم	210
605/11	انسان + بيان	232	157/11	ان توليتم	211
606/11	النجم	233	776/11	يحادون	212

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
402/11	معین + ذنوب	257	607/11	طہان	234
410/11	رقی	258		الانام + الاکمام + الحب + العصف +	235
435/11	البيت المعمور	259	609/11	الريحان	
437/11	البحر المسجود	260	609/11	آلاء	236
453/11	رب المنون	261	622/11	شواظ + نحاس	237
454/11	احلام	262	623/11	وردة + دهان	238
456/11	تقول	263	632/11	ذوات الافان	239
459/11	المسيطر	264	642/11	مقصورات	240
480/11	صاحب	265	642/11	رطوف + عبقری	241
481/11	غوی	266	582/11	مہطمین	242
482/11	ہوی	267	599/11	مقعد صدق	243
521/11	اللمم	268	239/11	يد الله	244
570/11	أمنی + شعری	269	263/11	حمیت	245
477/11	ضلال	270	316/11	امر مریج	246
753/12	کبد	271	318/11	اصحاب الرس	247
754/12	لبد	272	338/11	نقبوا + لغوب	248
755/12	اقتحم + العقبة	273	335/11	اواب + حفيظ	249
783/12	حسنی	274	353/11	جبر	250
787/12	ترڈی	275	359/11	ذات الحبک	251
784/12	یسری	276	360/11	الخرامون	252
805/12	ضحیٰ + سجدی	277	385/11	اید	253
822-828 12	ضال	278	389/11	الا ليعبدون	254
828/12	عائل	279	399/11	رزق	255
869-871 12	التين + الزيتون	280	401/11	قنوت	256

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
687/12	انكدرت	304	871/12	281 طور سينين
588/12	العشار	305	883/12	282 طغيان
588/12	وحوش	306	907/12	283 حنفاء
589/12	تسجير	307	942/12	284 العاديات صباحا
593/12	الخنس + الكنس	308	943/12	285 الموريات قدحا
602/12	ضنين	309	944/12	286 المغيرات صباحا
577/12	سفرة + كرام	310		287 فائرن به نقعا + فوسطن به جمعا +
550/12	راجفة	311	944/12	الكنود
551/12	حافرة + نخرة	312	946/12	288 بعثر
552/12	زجرة + ساهرة	313	953/12	289 هاروة
555/12	اخرة + اولى	314	969/12	290 العصر
558/12	اغطش	315	976/12	291 الهمزة + اللمزة
559/12	دخها + مرغها	316	977/12	292 الحطمة
560/12	ارساها + طامة	317	106/12	293 مغافير
507/12	اوتاد	318	118/12	294 مسلمات + مؤمنات + قانات وغيرها
508/12	نوم + سبات	319	1054/12	295 خناس
510/12	معاش	320	688/12	296 المرعى
511/12	وهاج + لجاج	321	689/12	297 غشاء + احوى
516/12	مرصاد	322	619/12	298 مطفين
517/12	احقاب	323	626/12	299 سجين
526/12	برد	324	627/12	300 اساطير
527/12	غشاق	325	630/12	301 رحيق مختوم + تسنيم
511/12	التاويلات النجميه	326	612/12	302 ابرار
479/12	ويل	327	586/12	303 كورت

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
652/12	المحدود	352	482/12	شور + قصر + جمالة + صفر	328
636/12	الذنت	353	429/12	هل	329
638/12	كادح	354	431/12	نطفه + امشاج + سبيل	330
639/12	بحور	355	446/12	عبوس + قمطير	331
640/12	شفق + وسق + اساق	356	450/12	سندس + استبرق	332
544/12	ناشاطات	357	449/12	مسبيل	333
548/12	السابحات + السابقات	358	415/12	ناضرة	334
549/12	المدبرات	359	417/12	باسرة + فافرة	335
373/12	نقر + ناقور	360	418/12	كلا + تراقى + راق	336
342/12	قول ثقيل	361	420/12	اولى لك فاولى	337
347/12	تبخل	362	984/12	ابابيل + سجيل + عصف	338
184/12	عتل + زيم	363	1004/12	كوثر	339
191/12	ساق	364	1006/12	شاني + ابتر	340
195/12	استدراج	365	732/12	مرصاد	341
210-12	عيشة راضية	366	735/12 506/12	كلا	342
229/12	هلوعًا + جزوعًا	367	149/12	سحق	343
232/12	حق معلوم	368	165/12	خلق + خلق	344
240/12	اجداث + خصب	369	737/12	دكا دكا	345
281/12	وحي + نصر + جد	370	666/12	طارق	346
288/12	صعدًا	371	667/12	النجم الثاقب	347
1048/12	نفتت	372	672/12	دافق + صلب + ترائب	348
	مشوره	57	675/12	سرائر + ابتلاء	349
336/1	الله تعالى کی طرف مشوره کی نسبت کا شرعی حکم	1	677/12	قول فصل	350
429/2	مشوره کا معنی	2	651/12	شاهد + مشهود	351

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
276/10	راحت اور مصیبت میں اللہ سے رابطہ رکھنا	14	429/2	مشورہ کے متعلق احادیث	3
605-610	مؤمنوں کے مصائب کا ان کیلئے کفارہ ذنوب ہونا	15	430/2	رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم	4
10			430/2	کس سے مشورہ لیا جائے؟	5
737/11	مصیبت کے وقت مسلمانوں کا طریقہ	16	685/8	مشورہ کی اہمیت	6
865/12	ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں	17	617/10	مشورہ کرنے کے متعلق احادیث	7
	مصارف زکوٰۃ	59		نبی ﷺ میں اور آپ ﷺ کے اصحاب کا	8
169/5	فقیر کا معنی	1	618/10	باہمی مشاورت سے اہم کاموں کو انجام دینا	
170/5	مسکین کا معنی	2		مصیبت	58
170/5	فقیر اور مسکین کے معنی میں مذاہب ائمہ	3	410/2	مصیبت کے متعلق ایک نظریہ	1
171/5	والعالمین علیہا کا معنی اور اس کے شرعی احکام	4	398/2	مصائب میں ثابت قدمی	2
172/5	مؤلفۃ القلوب کی تعریف اور ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ دینا	5	468/3	مصیبتیں اور تکلیفیں بندوں کو اللہ کی طرف راجع کرنے کے لیے نازل ہوتی ہیں	3
174/5	غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ میں حصہ	6	522/3	مصیبت نل جانے کے بعد اللہ کو بھول جانا	4
174/5	غلاموں، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کیلئے تملیک ضروری نہیں	7	571/3	انبیاء پر مصیبتوں کے نازل ہونے کی وجوہات	5
174/5	تمام مصارف زکوٰۃ میں تملیک کے ضروری ہونے پر احناف کے اولہ	8	266/4	اللہ پر ایمان کامل کی وجہ سے مصائب کا آسان ہونا	6
176/5	تملیک کی رکنیت کے دلائل کا تجزیہ	9		نزول مصیبت کے وقت مسلمانوں کی فکر اور عمل کیا ہونا چاہیے	7
177/5	ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ادائیگی زکوٰۃ میں تملیک کارکن نہ ہونا	10	334/5	مصائب کے بعد کفار پر رحم فرمانا	8
178/5	آخری چار مصارف میں تملیک کا اعتبار نہ کرنے کا ثمرہ	11	346/5	مصائب اور شداہد میں صرف اللہ کو پکارنا	9
179/5	زکوٰۃ میں مقروضوں کا حصہ	12	347/5	مصیبت میں گھر جانے کا معنی	10
179/5	زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا حصہ	13	813/5	انسان کا مصائب میں گھر کر اللہ کی طرف رجوع کرنا	11
			366/8	مصیبت زدہ کی دعا کا قبول ہونا	12
			318/8	اہل معرفت پر مصائب کا آسان ہونا	13

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
427/2	معاف کرنے کی فضیلت میں قرآنی آیات	2	180/5	زکوٰۃ میں مسافروں کا حصہ	14
427/2	معاف کرنے کی فضیلت میں احادیث طیبہ	3		کسی ایک صنف کے ایک فرد پر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا جواز	15
354/4	اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے معاف کرنے میں فرق	4	180/5		
	عین حال معصیت میں اللہ تعالیٰ کا معاف فرما دینا	5		مصاہرت	60
45/6			254/8	صہر کا معنی	1
411/7	اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ معاف فرمانا	6	255/8	اصہار کے مصادیق	2
412/7	بار بار گناہ بخشنا	7	255-260 8	نکاح اور زنا سے حرمت مصاہرت	3
626/10	اپنے ماں کے حق اور عزت کے حق کو معاف کرنا	8		مضطر	61
	فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	9	716/8	مضطر کے صدق کے متعلق اقوال	1
175/12			717/8	مضطر کی دعا	2
	رسول اللہ ﷺ کا ہبار بن الاسود کو معاف کر دینا	10	719/8	مضطر کی فریادری	3
178/12				سورۃ المطففین	62
	فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	11	615/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1
176/12				سورۃ المطففین کی سورۃ الانقطار کے ساتھ مناسبت	2
	فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	12	615/12		
176/12			616/12	سورۃ المطففین کے مشمولات	3
	فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحشی کو رسول اللہ ﷺ کا معاف کر دینا	13	632/12	سورۃ المطففین کا اختتام	4
177/12				سورۃ المعارج	63
178/12	منافقوں اور دیہاتیوں سے درگزر کرنا	14			
	معجزہ	65	218/12	سورۃ کا نام	1
447/3	معجزہ نبی کے اختیار میں ہے یا نہیں؟	1	218/12	سورۃ المعارج کے مشمولات	2
626/3	فرمانی معجزہ نہ دکھانے کی وجہ	2	240/12	سورۃ المعارج کا اختتام	3
237/4	تمام نبی حامل معجزہ ہیں	3	223/12	معارج کا لغوی و عرفی معنی	4
	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزہ کا دیگر انبیاء کے معجزات سے امتیاز	4		معاف کرنا	64
237/4			373/2	معاف کرنے کی فضیلت	1

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
5	معجزہ کی تعریفات	238/4	67	معذور	
6	معجزہ کی شرائط	238/4	1	معذورین کی اقسام	224/5
7	افعال غیر عادیہ کی اقسام	239/4	2	جہاد اور نماز میں معذورین کے متعلق احادیث	224/5
8	معجزات، انبیاء کے اختیار میں ہیں یا نہیں	239-243 4	68	معصوم	
9	معجزات کے صدور میں علماء دیوبند کا مؤقف	243/4	1	نبی کے سوا، کسی بشر کا قول خطا سے معصوم نہیں	122/5
10	معجزات کے صدور میں علماء اہل سنت کا مؤقف	244/4	2	ارتکاب معصیت محبت رسول و خدا کے منافی ہے	69/7
11	ہر نبی کا معجزہ اس چیز کی جنس سے ہوتا ہے جس چیز کا اس زمانہ میں جہ چاہو	257/4	3	مصیبت اور بیماری کو بیان کرنا	153-157 7
12	وہ معجزات جو حضور علیہ السلام سے صادر ہوئے اور جو آپ کی ذات مبارکہ میں ہیں	396/4	69	معراج النبی ﷺ	
13	معجزات کا مقدور ہونا	595/4	1	خواب میں معراج ہونا	617-620 6
14	مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ پر کوئی معجزہ نازل نہیں کیا گیا	46/6	2	مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف	622/6
15	مشرکین کے فرمائی معجزات پیش نہ کرنے کی وجوہ	46/6 117/6 748/6 795/6	3	رسول اللہ ﷺ کو بعض نشانیاں دکھانا	626/6
16	آپ ﷺ کو قرآن کا معجزہ کیوں دیا گیا؟	47/6	4	رات کے قلیل حصہ میں معراج	628/6
17	آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چند دیگر معجزات	47/6	5	واقعہ معراج کی تاریخ	629/6
18	معجزات کے مقدور نبی ہونے کی بحث	798/6	6	واقعہ معراج کی ابتداء کی جگہ	629/6
19	معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں	99/9	7	معراج کی احادیث میں تعارض	630/6
20	معجزہ کا دکھانا نبی کے اختیار میں ہے	99/9	8	واقعہ معراج کا مربوط بیان	630/6
21	مشرکین کے فرمائی معجزات عطا نہ کرنے کی وجہ	417/10	9	شب معراج حضور ﷺ نے جو کچھ دیکھا وہ خواب نہ تھا	750/6
66	معرفت		10	دنا فدلی کی ضمیروں کا مرجع	488/11
1	معرفت کے چھوٹے دعویدار	595/3	11	فکان قاب قوسین کا معنی	491-495 11
			12	فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی تفسیر	495/11
			13	شب معراج حضور ﷺ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا قلب کی آنکھوں سے؟	496/11 506-511 11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	مغفرت	74	499/11	سدرۃ المنتہیٰ کی تعریف وغیرہ	14
	ان مسلمانوں کی مغفرت کی صورتیں جن کی نیکیاں گناہوں سے کم یا ان کے برابر ہوں	1	500/11	جنت المآویٰ کی تعریف	15
50/4			500/11	سدرہ کوڈھا پھینے والی اشیاء	16
337-342	مغفرت ذنب کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کرنا (اعتراض و جواب)	2	501/11	شب معراج حضور ﷺ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر دلیل	17
6					
364/8	مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت	3		حضور ﷺ نے شب معراج جن نشانوں کو دیکھا	18
467/8	خطا کاروں کے لیے استغفار	4	502/11		
283/9	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت	5	504/11	دیدار الہی میں حضور ﷺ کی خصوصیات	19
690/9	مغفرت کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہونا	6		معاذ	70
77/11	فساق مؤمنین کی مغفرت پر دلائل	7	861/8	معاذ کے متعلق مختلف اقوال	1
113/11 126/11	ایمان لانے سے سابقہ گناہوں کی مغفرت	8		معاملہ	71
	آپ ﷺ کی مغفرت کے حصول کا سبب کیا ہے؟	9	210/10	معاملات میں صحیح اور احسن افعال	1
201/11			550/10	نزاعی اور اختلافی امور کو اللہ پر چھوڑ دینا	2
203-222	رسول اللہ ﷺ کی طرف مغفرت ذنب کی نسبت کی توجیہات	10		حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ	72
11				حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دعائیہ کلمات	1
225/11	رسول اللہ ﷺ کی مغفرت کلی کے اعلان کا آپ کی عظیم خصوصیت ہونا	11	286/11	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے باوجود اسلام سے خارج نہ ہونا	2
227-230	عشرہ مبشرہ، صاحب یاسین، اصحاب حدیبیہ اور اصحاب بدر کی مغفرت سے رسول اللہ ﷺ کی مغفرت کی خصوصیت پر معارضہ کا جواب	12	284/11		
11				مغضوب	73
			214/1	مغضوب کا معنی	1
	گناہگار مسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزل کا استدلال اور اس کا جواب	13	214/1	مغضوب علیہم کی تفسیر	2
297/12				مغضوب کے معنی بیان کرنے میں علماء کی لغزش	3
	مغرب	75	214/1		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
729-732	مکہ کی زمین اور اس کے مکانوں کو فروخت کرنا اور کرائے پر دینا	12	239/12	مغارب کی توجیہ	1
7				مفتوحہ علاقے	76
734/7	مکہ میں گناہ کا عذاب	13		ان مفتوحہ علاقوں کے محال جہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے	1
761/8	شہر مکہ کی اہمیت و خصوصیت	14	413/9		
104/9	کفار مکہ کے عذاب میں تاخیر کی وجہ	15		مقابلہ	77
306/9	دو اشکالات کے جوابات	16	646/4	دشمن سے مقابلہ کی تمنا کی ممانعت	1
753/9	مکہ کے کافروں کے لیے مقام عبرت	17	647/4	دشمن اسلام کے مقابلہ میں ثابت قدمی	2
47/10	اہل مکہ کو نزول عذاب سے ڈرانا	18		مقتول	78
342/10	کفار مکہ کو دنیا کے عذاب سے ڈرانا	19	711/6	مقتول کے وارث کی قوت کا بیان	1
423/10	کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کی نصیحت	20	711/6	ولی مقتول کا تجاوز نہ کرنا	2
544/10	مکہ کو ام القرئیٰ فرمانے کی توجیہ	21		مقام محمود	79
656/10	کفار مکہ کی شقاوت اور ایذا رسانی	22	775/6	مقام محمود کی تحقیق	1
677/10	کفار مکہ کی بت پرستی کے خلاف اسوۂ ابراہیم علیہ السلام سے استدلال	23		مکہ مکرمہ / اہل مکہ	80
			571/1	مکہ کب سے حرم ہے؟	1
678/10	اہل مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور ان کا کفر و استہزاء	24	265/2	مکہ مکرمہ کو "مکہ" اور "بکہ" کہنا	2
			589/3	مکہ المکرمہ کا ام القرئیٰ ہونا	3
101/11	کفار مکہ کو عبرت دلانے کے لیے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کی قوم کا حال بیان کرنا	25	189/6	اہل مکہ پر نعمتیں اور ان کی ناشکری	4
			189/6	کفار مکہ کا شرک	5
108/11	ان کو عبرت دلانا	26	195/6	مکہ کو امن والا بنانے کی دعا پر اعتراض کا جواب	6
			204/6	مکہ کو حرم قرار دینے کی وجہ	7
360/11	سیدنا محمد ﷺ اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ کے مختلف اقوال	27	242/6	کفار مکہ کو جزو تواریخ	8
			590/6	کفار مکہ پر بھوک اور خوف مسلط کرنا	9
461/11	کفار مکہ کے مطلوبہ معجزات محض ضد بازی اور کٹ حجتی کے لیے تھے	28	795/6	کفار مکہ کی رسول اللہ ﷺ کو پیشکش	10
747/12	مکہ مکرمہ کی فضیلت میں آیات و احادیث	29	528/7	کفار مکہ کو پھیلی قوموں کے عذاب سنانا	11

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
860/11	سورۃ الممتحنہ کا اختتام	3	872/12	شہر مکہ کی قسم کھانے کی توجیہ	30
	منت مانگنا	88	155/12	کفار مکہ کو دنیاوی عذاب سے ڈرانا	31
	دیکھئے "15: نذر" صفحہ 267	1		مکس	81
	منطق	89	125/7	مکس کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
628/8	نطق و منطق کا لغوی و اصطلاحی معنی	1	127/7	مکاس کی مذمت میں احادیث	2
	مناظرہ / مباحثہ	90		مکڑی	82
941/1	مناظرہ و مباحثہ کے آداب و احکام	1	80/9	مکڑی کے گھر کا سب سے کمزور ہونا	1
675/3	مناظرہ کی اصل	2	81/9	غار ثور کے منہ پر مکڑی کا جال بٹانا	2
380/7	مباحثہ میں فریق مخالف پر سختی کرنا	3	82/9	مکڑی کے جالوں کے متعلق احادیث	3
304/8	مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا	4		ملت	83
	اللہ کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق	5	578/1	ملت کا معنی	1
300/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مباحثہ		578/1	ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا	2
	اہل کتاب کے ساتھ بحث کرنے میں سختی اور نرمی کرنے کے محل	6		ملائکہ	84
94/9				دیکھئے "22: فرشتہ" صفحہ 194	1
951/9	جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے	7		مطہ	85
	منافق	91		دیکھئے "71: الحاد" صفحہ 68	1
	منافقوں کا اللہ اور رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دینا	1		سورۃ الملک	86
285/1			134/12	سورۃ کا نام	1
286/1	منافقین کا مرض اور مرض کی تعریف	2	134/12	سورۃ الملک کی فضیلت میں احادیث و آثار	2
292/1	منافقین کا اپنے فساد کو اصلاح کہنے کی وجہ	3	135/12	سورۃ الملک کے مشمولات	3
293/1	عہد رسالت سے آج تک فساد کو اصلاح کہنا	4	159/12	سورۃ الملک کا اختتام	4
298/1	منافقین کے احوال کی امثلہ	5		سورۃ الممتحنہ	87
	عہد رسالت کے بعد منافقین کا وجود یا عدم وجود	6	837/11	سورۃ کا نام اور زمانہ نزول	1
300/1			838/11	سورۃ الممتحنہ کے مشمولات	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	منافقین کو رسول اللہ ﷺ کا نام لے کر مسجد سے نکالنا	26	412/2	منافقوں کی حسرت	7
245/5				حضور ﷺ کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کو	8
292/5	منافقوں کے شک میں پڑنے کی وجوہ	27	713/2	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا	9
301/5	منافقین کی قرآن سے نفرت و بیزاری	28	788/2	منافقوں کا چوری کرنا	10
497/5	منافقین کے سینہ موڑنے کے محال	29	798/2	چوری کرنے والے منافق کا انجام	11
	منافقوں کو عذاب نہ دینے پر ایک اشکال کا	30	829/2 833/2	منافقوں کا فریب دینا	12
408/9	جواب		836/2	منافق کا مذذب ہونا	13
	منافقوں سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	31	155/5	منافقوں کی دو حالتوں کی تفصیل	14
509/9				منافقین کا نبی ﷺ کو ”کان“ کہنا اور اس پر اللہ کا رد کرنا	15
	منافقین کو قتل کرنے اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی؟	32	181/5	نبی ﷺ کو منافقین کا علم عطا فرمایا جانا	16
568/9			183/5	منافقین کی پہلے زمانہ کے کفار سے مشابہت	17
	منافقوں کا حضور ﷺ سے اذیت ناک کلام کرنا	33	188/5	سابقہ قوموں کے عذاب سے منافقوں کو نصیحت فرمانا	18
573/9				منافقوں اور مومنوں میں تقابل	19
172/11	اللہ تعالیٰ کا منافقین کے نفاق کا پردہ چاک فرمانا	34	189/5	منافقوں کا کلمہ کفر	20
173/11	رسول اللہ ﷺ کو منافقین کا علم تمایا نہیں؟	35	190/5	منافقین کو غنی کرنے کی تفصیل	21
900/11	منافقوں کا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا	36	198/5	اللہ سے عہد کر کے اس کو توڑنے والا منافق	22
901/11	منافقوں کا مسلمانوں سے جھگڑا کرنا	37	200/5	غزوہ تبوک کے بعد منافقین کو کسی غزوہ میں شرکت سے ممانعت کی توجیہ	23
902/11	منافقین کا شعار جھوٹ بولنا ہے	38	201/5	منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت کا شان نزول	24
902/11	منافقوں کا اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانا	39		منافقین سے ترک تعلق کا حکم	25
	منافقوں کے ایمان اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی توجیہ	40	216/5	مدینہ سے باہر کے منافقین اور ان سے متعلق اعتراضات کے جوابات	
903/11	منافقوں کو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے شہتیر کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہ	41	217/5		
903/11	منافقوں کا طلب مغفرت سے انکار کرنا	42	231/5		
904/11	منافقین کے کرتوت اور ان کی سزا	43	243/5		
792/11					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
342/8	انبیاء اور اولیاء کے حق میں موت کا نعمت ہونا	11	792/11	منافقین کی مذمت	44
735/8	موت کا قیامت صغریٰ ہونا	12	792/11	دنیا و آخرت میں منافقین کی جھوٹی قسمیں	45
324/9	اللہ تعالیٰ، ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محامل	13	726/11	قیامت کے دن منافقوں کا جنت کے راستہ سے محروم ہونا	46
325/9	کیا ملک الموت تمام مخلوق پر موت طاری کرتے ہیں؟	14	242/11	منافقوں کا براگمان	47
326/9	ملک الموت پر موت آنا	15	243/11	منافقین کا غزوہ خیبر میں شرکت کیلئے اصرار کرنا	48
51/10	موت کی تمنا کی ممانعت	16		سورة المنافقون	92
52/10	اللہ سے ملاقات کے حصول کیلئے موت کی تمنا کا جواز	17	894/11	سورة کا نام اور وجہ تسمیہ	1
223/10	حضور ﷺ اور کفار کی موت کا فرق	18	894/11	سورة المنافقون کا زمانہ نزول	2
224-227 10	حضور ﷺ کی موت قلیل وقت کے لیے ہے	19	895/11	سورة المنافقون کے مشمولات	3
328-331 10	دو موتوں اور دو حیاتوں کی تفسیر	20	908/11	سورة المنافقون کا اختتام	4
768/10	نیک آدمی کی موت پر آسمان وزمین کا رونا	21		موت	93
782/10	موت وجودی یا عدمی؟	22	328/1 139/12	موت کا معنی	1
323/11	موت کی سختیاں	23		مرکب کبیرہ کے بلا توبہ فوت ہونے والے کے لیے دائمی عذاب پر استدلال کا جواب	2
569/11	موت کی مختلف تعبیریں	24	438/1	معصیت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا	3
	حضرت موسیٰ علیہ السلام	94	453/1	حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کرنا	4
410/1	زمین سے پانی نکالنا	1	453/1	وقت سے قبل موت آنا	5
883/1	آل موسیٰ کے باقی ماندہ تہکات	2	873/1	موت کی تمنا کرنا	6
879/2	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا	3	477/2	موت سے مستثنیٰ رہنے والے افراد	7
	حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد عربی ﷺ تک کا زمانہ	4	499/2	موت کی دعا کرنا	8
247/4			868/5	ہر نفس کو موت	9
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پرورش، نکاح، نبوت اور فرعون کو تبلیغ	5	558/7	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی موت کی خبر	10
248/4			558/7		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
6	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات	251/4	24	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کی درخواست کرنا	174/7
7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر	252/4	25	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ	175/7
8	فرعون کے دعویٰ خدائی کا رد	253/4	26	حضرت خضر علیہ السلام کا تعلیم دینے سے احتراز کرنا	176/7
9	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے تین راتیں اور پھر دس راتیں مزید مقرر کرنے کی حکمت	291/4	27	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی	181/7
10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گمراہی	338/4	28	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقرب ہونا	279/7
11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب	338/4	29	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنا	345/7 372/7
12	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے غصہ کی تلافی کرنا	350/4	30	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین روانہ ہونا	345/7
13	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرنا	354/4	31	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ کو دیکھنا	346/7
14	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ	397/4	32	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کو سنتا	347/7
15	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	454/5 616/5	33	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نطین اتارنے کا حکم	348/7
16	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا جادو نہ ہونا	454/5	34	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کرنا	354/7
17	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بعض اولاد کا مصداق	457/5	35	فرعون کی طرف جانے کا حکم	363/7
18	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی دعا کے دو محمل	458/5	36	سانپ سے ڈرنا	361/7
19	فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے ضرر کی توجیہ	460/5	37	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گہرہ	366/7
20	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالنا	869/5	38	وزارت کے لیے بھائی کی تخصیص	367/7
21	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو احکام دیئے گئے تھے یا نو معجزات	809/6	39	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	368, 369/7
22	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف	143/7	40	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کی دریا میں سلامتی	370/7
23	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات	160/7	41	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پہنچانا	370/7
			42	فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت	371/7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
297/8	منصب نبوت عطا فرمانا	62		حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پران کی آنکھیں	43
	سورۃ النمل کے قصص میں سے حضرت موسیٰ	63	371/7	ٹھنڈی کرنے کا احسان	
564/8	علیہ السلام کا پہلا قصہ		372/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات	44
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلی کو گھونسا مار کر	64	373/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں	45
582/8	ہلاک کرنا		373/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں پناہ	46
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے علاوہ دیگر	65	374/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت دینا	47
583/8	معجزات		375/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا جانا	48
774/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی	66	375/7	فرعون کے ساتھ زمی سے کلام کرنا	49
774/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے	67	377/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے خوفزدہ ہونا	50
777/8	میں ارشادات			حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل سے فرعون کا	51
776/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام	68	381/7	پریشان ہونا	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے	69	395/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا غالب آنا	52
778/8	خالی ہونے کے محال			حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رات کے وقت بنی	53
779/8	دوسری عورتوں کا دودھ نہ پینے کی وجوہ	70	405,406	اسرائیل کو لے کر روانہ ہونا	
779/8	اکثر لوگوں کے نہ جاننے کے محال	71	7		
786/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم دینے کا معنی	72	410/7	طور کی دائیں جانب جانا	54
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے فضائل اور	73	415/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجلت کے ساتھ جانا	55
780/8	ان کا جنت میں ہمارے نبی ﷺ کے نکاح		417/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پچھڑے کی	56
	میں ہونا			عبادت کرنا	
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر میں دخول کے	74	293/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی حکمت	57
787/8	وقت لوگوں کا غافل ہونا			حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا زیادہ قوی	58
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول "میں مجرموں	75	293/8	ہوتا	
789/8	کا مددگار نہیں بنوں گا" کی تشریح		294/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا	59
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اسرائیلی کو کھلا	76	296/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذنب کی نسبت	60
790/8	ہوا گمراہ کہنے کی وجہ		296/8 298/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناشکری کا الزام	61

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
352/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے بعض حصہ کا پورا نہ ہونا	92	790/8	اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبار کیوں کہا؟	77
354/10	حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے کافروں میں مماثلت	93	792/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین پہنچنا	78
382/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی دنیا میں نصرت	94	793/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جانا	79
691/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنے کے مقاصد و فوائد	95	799/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جانا	80
765/10	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ماجرہ	96	803/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت	81
866/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی اذیتوں کی تفصیل	97	804/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہنے کی خصوصیت	82
595/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ	98	810/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے	83
382/11	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کی نشانیاں	99	811/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے تسلی دے کر فرعون کی طرف بھیجنا	84
553/12	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ معرکہ کا قصہ	100	812/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانا	85
	مواخذہ	95	309/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو رسیاں اور لائٹھیاں پہلے ڈالنے کا حکم دینا	86
1024/1	دل کے افعال پر مواخذہ	1		حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہونا	87
1027/1	تکلیف مالا یطاق	2	309/8	سمندر پر عصا مارنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات	88
1030/1	خطا، نسیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر مواخذہ	3	324/8	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ	89
1023/1	ہم اور عزم کی تحقیق	4	949/9	حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت آدم علیہ السلام کا	90
1022/1	خواطر قلب کی تکلیف کا منسوخ ہونا	5		مباحثہ	
333/4	فرائض و واجبات کے ترک پر مواخذہ	6	967/9	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اسرار و رموز	91
	موسیٰ	96	345/10		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
571-578 2	مہر کی مقدار میں فقہاء کا اختلاف	7		دیکھئے "1: جانوز" صفحہ 100	1
614/2	مہر کی اکثر مقدار	8		مولوی	97
614/2	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کرنا	9	115/12	مولیٰ کا معنی	1
616/2	خلوت صحیحہ کی وجہ سے کامل مہر کا وجوب	10	116/12	لفظ مولوی کا معنی اور اس کے مواضع استعمال	2
617-619 2	باپ کی منکوحہ سے بیٹا کا نکاح	11		موالات	98
630/2	مہر کا مال ہونا	12		کفار سے موالات کی ممانعت میں قرآن	1
797/8	خدمت اور کسی کام کو مہر قرار دینا	13	843/11	کی آیات	
511/9	خلوت صحیح سے مہر کا واجب ہونا	14		کفار سے موالات صوری اور مجرد معاملہ	2
513/9	خلوت صحیحہ کی تعریف	15	843/11	کرنے کا شرعی حکم	
	بغیر مہر کے محض ہبہ سے کوئی خاتون عام	16	843/11	موالات ہر کافر سے حرام ہے	3
516/9	مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے		843/11 850/11	موالات صوریہ کے احکام	4
515/9	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواج کا مہر	17	844/11	مجرد معاملات کا حکم	5
	مہمان نوازی	100	849/11	موالات کی تقسیم اور اس کے احکام	6
586/5	اسلام میں مہمان نوازی کی حیثیت	1	849/11	میل طبعی کا حکم	7
587/5	مہمان نوازی کے متعلق احادیث	2		حربی غیر معاهد سے موالات کی حالی صورت	8
587/5	مہمان نوازی کے متعلق مذاہب فقہاء	3	851/11	بھی حرام ہے	
588/5	مہمان نوازی کے وجوب کے متعلق احادیث	4	860/11	یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت	9
	مہمان نوازی کے وجوب کے دلائل کے	5		مہر	99
588/5	جوابات		567/2	مہر مقرر کرنا اسلام کی خصوصیت ہے	1
	مؤمن	101	568/2	مہر ادا کرنا یا نہ کرنا	2
937/1	مومنوں کو ظلمات سے نکالنا	1	568/2	رسول اللہ ﷺ کی ازواج کا مہر	3
939/1	مومن کے نور کی مثال	2	569/2	رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں کا مہر	4
625/1	مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج	3	570/2	قرآن اور مہر	5
644/3	مومن کے زندہ ہونے کی مثال	4	570/2	حدیث اور مہر	6

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
682-690 9	ظالم، مقتصد اور سابق کی تفسیر	23	707/4	عہد رسالت میں مؤمنین کی چار قسمیں	5
690/9	آخرت میں مومنوں سے غم دور کرتا	24	551-553	میں یقیناً مومن ہوں یا میں انشاء اللہ مومن ہوں کہنا	6
881/9	مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں	25	4		7
886/9	مومن کا اپنے واقف کافر کو دوزخ میں دیکھنا	26	509/5	مومن کیلئے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا	7
490/10	"میں انشاء اللہ مومن ہوں" یا "میں بالیقین مومن ہوں" کہنا	27	530/5	شریعت میں مومن کی تکریم اور کافر کی تذلیل مطلوب ہے	8
607/10	مومنوں کے مصائب کا ان کیلئے کفارہ ذنوب ہونا	28	77/6	مومنوں کے اخروی احوال	9
906/11	مومنوں کی عزت کا معنی	29	100/6	بعض عصاۃ مؤمنین کا آیات و وعید کے عموم سے مخصوص ہونا	10
872/11	مومنوں کو دین کی مدد کرنے کا حکم دینا	30	179/6	مومن اور کھجور کے درخت میں وجوہ مشابہت	11
833/11	مومنوں کو ہدایت اور تقویٰ کی ترغیب	31	567/6	مومن کی پاکیزہ زندگی	12
725/11	قیامت کے دن مومنوں کے نور کی مختلف مقدار	32	569/6	مومن کی دنیا کی زندگی	13
726/11	قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کا معاملہ	33	803/7	یا ایہا الذین کا خطاب صرف مومنوں کو شامل ہے	14
728/11	ہر مومن کا صدیق اور شہید ہونا	34	883/7	مومنوں کی تحسین کی وجوہ	15
728/11	ہر مومن کے شہید ہونے کی وجوہ	35	551/8	ہدایت و بشارت کو مومنوں کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ	16
665/11	مومنوں کے لیے بشارتیں	36	771/8	مومنوں پر قرآن کو تلاوت کرنے کی تخصیص کی وجہ	17
291/11	مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں	37	823-826 8	کن مؤمنین اہل کتاب کو دو گنا اجر ملے گا؟	18
798/12	مؤمنین صالحین کے لیے بشارت	38	192/9	راحت و مصیبت میں مومن کے احوال	19
790/12	فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت کا موقف	39	235/9	مومنوں کی جزاء کا ذکر	20
872/12	کامل مؤمنین کا ارذل عمر سے محفوظ رہنا	40		مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	21
911-916 12	مؤمنین صالحین کی فرشتوں پر فضیلت	41	379/9	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	22
919/12	مؤمنین صالحین کو جزاء میں داغی جنت عطا کرنا	42	380/9	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر حضور ﷺ کو تصرف کا زیادہ اختیار ہے	22
920/12	مؤمنین صالحین اور مؤمنین تابعین کو ایک سے زائد جنت عطا فرمانا	43			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	میثاق	106	709/12	مؤمنین کا آخرت میں اجر و ثواب	44
410/4	بنو آدم سے میثاق لینا	1		قیامت کے دن مومنوں کا اپنی رب کے دیدار سے شاد کام ہونا	45
411/4	میثاق لینے کا مقام	2	628/12		
412/4	کیا یہ میثاق کسی کو یاد ہے؟	3	583/12	مومنوں کے چہروں کی آخرت میں کیفیات	46
717/11	میثاق کے محال	4		سورۃ المؤمنون	102
	میزان	107	835/7	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور اس کی فضیلت	1
46/4	اعمال کے وزن کے متعلق مذاہب علماء	1	836/7	سورۃ المؤمنون کا زمانہ نزول	2
47/4	قرآن سے میزان کا ثبوت	2	837/7	سورۃ المؤمنون اور سورۃ الحج کی باہمی مناسبت	3
47/4	احادیث و آثار سے میزان کا ثبوت	3	838/7	سورۃ المؤمنون کے اہداف و مقاصد	4
	آیا صرف مسلمانوں کا اعمال کا وزن ہو گا یا کافروں کے اعمال کا بھی؟	4	921/7	سورۃ المؤمنون کی ابتداء و انتہاء میں مناسبت	5
50/4	میزان میں اعمال کا وزن کرنا	5	922/7	اختتامی کلمات	6
591/7	میزان میں وزن کرنے کے متعلق احادیث	6		سورۃ المؤمن	103
592/7	میزان میں وزن کرنے کی حکمتیں	7	311/10	سورۃ کا نام مع وجہ تسمیہ	1
593/7	میزان کے خطرہ سے حقوق العباد کی ادائیگی	8	311/10	المؤمن اور دیگر الحوامیم کے متعلق احادیث	2
594/7	وزن کیے جانے والوں کی تین اقسام	9	312/10	سورۃ المؤمن کی سورۃ الزمر سے مناسبت	3
914/7	موازن کے محال	10	312/10	سورۃ المؤمن کے مشمولات	4
572/10	میزان کا لغوی و شرعی معنی	11	426/10	سورۃ المؤمن کا اختتام	5
607/11	میزان کے متعلق مفسرین کے اقوال	12		میت	104
607/11	وزن صحیح کرنے کے حکم کے تکرار کی توجیہ	13	872/5	دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا	1
608/11	اعمال اور ان کی کیفیات کی وزن پر ایک اشکال کا جواب	14	660/6	گھروالوں کے رونے سے میت کو عذاب	2
952-953 12	کفار اور مؤمنین کے اعمال کے وزن کی کیفیت	15	292/4	میقات	105
	میلا در رسول ﷺ	108	293/4	میقات کا معنی اور کسی کام کی مدت مقرر کرنا	1
				شمسی اور قمری تاریخ مقرر کرنے کا ضابطہ	2

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق احادیث	2	369/3	محفل میلاد ایک بدعت حسنه ہے	1
619/12			67/3	یوم میلاد انبی صلی اللہ علیہم وسلم کا عید ہونا	2
620/12	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ملامت	3		میانہ روی	109
	سورۃ النبأ	4	275/3	عبادات و معاملات میں میانہ روی	1
499/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1	703/6	میانہ روی کے متعلق احادیث	2
499/12	سورۃ المرسلات اور سورۃ النبأ میں مناسبت	2	271/8	اسلام میں میانہ روی کی تاکید	3
500/12	سورۃ النبأ کے مشمولات	3	283/9	معتدل لوگوں کا بیان	4
539/12	سورۃ النبأ کا اختتام	4			
502/12	عم یتساء لون کی لفظی تحقیق	5			
503-505 12	عظیم خبر سے مراد	6			
506/12	کلاس معلمون کو دو بار ذکر کرنے کے فوائد	7	492/4	غلط طریقہ سے نام لینا اور نام بگاڑنے کی مذمت	1
	نبوت / نبی	5	492/4	بچوں کا نام رکھنے کی تحقیق	2
587/1	نبی اور رسول کی تعریف	1	492/4	پسندیدہ اور ناپسندیدہ نام	3
588/1	نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں	2	493/4 131/8	عبدالنبی نام رکھنا	4
589/1	نبی کی شرائط	3		قیامت کے دن انسان کو ماں، باپ میں سے کس کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟	5
589/1	ہر نبی کا پیدائشی نبی ہونا یا نہ ہونا	4	495/4	محمد نام رکھنے کی فضیلت	6
590/1	نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کی تعداد	5	497/4	منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارنے کا حکم	7
701/2	نبوت کا وہی ہونا	6			
719/2	نبی کی تعریف	7	375/9		
879/2	علم نبوت پر اعتراض اور اس کا جواب	8		سورۃ الناس	2
883/2	آپ علیہ السلام کی نبوت پر اللہ کی شہادت	9	1052/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
646/3	حصول نبوت کا معیار	10	1055/12	سورۃ الناس کی تکمیل	2
646/3	حکماء کے نزدیک اتحقاق نبوت کی صلات اور ان کا رد	11		ناپ تول	3
647/3	اہل حق کے نزدیک ثبوت نبوت کا منشاء	12	606/5	ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت	1

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
279/7	نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی	33	647/3	نبی کی صفات لازمہ	13
517/7	بشر ہونا نبوت کے منافی نہیں	34	356/4	نبی کا معنی	14
521/7	آپ ﷺ کی نبوت پر کفار مکہ کے چھ اعتراضات	35	356/4	قرآن و سنت میں نبی پر امی کا اطلاق	15
			364/5, 342/5, 322/5, 339/5, 125/5, 144/5	آپ ﷺ کی نبوت کے صدق پر دلائل	16
818/8	نبیوں اور رسولوں کی تعداد	36	323/5	آپ ﷺ کی نبوت پر مشرکین کا تعجب اور اس کا ازالہ	17
783-786 8	نبی کو نبوت کب ملتی ہے؟	37			
817/8	حضور ﷺ کی نبوت پر دلائل	38	878/5	نبوت کے متعلق مشرکین کے شبہ کا ازالہ	18
356/9	نبی ﷺ کو ندا کرنے کی توجیہ	39	524/5	نبی کے بشر ہونے کی حقیقت	19
357/9	نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی	40	525/5	نبی کی خصوصیات	20
357/9	نبی ﷺ کو نام کے بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنا	41	525/5	قوت باصرہ	21
			526/5	قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ	22
358/9	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے نزدیک نبی ﷺ نام اور صفات دونوں کے ساتھ ندا کرنے کا جواز	42	527/5	قوت لامرہ	23
			527/5	فرشتہ کو نبی نہ بنانے کی وجوہ	24
418/10	نبیوں کی تعداد کی تحقیق	43	767/5	نبی کو شیطان کے بھلانے کی توجیہ	25
420/10	جن نبیوں کا قرآن میں اشارنا اور صراحتاً نام موجود ہے	44	768/5	نبی ﷺ کے نسیان کی تحقیق	26
			768/5	نسیان اور سہو کا فرق	27
590/10	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر ایک اعتراض کا جواب	45	769/5	افعال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا جواز اور اقوال تبلیغیہ میں سہو اور نسیان کا عدم جواز	28
86/11	عالم ارواح میں آپ ﷺ کی نبوت کا معنی	46			
86/11	بعثت سے قلب حضور ﷺ کو اپنی نبوت کا علم	47	158/6	جن خصوصیات کی بناء پر انبیاء نبی بنائے گئے	29
741/11	نبی کا معنی	48	158/6	انبیاء کی نبوت میں کفار کے شبہات	30
456/11	حضور ﷺ کی نبوت کے ثبوت میں ۱۸۰۰۰ سے زائد معجزات ہیں	49	42/7	نبی کا منصب ایمان کا راستہ دکھانا ہے	31
			283/7	نبی کی اتباع تقلید نہیں	32

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	نجاشی	9	842/12	رسول اللہ ﷺ کو بچپن میں نبوت عطا کیا جانا	50
269/3	نجاشی کا قبول اسلام	1	851/12		
269/3	مسلمانوں کا حبشہ ہجرت کرنا	2		رسول اللہ ﷺ کا اعلان نبوت سے قبل ولی ہونا	51
	حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا نجاشی کے دربار میں اسلام کا تعارف کرانا	3	845/12		
270/3			847-851/12	رسول اللہ ﷺ کو عالم ارواح میں نبوت ملنا	52
	نجومی	10	702/12	نبیوں کی تعداد کی تحقیق	53
57/3	غیب کی باتیں دریافت کرنا	1		نجات	6
57/3	ازلام کا معنی	2		نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر	1
60/3	قرآن کی بناء پر مستقبل کے ظنی ادراک	3	317/1		
513/8	کاہن کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	4		نجات کے لیے فقط کسی دین کی طرف منسوب ہونا	2
513/8	کاہنوں کی اقسام	5	415/1		
514/8	نجومیوں سے سوال کی ممانعت	6		نجات از جہنم طلب کرنا	7
	سورۃ النجم	11	414/2	امام رازی کا نظریہ	1
470/11	سورۃ کا نام اور اس کے متعلق احادیث	1	415/2	امام غزالی کا نظریہ	2
472/11	سورۃ النجم کے اہداف و اغراض	2	416/2	مصنف تبیان القرآن کا نظریہ	3
475/11	النجم کے معانی و محال	3	416/2	قرآن مجید کی آیات	4
573/11	سورۃ النجم کا اختتام	4	416/2	احادیث طیبہ	5
	سورۃ النحل	12		دوزخ سے نجات اور جنت کا حصول طلب کرنا اخلاص کی منافی نہیں	6
347/6	سورۃ کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	1	418/2		
347/6	سورۃ النحل کے متعلق احادیث	2		سورۃ النزلت	8
348/6	سورۃ النحل کے مضامین و مقاصد	3	540/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
350/6	سورۃ النحل کی ابتداء عذاب کی وعید سے	4	540/12	سورۃ النزلت اور سورۃ النبأ میں مناسبت	2
607/6	سورۃ النحل کے اختتامی کلمات	5	540/12	سورۃ النزلت کے مشمولات	3
	نخوست	13	565/12	سورۃ النزلت کا اختتام	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
422/1	تسخیر اور تمسخ	10		دیکھئے "24: شکون" صفحہ 155	1
481/1	تسخیر اور ہدایہ کافروں	11		ندائے یارسول اللہ ﷺ	14
483/1	تسخیر اور تخصیص	12	193/8	ندائے یارسول اللہ ﷺ پر اعتراض کے جوابات	1
483/1	تسخیر اور تکفید	13	<u>194-496</u> 8	ندائے یارسول اللہ ﷺ کا ثبوت	2
482/1	خبر کا منسوخ ہونا یا نہ ہونا	14		نذر (منت)	15
484/1	عرف اور تعامل کا بدلنا تسخیر نہیں ہے	15	965/1	نذر کا معنی و اقسام	1
575/6	تسخیر کی وجہ سے کفار کے اعتراض کا جواب	16	966/1	نذر صحیح اور نذر باطل	2
575/6	سنت سے قرآن کا منسوخ نہ ہونا	17	741/7	نذر کے احکام	3
222/11	تسخیر کا لغوی و اصطلاحی معنی	18		نذر کا لغوی و اصطلاحی معنی اس کی شرائط اور	4
	سورۃ النساء	17	740/7	اس کا شرعی حکم	
541/2	زمانہ نزول اور وجہ تسمیہ	1	741/7	نذر کے احکام کے متعلق احادیث	5
541/2	سورۃ النساء کے فضائل	2	865/11	نذر پورا نہ کرنے والوں پر وعید	6
542/2	سورۃ النساء کی سورۃ البقرہ کے ساتھ مناسبت	3	434/12	نذر کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
543/2	سورۃ النساء کے مضامین کا خلاصہ	4	434/12	نذر کے شرعی احکام	8
894/2	سورۃ النساء کے اول و آخر میں مناسبت	5		تسخیر	16
894/2	سورۃ النساء کے اختتامی کلمات اور دعا	6	79/1 504/1	تسخیر کی تحقیق مع لغوی و شرعی معنی	1
	نسیان	18	70/1	تسخیر کے بارے میں مذاہب	2
	شیطان کے لیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نسیان میں مبتلا کرنا ناممکن ہے	1	74/1	تسخیر کے وقوع پر قرآن سے استدلال	3
529/3	انبیاء علیہم السلام کا نسیان	2	74/1	ثبوت تسخیر کے ذرائع	4
530/3	نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سہواً اور نسیان	3	74/1, 484/1	قرآن مجید کی منسوخ آیات	5
531/3	نسیان کا لغوی و اصطلاحی معنی	4	79/1	احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں	6
90/7	رسول اللہ ﷺ کی طرف نسیان کی نسبت	5	80/1	تسخیر القرآن بالان	7
91/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسیان کی نسبت	6	84/1	تسخیر القرآن بالقرآن	8
152/7			85/1	تسخیر القرآن بالان	9

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1026/12	سورۃ النصر کی تفسیر کی تکمیل	4	179/7	بھول کی وجہ سے مواخذہ	7
1019/12	فتح سے مراد فتح مکہ	5	331/9	نسیان کے دو معنی	8
	نصاریٰ	24		نسب	19
873/11	نصاریٰ کے تین فرقے	1	87/6	نیک اعمال کے بغیر نسب کا غیر مفید ہونا	1
	نصیحت	25	153/6	حضرت آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرنا	2
226/5	اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	1	254/8	نسب کا معنی اور اس کی تحقیق	3
226/5	کتاب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی	2	467/8	نسب پر اعتماد کرنا	4
226/5	رسول اللہ ﷺ کے لیے نصیحت کا معنی	3	378/9	خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا	5
226/5	ائمہ مسلمین کے لیے نصیحت کا معنی	4		نسبت	20
227/5	عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کا معنی	5	192/7	حسن اور عیب کی نسبت	1
655/5	حق، نصیحت اور عبرت میں فرق	6		مسلمانوں اور کافروں کے درمیان عددی نسبت	2
	توحید، رسالت اور آخرت کی نصیحت کا باہمی رابطہ	7	709/7		
639/9			339/8	عیب اور حسن کی نسبت	3
972/12	حق اور صبر کی نصیحت کے محامل	8		نشانی	21
695-696 12	رسول اللہ ﷺ کا لوگوں کو نصیحت کرنا	9		سمندر میں رواں دواں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نشانیاں	1
701/12	کوئی نصیحت سابقہ صحیفوں میں مذکور ہے؟	10	610/10		
	نطفہ	26	554/12	سب سے بڑی نشانی کے متعلق متعدد اقوال	2
431/12 423/12	نطفہ کا معنی	1		نصب	22
431/12	نطفہ کے اختلاط میں متعدد اقوال	2	57/3	نصب کا معنی اور اس کا شرعی حکم	1
	نظر لگانا	27		سورۃ النصر	23
814/5	نظر لگانے کے متعلق احادیث	1	1018/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ	1
815/5	نظر بد میں مذاہب اور اس کے متعلق شرعی احکام	2		اذا جاء نصر اللہ سے رسول اللہ ﷺ کی مدت حیات پوری ہونے پر استدلال	2
816/5	نظر بد کی تاثیرات کی تحقیق	3	1019/12		
	نعت	28	1021/12	سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول اللہ ﷺ کا بکثرت حمد اور تسبیح واستغفار کرنا	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
777/9	انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سہولت عطا کرنے کی نعمت	20	84/2	آخرت کی نعمتوں کا دنیوی نعمتوں سے افضل ہونا	1
836/9	اللہ کی نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ	21	560/5	وصول نعمت میں عوام و خواص کا فرق	2
409/10	اللہ تعالیٰ کی انسان پر تین قسم کی نعمتیں	22	568/5	نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ان سے استفادہ کی توفیق عطا کرنا	3
658/10	زمین کے پیدا کرنے میں بندوں کے لیے نعمتیں	23	61/6	نعمت کی ناقدری کرنے والوں سے اللہ کا نعمت واپس لینا	4
797/10	بحری جہازوں کا سمندر میں چلنا اللہ کی کن نعمتوں پر موقوف ہے؟	24	192/6	اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتیں	5
797/10	آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	25	366/6	سورج، چاند اور دن رات کے تواتر میں اللہ کی نعمتیں	6
798/10	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے متعلق احادیث	26	368/6	سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	7
800/10	بنو اسرائیل کو دی گئی نعمتیں	27	381/6 526/6	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عموم	8
138/11	شہداء اور صالحین کے لیے آخرت میں نعمتیں	28	381/6	اللہ تعالیٰ کا کافروں کو بھی نعمتیں عطا کرنا	9
660/11	آخرت کی تمام نعمتوں کا حقیقی سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے	29	566/6	اخروی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے موازنہ	10
614/11	انسان اور جنت کی تخلیق کے اعتبار سے ان پر نعمت	30	892/7	اللہ کی عظیم نعمتیں	11
615/11	دو مشرق اور دو مغرب بنانے میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت	31	223/8	نعمتوں کے بہتات کی وجہ سے کفر و شرک کرنا	12
615/11	دو سمندروں کو ملانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	32	727/8	اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا	13
616/11	موتی اور مونگے نکالنے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	33	645/8	والدین کی نعمتوں کا بھی نعمت ہونا	14
616/11	سطح سمندر پر جہاز چلانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت	34	335/8	کھلانے پلانے کی نعمت میں لپٹی ہوئی بے شمار نعمتیں	15
618-623 11	اللہ رب العزت کی دیگر کئی نعمتیں	35	335/8	اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور پرورش کرنے کی نعمت کا بیان	16
			272/9	ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل	17
			653/9	اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا	18
			774/9	بنیادی ضروریات اور سہولت و عیش کی نعمتیں	19

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
36	اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں	754/12	11	نفس مطمئنہ کا اپنے رب کی طرف لوٹنا اور	741-742
37	رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے	834/12		جنت میں داخل ہونا	12
38	رسول اللہ ﷺ کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا؟	836/12	12	نفس لوامہ کے مصداق میں متعدد اقوال	403/12
39	رسول اللہ ﷺ کو ملنے والی چند نعمتیں	838/12	13	قیامت اور نفس لوامہ کی مناسبت	404/12
40	نعمتوں کے متعلق کس کس سے سوال کیا جائے گا؟	964-966	14	نفس انسان کی تین قسمیں	404/12
		12	15	نفس کی تعریف اور اس کا مصداق	405/12
			30	نفل	
41	زمین کو نرم اور مسخر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں		1	نوافل کی جماعت کا شرعی حکم	373/1
		153/12	2	مسلمان کا کسی مرض کی وجہ سے مقررہ نفل عبادت نہ کر سکتا	792/9
42	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا	159/12	3	تہجد اور رات کے نوافل پڑھنے کی فضیلت اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث	335/9
43	دنیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دینا	700/12			
44	اخروی نعمتوں کا افضل ہونا	701/12	31	نفاق	
45	معاش کا نعمت ہونا	510/12	1	نفاق کی علامات	837/2
29	نفس		2	نفاق کے عذاب سے نجات	839/2
1	نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا	285/3	3	نفاق کا لغوی و اصطلاحی معنی	899/11
2	نفس مطمئنہ و نفس امارہ	791/5	32	نفع و ضرر	
3	نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ	790/6	1	وہابی علماء کا نبی ﷺ کی ذات سے ضرر اور نفع پہچانے کی مطلقاً نفی کرنا	374/5
4	نفس کے تقاضے	192/9	2	آپ ﷺ سے نفع اور ضرر بالذات پہچانے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ مطلقاً	375/5
5	نفس کا معنی	270/10	3	اللہ تعالیٰ کی عطاء سے نبی ﷺ کی نفع رسانی کے متعلق قرآن مجید کی آیات	376/5
6	نفس اور روح کا ایک یا مغاثر ہونا	270-274 10	4	اللہ تعالیٰ کی عطاء سے نبی ﷺ کی نفع رسانی کے متعلق احادیث	377/5
7	ہر نفس کے مکمل حساب کی وضاحت	299/10			
8	نفس مطمئنہ کو نڈا کرنے والوں کے مصداق	739/12			
9	نفس انسان کی اقسام	740/12			
10	نفس مطمئنہ کا مصداق	741/12			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
556/2	قبل از اسلام چار سے زیادہ کی ہوئی بیویاں	12		لوگوں کو نقصان نہ پہچانے اور فساد نہ کرنے کے محال	5
578/2	ٹیلی فون پر نکاح	13	607/5		
578/2	بیویوں کے درمیان عدل	14		نفع رسانی	33
621/2	محرمات نکاح	15		آخرت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اہل بیت و دیگر قرابت داروں کو نفع پہنچانا	1
638/2	غیر سید کا سیدہ فاطمہ سے نکاح	16	364/8		2
638/2	باندیوں سے نکاح	17	465-466	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نفع و ضرر کی نفی کی روایات	2
	شوہر کا بیوی کو خرچ اور طلاق نہ دینے پر عدالت کا اس کا نکاح فسخ کرنا	18	8		34
662/2				نقصان	
663/2	عدالت کے فسخ نکاح پر اعتراض کا جواب	19		زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان برداشت کرنا	1
855/7	بغیر نکاح کے باندیوں سے جنسی عمل کرنا	20	185/7		
131/8	نکاح کا لغوی و اصطلاحی معنی	21	623-626 7	مویشیوں کے کھیت کا نقصان کرنے کی تلافی	2
132/8	نکاح کی فضیلت میں احادیث	22		نکاح	35
134/8	نکاح کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء	23	842/1	بغیر ولی عورت کا کیا ہو نکاح	1
136/8	جو شخص مجرد ہو وہ اپنی پاکیزگی برقرار رکھے	24	853/1	نکاح کی گرہ کا مالک	2
661-662 8	جن اور انسان کا آپس میں نکاح	25	783/1	اہل کتاب سے نکاح	3
	لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو نکاح کی پیشکش کرنا	26	853/1	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت	4
794/8				مشرک عورتوں اور مردوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح	5
796/8	منکوحہ کے تعین کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا	27	782/1		
	بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے	28	548/2	نکاح کی ترغیب و فضیلت	6
796/8			550/2	نکاح کی حکمتیں اور فوائد	7
	حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش کا غیر کفو میں نکاح ہونا	29	552/2	غیر کفو میں نکاح	8
452/9			554/2	کفو میں نکاح کی شرط	9
452/9	نکاح غیر کفو میں مذاہب ائمہ	30	554/2	تعدد ازواج پر اعتراض و جواب	10
453/9	نکاح غیر کفو سے متعلق احادیث	31		چار بیویوں پر اقتصار کی وجہ	11
454/9	غیر ہاشمی اور غیر سید کا ہاشمیہ یا سیدہ سے نکاح	32	556/2		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
551/8	سورۃ النمل کو قرآن اور کتاب مبین فرمانے کی وجہ	4	509/9	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل	33
762/8	سورۃ النمل کا خاتمہ	5	514/9	حضرت ام ہانی کو حضور ﷺ کا نکاح کا پیغام دینا	34
125/2	حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت و خاص ذکر	1	515/9	نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم	35
190/4	حضرت نوح علیہ السلام کا نام و نسب اور تاریخ ولادت	2	515/9	جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی ﷺ سے نکاح کیلئے پیش کیا	36
191/4	حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا اول ارسل ہونا	3	522/9	نکاح سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنے کا جواز	37
192/4	حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ	4	855-859	ہجرت کر کے دارالسلام میں آنے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں مذاہب ائمہ	38
193/4	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب	5	11		
194/4	طوفان نوح اور کشتی کی بعض تفصیل	6		نگاہ	36
194/4	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر	7	127/8	مردوں کو پتلی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث	1
195/4	قصہ نوح علیہ السلام نازل کرنے کے فوائد	8	128/8	عورتوں کو پتلی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث	2
196/4	حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر قوم نوح کا تعجب	9		نماز	37
451/5 523/5	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	10		دیکھئے "19: صلوٰۃ (درود و سلام)" صفحہ 163	1
452/5	حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مقدم کرنے کی وجہ	11		نمرو	38
452/5	حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی ناگواری کی وجہ	12	612/7	نمرو اور اس کی قوم کا عذاب سے ہلاک ہونا	1
452/5	حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین میں کفار کا کوئی خوف تھا نہ ان سے کسی نفع کی توقع تھی	13	547/8	سورۃ النمل	39
453/5	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کا انجام	14	547/8	سورۃ کا نام مع وجہ تسمیہ	1
			547/8	سورۃ النمل اور سورۃ الشعراء کی باہمی مناسبت	2
			547/8	سورۃ النمل کے مضامین و مقاصد	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
555/5	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام رازی کی تقریر	30	523/5	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات	15
556/5	حضرت نوح علیہ السلام کے سوال پر سید مودودی کا تبصرہ	31	530/5	تبلیغ دین پر اجر طلب نہ کرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی نبوت پر استدلال	16
557/5	حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہور مفسرین کی توجیہ	32	530/5	مومنوں کو اپنی مجلس سے نہ نکلنے کی وجوہ	17
618/7 865/7	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	33	533/5	حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات	18
865/7	حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کو پیغام پہنچانا	34		حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی ذات سے اللہ کے خزانے اور علم غیب کی نفی کرنا اور اس کی توجیہ	19
866/7	حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کے اہم نکات	35	532/5	کشتی بنانے کی کیفیت، اس کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت	20
866/7	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنا	36	545/5	کشتی بنانے کا مذاق اڑانے کی وجوہ	21
241/8	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ان کی تکذیب کرنا	37	544/5	حضرت نوح علیہ السلام کا جواب مذاق اڑانے کا محمل	22
370/8	حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل	38	545/5	تور کا معنی اور اس کے مصداق کی تفصیل	23
376/8	حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف دعا کی توجیہ	39	546/5	حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل	24
377/8	قصہ نوح کے بعض اسرار	40	546/5	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کافر ہونے کے باوجود کشتی کی طرف بلانے کی وجہ	25
53/9	حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خاکہ	41	548/5	جو دی پہاڑ پر کشتی کا ٹھہرنا	26
55-60/9	طوفان نوح کس کس جگہ آیا تھا؟	42	551/5	ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصور تھا جنہیں طوفان میں غرق کیا گیا؟	27
896/9	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	43	552/5	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تفصیل	28
897/9	حضرت نوح علیہ السلام کے بعض فضائل اور آپ کی اولاد	44	553/5	مکرمین عصمت کا حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض اور اس کا جواب	29
583/11	حضرت نوح علیہ السلام کو ہمارا بندہ کہنے کی وجہ	45	554/5		
583/11	حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے آپ کو مغلوب فرمانے کی توجیہ	46			
584/11	طوفان اور کشتی کی بناوٹ کی کیفیت	47			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
79-83/7	صالحین کی قبروں کے پاس مسجد بنانا	17	671/2	پڑوسیوں کے ساتھ نیکی	6
110/7	صالحین پر مصائب کا آنا	18	698/2	اخروی نعمتوں کے لیے نیک اعمال	7
	نیکی	49	168/11	نیک اعمال کو آخر عمر تک ملتوی کرنا	8
	تمام مخلوق میں نیکی کی صلاحیت پیدا نہ کرنے کی وجہ	1	170/11	بغیر ایمان کے نیک اعمال کا غیر مفید ہونا	9
150/5			175/11	مسلمانوں کے اعمال ضائع ہونے کی توجیہات	10
291/5	اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چھوٹی بڑی نیکی مقبول ہے	2		نیک لوگ	48
496/5	زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر	3		نیک لوگوں کی وجہ سے گناہ گاروں کے عذاب کا خاتمہ	1
	نیکیوں کے لازماً قبول ہونے کی توقع نہ رکھی جائے	4	890/1		
520/5			444/2	نیکو کاروں کا بدکاروں کی مثل نہ ہونا	2
659/6	پیر و کاروں کی نیکیوں کا ثواب پیر و کاروں کو بھی	5	730/2	بھلائی اللہ کی طرف سے	3
513/7	نیکیاں، موت یا قیامت آنے سے قبل	6		نیک لوگ، اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے مقرب ہیں	4
759/8	نیکی کے اجر کا نیک کام سے افضل ہونا	7	502/4		
	دشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کی بجائے نیکی کرنے کا افضل ہونا	8	574/5	نیکو کاروں کے لیے دنیا کا ظرف ہونا	5
744/9			407/6	نیکو کاروں کے دنیاوی اجر کی متعدد صورتیں	6
503/10	نیکی کے متعلق مفسرین کے اقوال	9	409/6	نیکو کاروں کا آخرت میں اجر و ثواب	7
	مرض اور سفر کی وجہ سے بندہ جو نیکیاں نہ کر سکے وہ بھی لکھی جاتی ہیں	10	409/6	قبض روح کے وقت نیکو کاروں کی کیفیت	8
322/11			676/6	نیکو کاروں کے لیے بشارت	9
323/11	صحیفہ اعمال میں لکھی ہوئی نیکیوں کی برکات	11	373/8	اللہ کے نزدیک عزت والا کون؟	10
	نیکی کا حکم دینا	50	447/12	جنت میں ابراہیم کو ملنے والی نعمتیں	11
	دیکھئے "79: امر بالمعروف ونہی عن المنکر" صفحہ 69	1	448/12	ابراہیم کو دو قسم کی جنتیں ملنا	12
	و		451/12	ابراہیم کا جنت میں کلمات تحسین سے استقبال	13
	والدین (ماں + باپ)	1	524/2	صالحین کے جوار میں دفن ہونا	14
439/1	والدین کی اطاعت پر ثواب	1	719/2	صالح کی تعریف	15
442/1	والدین کی نافرمانی پر عذاب	2	68/7	صالحین کی مجلس کے ثمرات	16

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	والدین کریمین کے ایمان پر امام فخر الدین رازی کے دلائل	5	957/1	اولاد کے مال سے کھانا	3
480/8			140/2	ماں کی اولاد پر ولایت	4
	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ قرطبی کے دلائل	6	670/2	ماں، باپ کے حقوق	5
481/8				اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متصل والدین کی اطاعت کا حکم	6
	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ سہلی کے دلائل	7	686/6	والدین کے اولاد پر احسان کی توجیہ	7
483/8			687/6	ماں باپ کے حقوق	8
	والدین کریمین کے ایمان پر علامہ ابی ماکی کے دلائل	8	688/6	ماں باپ سے نیک سلوک	9
483/8			690/6	ماں باپ کو جھڑکنا اور آف کہنا	10
	والدین کریمین کے ایمان پر حافظ سیوطی کے دلائل	9	691/6	رحم دلی سے بازو جھکانا	11
485-510	آپ علیہ السلام کے والدین کو دوبارہ زندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا وغیرہ	10	691/6	مشرک ماں باپ کے لیے دعا کرنا	12
8			692/6	ماں باپ کی اطاعت و نافرمانی کے ثمرات	13
	وادئ حجر	3	693/6	ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہ	14
310/6	الحجر کا معنی اور مصداق	1	252/9	والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہ	15
310/6	وادئ حجر کے متعلق احادیث	2	254/9	کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا استحسان	16
311/6	وادئ حجر کے متعلق احادیث کے احکام	3	264/9	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت	17
	وادئ حجر اور دیگر ممنوعہ جگہوں میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء کی آراء	4	283/9	ماں باپ کے حقوق	18
311/6			78/11	والدین کریمین (رضی اللہ عنہما)	2
	وادئ طوی	4		سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر استدلال	1
354/7	وادئ طوی کا مصداق	1	222/5	سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے ایمان پر اعتراض کا جواب	2
	واعظ	5		حضور ﷺ کے والدین کریمین کا دوبارہ زندہ ہو کر ایمان لانا	3
423/7	بے عمل واعظ کے متعلق احادیث	1	272/5	والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں احادیث	4
865/11	بے عمل واعظوں پر وعید	2			
	وارث	6	861/5		
814/11	نبی کا وارث نہ بنانے کی حدیث پر شکالات کے جوابات	1	477/8		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
608/3	پہلوں کی ابتدائی حالت اور ان کے پکنے سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	4		کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کا وارث نہ بنانے کی روایت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے	2
670/3	وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ پر دلیل	5	813/11	عہد شکن، خائن اور گنہگار گمان کیا تھا؟	
154/4	اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل	6		سورة الواقعة	7
36/6	سورج و چاند کے احوال اور دنیا کے معاملات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	7	646/11	سورة کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول	1
			646/11	سورة الواقعة کے متعلق احادیث	2
39/6	زمینوں، درختوں اور پہلوں سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	8	647/11	سورة الواقعة کے مشمولات	3
			650/11	سورة الواقعة اور سورة الرحمن کی باہمی مناسبت	4
41/6	زمین کے مختلف طبقات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	9		وجاہت	8
42/6	مختلف ذائقوں سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	10	449/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق قرآن کی آیات	1
525/6	پرنندوں کی پرواز سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	11	450/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق احادیث	2
300/8	اللہ تعالیٰ کے وجود پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مباحثہ	12	452/7	رسول اللہ ﷺ کی وجاہت کے متعلق علماء کی تصریحات	3
762/9	دن اور رات کے توارد میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل	13		وجد	9
610/10 817/10	وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل	14	217/10	قرآن سن کر اظہار وجد کرنا	1
788/10	آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	15	220/10	مترنم آواز اور سازوں کے ساتھ اشعار سن کر اظہار وجد کرنا	2
568/11	اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل	16		وجود باری تعالیٰ	10
	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ	11	601/3	زمین کی نشانوں سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	1
280/10	حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا	1	602/3	آسمان کی نشانوں سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	2
	وحی	12	603/3	انسان کے نفس سے وجود باری تعالیٰ پر دلیل	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
592/2	وراثت کے تفصیلی احکام	8	43/1	وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی	1
593/2	اولاد کے احوال	9	45/1	ضرورت و ثبوت وحی	2
594/2	مرد کو عورت سے دگنا دینے کی وجہ	10	46/1	وحی کی اقسام	3
594/2	والدین کے احوال	11	636/9	انکار وحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا	4
595/2	قرض کو وصیت پر مقدم کرنا	12		حضور ﷺ پر نزول وحی کے متعلق کفار کے شکوک کا ازالہ	5
596/2	حادثہ اعمور کے ضعف کا بیان	13	43/10		6
597/2	زوجین کے احوال	14		حضور ﷺ کو وحی رسالت کیلئے منتخب کرنے کی وجہ	
598/2	کلام کا معنی	15	41/10		
600/2	احکام وراثت کی اطاعت	16	539/10 636/10	وحی کا لغوی و اصطلاحی معنی	7
601/2	احکام وراثت کی نافرمانی	17	540/10	وحی کے متعلق احادیث	8
	ذوی الارحام کی تعریف اور ان کی وراثت کا ثبوت	18	637/10	ضرورت وحی اور ثبوت وحی	9
618/4			639/10	وحی کی اقسام	10
	مہاجرین و انصار کے مابین وراثت کا منسوخ ہونا	19	877/12	وحی کا لغوی و شرعی معنی	11
709/4			877/12	نزول وحی کی صورتیں اور اقسام	12
	دو مختلف ملتوں کے ماننے والوں کے مابین دوستی و وراثت	20	114/12	وحی خفی کا ثبوت	13
712/4				وراثت	13
620/8	وراثت کا لغوی و اصطلاحی معنی	21	892/2	کلام کا معنی	1
	مہاجرین اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی وراثت کا منسوخ ہونا	22	893/2	کلام کے متعلق حدیث جابر	2
382/9			894/2	کلام کی وراثت کے چار احوال	3
	مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا	23		زمانہ جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث نہ بنانا	4
382/9			585/2		
	وزیر / وزارت	14	586/2	تقسیم وراثت میں معیار	5
367/7	وزیر کا معنی اور اس کے متعلق احادیث	1	587/2	ورثاء کے ترکہ کی تقسیم	6
367/7	حضرت موسیٰ کی وزارت کیلئے بھائی کی تخصیص	2		رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں	7
	وسیلہ	15	588/2		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
109/3	وضو توڑنے والے امور	13		دیکھئے ”43: تو سل“ صفحہ 95	1
	وضو میں نیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا	14		وسوسہ	16
909/12	جواب		1054/12	دوسرے کا معنی	1
	وعدہ/ وعید	19		وصیت	17
68/2	خلف وعدہ کا محال ہونا	1	663/1	وصیت کا معنی	1
117/2	وعدہ کا معنی	2	663/1	وصیت کی اقسام	2
	اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کا معنی اور اس کی	3	664/1	وصیت کی شرائط اور کن	3
133/9	خلاف ورزی کی تحقیق		664/1	وصیت کا لزوم	4
	وعدہ	20	665/1	ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا	5
	دیکھئے ”59: عہد“ صفحہ 186	1	665/1	وصیت کے احکام	6
	وکیل	21	346/3	سفر میں وصیت کرنا اور غیر مسلموں کو گواہ بنانا	7
643/6	اللہ کے سوا کسی کو وکیل بنانا	1		وضو	18
71/7	وکیل بنانے کے متعلق قرآن کی آیات	2	93/3	آیت وضو	1
71/7	وکیل بنانے کے متعلق احادیث	3	94/3	آیت وضو کا شان نزول	2
74/7	وکالت کا لغوی و شرعی معنی	4	95/3	آیت وضو کے نزول سے قبل فرضیت وضو	3
74/7	وکالت کے ارکان	5	96/3	شرائع سابقہ اور مکی دور میں وضو	4
75/7	موکل کے اعتبار سے شرائط	6	98/3	وضو کا اجر و ثواب	5
75/7	وکیل کے اعتبار سے شرائط	7	99/3	ایک وضو سے کئی نمازیں	6
	ولایت	22	100/3 104/3	وضو کے فرائض	7
709/4	ولایت کا معنی	1	100/3	سر کے مسح کی مقدار	8
	ولی	23	102/3	بیروں کا دھونا	9
596/1	اولیاء کی جسمانی حیات	1	105/3	وضو کی سنتیں	10
416/5	ولی کا معنی	2	108/3	وضو کے مستجاب	11
	ولی کے مصداق اور ان کے فضائل کے متعلق	3	109/3	وضو کے آداب	12
417/5	احادیث و آثار				

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	ووٹ	26		اللہ کا اپنے محبوب بندے کے کان اور آنکھیں ہونا	4
120/3	نا اہل کو ووٹ دینا	1	418/5		
122/3	طلب منصب کی تحقیق	2	419/5	اللہ تعالیٰ کے تردد کرنے کی توجیہ	5
123/3	موجودہ طریقہ انتخاب	3	420/5	ولی کے فضائل کے متعلق مزید احادیث	6
123/3	امیدوار کے لیے شرائط اہلیت	4	425/5	ولی کی صفات	7
	وہم	27	441/5	ولی کے لیے دنیا میں غم اور خوف کا ثبوت	8
151/8	وہم کی تعریف	1	443-444 5	ولی کے لیے آخرت کا غم اور خوف کی توجیہ	9
	۵/۵		445/5	ولی کے لیے دنیا و آخرت میں بشارت	10
	حضرت ہارون علیہ السلام	1	190/6	اولیاء اللہ سے محبت کا آخرت میں کام آنا	11
293/4	حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانا	1	318/7	اولیائے کرام کی ولایت	12
	حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جانا	2	693/8	ولی اور اس کی کرامت کی تعریفات	13
322/4			740/9	ولی کے مزار کی زیارت کے لیے دور سے آنا	14
425/7	حضرت ہارون علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ	3	749/9	من عادلہ ولیا کی تشریح	15
425/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناراض ہونا	4		اولیاء کا ڈھلتی ہوئی عمر میں ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	16
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سر اور داڑھی کے بال پکڑنا	5	825/9		
426/7			139/10	اولیاء کرام کی وجاہت	17
	حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا سوال	6	236/10	اولیاء کرام کا آن واحد میں متعدد جگہ موجود ہونا	18
294/8					
946/9	حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ	7		ولید بن عقبہ	24
	ہاروت و ماروت	2	280/11	ولید بن عقبہ کا جھوٹی خبر دینا	1
469/1	ہاروت ماروت کی معصیت	1		ولید بن مغیرہ	25
468/1	ہاروت ماروت پر بحر	2	374/12	ولید بن مغیرہ کی مذمت میں آیات	1
	ہجرت / مہاجرین	3	185/12	ولید بن مغیرہ کے قرآن میں دس عیوب	2
748/2	ہجرت کی تعریف و اقسام	1	186/12	ولید بن مغیرہ کی ناک کو سوئے فرمانے کی توجیہ	3

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
419/6	ہجرت کی وجہ سے اسلام کی تقویت	22	749/2	قیامت تک ہجرت کا مشروع ہونا	2
420/6	ہجرت کا لغوی و اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	23	749/2	اصل ہجرت گناہوں کو ترک کرنا ہے	3
423/6	ہجرت منقطع ہونے کے متعلق احادیث	24	750/2	ہجرت کے متعلق اقوال فقہاء	4
425/6	ہجرت باقی رہنے کے متعلق احادیث	25	770/2	فرضیت ہجرت کی آیات	5
425/6	ہجرت کی متعارض احادیث میں تطبیق	26	772/2	ہجرت کا شرعی حکم	6
768/6	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے دستور کے موافق ہے	27	772/2	مدینہ منورہ کی طرف ہجرت	7
106/9	کفار کے ملک سے ہجرت کرنا	28	773/2	دفع ضرر کے لیے ہجرت کی اقسام	8
854/11	مہاجر خواتین سے امتحان لینے کی کیفیت وغیرہ	29	774/2	حصول نفع کے لیے ہجرت کی اقسام	9
	ہدیٰ	4	707/4	مہاجرین اولین کی فضیلت	10
750/7	ہدی کا معنی اور اس پر سواری کرنا	1	712/4	ہجرت کی تعریف اور اس کے متعلق مختلف النوع احادیث	11
751/7	حرم سے باہر ہدی کو ذبح کرنا	2	714/4	ہجرت کے معانی	12
	ہدیٰ	5		ہجرت کے متعلق مختلف النوع احادیث میں تطبیق	13
653/8	ہدیٰ کی سزا کے متعلق اقوال	1	715/4	فتح مکہ کے بعد ہجرت کے منسوخ ہونے کی وجوہات	14
651/8	ہدیٰ کی گمشدگی کا سوال	2	715/4	ہجرت کی اقسام	15
658/8	ہدیٰ کا ملک سبا کی سیر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنا	3	717/4	ہجرت الی اللہ کی توضیح	16
568-660	ہدیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنا	4	717/4	مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تفصیل	17
8			239/5	مہاجرین کے فضائل	18
679/8	ہدیٰ کا بلقیس کو خط پہنچانا	5	241/5	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہجرت فرمانا کفار کے خوف کی وجہ سے نہ تھا	19
	ہدایت / ہادی	6	447/5	مہاجرین کی تعریف و تحسین	20
209/1	ہدایت کا معنی اور اس کی اقسام	1	418/6	حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت	21
210/1	اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت میں فرق	2	419/6		
211/1	ہدایت کا معنی	3			
100/4	ابتداء فطرت میں ہر انسان کا ہدایت یافتہ ہونا	4			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
530/6	ہڈی کا نجس ہونا	1	418/4	ہدایت کا اللہ کی طرف سے ہونے کا معنی	5
534/6	ہڈی کا پاک ہونا	2		لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے	6
	ہلاکت	8	363/6		
205-207 12	قوم عاد و ثمود اور دیگر امتوں کی ہلاکت	1		دنیا و آخرت میں انسان کی ہدایت کے انتظامات	7
	سورۃ الہمزہ	9	379/6		
974/12	سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ وغیرہ	1	578/6	مشرکین کو ہدایت نہ دینے کی وجوہ	8
975/12	سورۃ الہمزہ کا شان نزول	2	794/6	قرآن کا متعدد اسالیب سے ہدایت دینا	9
978/12	سورۃ الہمزہ کی تفسیر کی تکمیل	3		توبہ کرنے، ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہدایت	10
	ہم جنس پرستی	10	414/7		
	ہم جنس پرستی کرنا کیسا؟	1	720/7	ہدایت دینے کے محامل	11
855/7	ہنسنا / تبسم / قہقہہ	11		حضور ﷺ کے ہدایت دینے اور نہ دینے کے محامل	12
215/5	کم ہنسنے کی تلقین	1	218/9	ہدایت پر قائم رہنے کا معنی	13
591/5	حضرت سارہ کے ہنسنے کی وجوہ (جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے)	2	329/9	تمام انسانوں اور جنوں کو ہدایت یافتہ نہ بنانے کی توجیہ	14
644/8	تبسم، مسک اور قہقہہ کے معانی	3	346/9	ہدایت کے پانی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنا	15
	سورۃ ہود	12		حضور علیہ السلام کا تمام مخلوق کی ہدایت کیلئے مبعوث ہونا	16
490/5	سورۃ ہود کی آیات، زمانہ نزول اور نزول کا مقام	1	717/9		
490/5	سورۃ ہود کی سورۃ یونس کے ساتھ مناسبت	2	631/10	ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے	17
490/5	سورۃ ہود کے متعلق احادیث	3	147/11	ہادی اور ہدایت کے مصداق	18
491/5	سورۃ ہود کے مضامین	4	788/12	کیا اللہ پر ہدایت دینا واجب ہے؟	19
656/5	سورۃ ہود کا اختتام	5	149/12	رسولوں کی ہدایت کا عقل پر مقدم ہونا	20
	حضرت ہود علیہ السلام	13	687/12	اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی	21
199/4	حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب	1	431/12	کیا سجیل سے ہدایت کا راستہ مراد ہے؟	22
				ہڈی	7

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
449/10	رتع صرصر کا معنی	20	200/4	حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بعثت	2
449-452 10	قوم عاد پر آندھی کا عذاب بھیجنے کی وجہ	21	202/4	قوم عاد کے وطن کی تاریخی حیثیت	3
102/11	قوم عاد کی جہالت کی وجوہ	22		حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام	4
103/11	قوم عاد پر آندھی کے عذاب کی کیفیت	23	204/4	کے قصہ کے مابین فرق	
103/11	قوم عاد پر عذاب کی تفصیل	24		حضرت نوح و ہود علیہ السلام کے مقابلہ میں	5
104/11	آندھیوں کے متعلق احادیث	25	205/4	حضرت محمد عربی ﷺ کی زیادہ عزت	
586/11	قوم عاد پر آندھی کا عذاب	26	200/4	قوم عاد کی قوت اور ان پر عذاب نازل ہونا	6
318/11	عاد کا معنی اور مصداق	27		حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہنے کی	7
318/11	ایکہ والوں کا مصداق	28	563/5	توجیہ	
319/11	تبع کا معنی اور مصداق	29		امتی کیلئے نبی کو اپنا بھائی کہنے کے جواز پر	8
730/12	قوم عاد کا عذاب	30	564/5	بعض علماء کے دلائل	
731/12	قوم عاد کا تعارف	31		نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھائی کہنے کے عدم	9
205/12	قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت	32	564/5	جواز پر دلائل	
	ی			بڑے بھائی جتنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی	10
	یا جوج و ماجوج	1	566/5	تعظیم کی تلقین کرنا غلط ہے	
207/7	یا جوج و ماجوج کے متعلق احادیث	1	569/5	حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ	11
208/7	یا جوج و ماجوج کے متعلق علماء کی آراء	2	570/5	قوم عاد پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	12
	یا جوج و ماجوج کے متعلق علامہ غلام رسول	3	867/7	حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ	13
212/7	سعیدی کا نظریہ			حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آنے والے دیگر	14
666/7	یا جوج و ماجوج کا تذکرہ	4	871/7	انبیاء کا قصہ	
	یاد	2	380/8	قوم عاد کا مختصر تعارف	15
	اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں	1	381/8	قوم عاد کا عبث لہو و لعب	16
779/6	کو توڑنے کا وجوب		400/8	قوم ہود کا تکبر اور اس کا ہلاک ہونا	17
	یتیم	3	447/10	قوم عاد کی طرف متعدد رسول آنے کے محال	18
443/1	یتیم کے ساتھ حسن سلوک	1	448/10	قوم عاد کا تکبر	19

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
259/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت	5	650/1	یتیم کا معنی	2
260/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تین بار سلام	6	780/1	زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت	3
658/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ	7	547/2	یتیم کا مال ادا کرنا	4
	یزید	5	547/2 583/2	یتیم کا مال کھانا اور اس سے بدسلوکی کرنا	5
162-167 11	یزید پر لعنت کرنے کی بحث	1	580/2	یتیم کے مال کو ولی کا مال کہنے کی وجہ	6
168/11	یزید کی تکفیر	2	588/2	یتیم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا	7
	سورۃ یس	6	817/2	یتیم لڑکیوں کے حقوق	8
707/9	سورۃ کا نام	1	187/7	یتیم کا معنی اور اس کے شرعی احکام	9
707/9	سورۃ یس کے فضائل میں احادیث	2	188/7	یتیم کے ساتھ نیکی کرنا	10
709/9	سورۃ یس کے مشمولات	3	189,190/7	یتیم لڑکے اور ان کے شہر کا نام	11
708/9	سورۃ یس کے بعض اسماء	4	758/12	یتیم کا معنی	12
713/9 720/9	سورۃ یس کا اختتام	5	758/12	یتیموں کو صدقہ دینے کی فضیلت	13
	حضرت یعقوب علیہ السلام	7	821/12	رسول اللہ ﷺ کے یتیم ہونے کی کیفیت	14
253/2	اونٹ کے گوشت کو حرام کرنا	1	829/12	رسول اللہ ﷺ کو یتیم بنانے کی حکمتیں	15
660/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ	2	830/12	یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث	16
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف	3	993/12	یتیم کی پرورش پر بشارت	17
688/5	علیہ السلام سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ		736/12	یتیم کی تکریم کی وجوہ	18
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف	4	736/12	یتیم کی دل داری نہ کرنے کی مذمت	19
	علیہ السلام کی سر بلندی اور ان کے بھائیوں			حضرت یحییٰ علیہ السلام	4
678/5	کے حسد کا پیشگی علم ہونا		147/2	سوانح عمری	1
	حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھڑیے کے کھانے	5	150/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا	2
705/5	کا خطرہ ہونے کی وجہ			حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو مستبعد سمجھا	3
	حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنیامین کو بھیجنے	6	151/2	جانا	
812/5	کی وجوہ		254/7	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھنے کی وجہ	4

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
659/5	سورۃ یوسف کا نام، مقام نزول اور زمانہ نزول	1		حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہائے افسوس!	7
661/5	سورۃ یوسف کے مقاصد اور اہداف	2	844/5	کہنے کی توجیہ	
883/5	سورۃ یوسف کا اختتام	3		جن قرآن کی بناء پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا یقین تھا	8
	حضرت یوسف علیہ السلام	11	845/5		
660/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ	1		حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیمائی کا واپس لوٹ آنا	9
662/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق احادیث	2	857/5		
	حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب میں ستاروں، چاند اور سورج دیکھنا	3	858/5	بیٹوں کے لیے استغفار کو مؤخر کرنے کی وجوہ	10
666/5	خواب دیکھنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر	4	860/5	حضرت یعقوب علیہ السلام کا معصروانہ ہونا	11
667/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء ہونے کے دلائل	5		یقین	8
679/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انبیاء نہ ہونے کے دلائل	6	278/1	یقین کا معنی	1
681/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کے متعلق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا موقف	7	327/6 328/6	یقین کا لغوی و اصطلاحی معنی	2
684/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح	8	151/8	عین الیقین اور حق الیقین کی تعریف	3
685/5	تاویل الاحادیث کے محامل	9		ایمان والوں کے ذکر کے بعد آخرت پر یقین رکھنے والوں کا ذکر	4
685/5	تکمیل نعمت کا بیان	10	552/8	علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفات	5
	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان سے نفرت کا سبب	11	963/12	یعنی چیز کی وضاحت	6
687/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں نشانیاں	12	396/12	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	9
687/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انہیں قتل یا شہر بدر کرنے کا منصوبہ	13		حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو ٹھہرانا	1
692/5			149/3	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تعارف	2
			144/7	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو فتی فرماتا	3
			148/7	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت یوشع علیہ السلام کا کردار	4
			192/7		
				سورۃ یوسف	10

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
732/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے جوابات کی وضاحت	27	707/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا راستہ میں زد و کوب کرنا	14
733/5	وہم بہا کے ترجمہ کے دو محمل	28	708/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی سے مراد وحی نبوت ہے یا الہام؟	15
734/5	حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ صادر ہوا یا نہیں؟	29	708/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر نہ ہونے کے محال	16
737/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ کی تہمت کا رد اور ابطال	30	708/5	والد سے اپنے حالات کو مخفی رکھنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت	17
738/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکدامن ہونے پر متعدد شہادتیں	31	709/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر دینا	18
735/5 739-740/5	لولا ان را برہان ربہ کی تفسیر	32	719/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خبر کے من گھڑت ہونے کی وجوہ	19
741/5	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا	33	722/5	قافلہ والوں کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا	20
742/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت سے برأت	34	725/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار کے متعلق متعدد روایات	21
743/5	عزیز مصر کی بیوی کو معافی مانگنے کی تلقین	35	726/5	کنعان سے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنچنے کی تفصیل	22
744/5	عورتوں کے مکر کا عظیم ہونا	36	727/5	عزیز مصر کی فراست	23
746/5	مصر کی عورتوں کی نکتہ چینی اور ان کا منشاء	37	730/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پارسائی کا کمال	24
747/5	مصر کی عورتوں کی دعوت کا اہتمام	38	731/5	عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو درغلانا	25
748/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن کے متعلق احادیث و آثار	39	732/5	مخلوق کی بہ نسبت خالق سے حیاء کرنا لائق ستائش ہے	26
749/5	مصری خواتین کا بچلوں کی بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا	40			
749/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کہنے کی توجیہ	41			
750/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت آزمائش	42			
751/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا سبب	43			
752/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکبازی کی علامات	44			

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
780/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے مکارم اخلاق	61	752/5 776/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی مدت	45
782/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا	62		حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانہ میں ساتی	46
784/5	ہمارے نبی ﷺ کا حضرت یوسف علیہ السلام کی تحسین کرنا	63	754/5	اور تانبائی سے ملاقات	
				ساتی اور تانبائی کے بیان کردہ خواب سچے تھے یا جھوٹے	47
	رہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے توقف کرنے کی وجوہات	64	755/5	قید خانہ میں کھانا آنے سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کا کھانے کی خبر دینا	48
785/5	”جیل بھر و تحریک“ کا عدم جواز	65	755/5	خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کھانے کے متعلق پیش گوئی کی توجیہ	49
	حضرت یوسف علیہ السلام کا تہمت لگانے والیوں کی تعین نہ کرنا	66	756/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے اشارات	50
785/5	مصر کی عورتوں کی سازش کی وجوہ	67		کافروں کے دین کو ترک کرنے کی توجیہ	51
786/5	عزیز مصر کی بیوی کا اعتراف اور حصص کا معنی	68	758/5	مبداء اور معاد کے اقرار کی اہمیت	52
	حضرت یوسف علیہ السلام نے پس پشت کسی کی خیانت نہیں کی	69	758/5	اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا جواز	53
787/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی پر دلائل	70	760/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں توحید باری کی تقاریر	54
787/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول کہ ”میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا“	71	761/5	ساتی اور تانبائی کے خواب کی تعبیر	55
789/5	بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا	72	765/5	خواب کی تعبیر کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ظن کی توجیہ	56
791/5	حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے متاثر ہونے کی وجوہات	73	765/5	حضرت یوسف علیہ السلام کو بھلانے کے متعلق روایات	57
792/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں جانا	74	766-7667 5	مصر کے بادشاہ کا خواب دیکھنا	58
792/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرنا	75	778/5	اضغاث احلام کا لغوی و اصطلاحی معنی	59
793/5	بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو صاحب اقتدار اور امانت دار قرار دینا	76	778/5	مدت گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توجیہ	60
794/5			779/5		

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
820/5	بے قصور قافلہ والوں کو چور کہنا	89		طلب منصب کا عدم جواز اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب کی توجیہ	77
823/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا چور نہ ہونا	90	794/5	موجودہ طریق انتخاب پر حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال اور اس کے جوابات	78
823/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامان کی تلاش لینا	91	795/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے حفیظ اور علیم ہونے کے محال	79
823/5	بھائیوں سے چور کی سزا معلوم کرنے کی وجہ	92	798/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی تعریف کرنے کا جائز ہونا	80
824-825 5	بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگانا	93	799/5	ایام قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انتظام	81
833/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی چوری	94	800/5	عزیز مصر کی بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح	82
835/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام سے فدیہ لینے کی درخواست کرنا	95	801/5	حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت و نزاہت پر دلائل	83
838/5	بڑے بھائی کا واپس جانے سے انکار کرنا	96	803/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا اور اس کی وجہ	84
839/5	بھائیوں کا واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ	97	807/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا غلہ لینے مصر پہنچنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں پہچان لینا	85
841/5	غیب کے نگہبان نہ ہونے کے محال	98	806/5	حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلوا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مزید غم میں کیوں مبتلا کیا؟	86
841/5	بستی سے پوچھنے کے معانی	99	808/5	بھائیوں کی بور یوں میں رقم کی تحصیل رکھنے کی وجہ	87
842/5	بنیامین کے متعلق بات گھڑنے کی توجیہ	100	819/5	حضرت یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو یہ بتانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں	88
841/5	غیب کے نگہبان نہ ہونے کے محال	98	809/5		
847/5	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی بجائے غلہ کا سوال کیوں کیا؟	102			
848/5	بھائیوں سے ان کے مظالم پوچھنے کی وجہ	103			
850/5	بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لینا	104	819/5		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
105	حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا	850/5	4	یوم فاروق اعظم نہ منانے پر سپاہ صحابہ کا احتجاج	71/3
106	حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اعتراف خطا کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا انہیں معاف کر دینا	850/5	5	عشرہ حکیم الامت منانے کا اعلان	71/3
107	حضرت یوسف علیہ السلام کی قیاس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا روشن ہونا	851/5	6	ایام اللہ کا معنی	141/6
108	بہت فاصلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو پہنچنے کی توجیہ	856/5	7	یوم عظیمہ کا معنی	786/7
109	حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنا	860/5	8	بعض ایام کا منحوس ہونا	452-456 10
110	حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی وفات کے باوجود ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی توجیہ	860/5	13	یوم حساب	
111	حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں متعدد اقوال	863/5	1	یوم حساب اگر قریب ہے تو آچکا ہوتا	517/7
112	حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سجدہ کی توجیہات	863/5	14	یوم حشر	
113	حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین	869/5	1	حشر اجساد پر دلیل	331/1
114	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالنا	869/5	2	قیامت کے دن گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے بری ہونا	627/1
12	یوم		3	قیامت کے دن مومن و کفار کی علامات	309/2
1	یوم کا عرفی و شرعی معنی	173/1	15	یوم عرفہ	
2	یوم قیامت کی مقدار	173/1	1	الوتر سے مراد یوم عرفہ اور اس کی فضیلت	725/12
3	یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی	278/1	16	یوم میلاد	
			1	یوم میلاد النبی ﷺ کا عید ہونا	67/3
			2	یوم میلاد پر خوشی منانے اور یوم وفات پر غم نہ منانے کا جواب	260/7
			17	یوم نحر	
			1	والفجر سے مراد یوم نحر کی صبح اور اس کی فضیلت	720/12
			2	الشفع سے مراد یوم نحر ہے	725/12
			18	سورۃ یونس	
			1	سورۃ کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ	317/5
			2	سورۃ یونس کا زمانہ نزول	318/5

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
	حضرت یونس علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر چلا جانا	13	318/5	سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس کی آپس میں مناسبت	3
958/9			319/5	سورۃ یونس کے مسائل و مقاصد	4
	حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا	14	486/5	سورۃ یونس کے اختتامی کلمات و دعا	5
959/9				حضرت یونس علیہ السلام	19
	حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا	15	469/5	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	1
960/9			469/5	حضرت یونس علیہ السلام کا نام و نسب	2
961/9	حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث	16		حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں قرآن	3
	حضرت یونس علیہ السلام پر نعمت کے تذکرہ کی تفصیل	17	469/5	مجید کی آیات	
196/12			470/5	حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت میں احادیث	4
	یہود و نصاریٰ	20	470/5	حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح	5
370/1	یہود کی تلمیس اور کتمان حق	1		آثار عذاب دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کرنا	6
411/1	یہود کا انبیاء کو قتل کرنا	2	474/5		
412/1	یہود پر ذلت کے باوجود اسرائیل کی حکومت	3		حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرنے اور فرعون کی توبہ قبول نہ کرنے کی وجہ	7
	کیا موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے سے نجات ہو جائے گی؟	4	474/5		
414/1				حضرت یونس علیہ السلام پر گرفت کی توجیہ اور نگاہ رسالت میں ان کا بلند مقام	8
436/1	یہود کا نفاق	5	475/5		
438/1	عذاب یہود کے مزعمہ چند دن	6		حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش پر سید مودودی کی تنقید	9
445/1	یہود میں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا	7		مودودی کی تنقید پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا تبصرہ	10
446/1	یہود کا انبیاء سے عناد رکھنا	8	476/5		
450/1	تورات پر یہود کا دعویٰ ایمان کا رد	9		حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	11
	یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ جنت کے فقط وہ مستحق ہیں	10	477/5		
452/1			956/9		
455/1	یہود کا جبرائیل کو اپنا دشمن کہنا	11		حضرت یونس علیہ السلام کا اہل نبیوی کی طرف مبعوث کیا جانا	12
	یہود کا آپ ﷺ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا	12	957/9		
458/1					

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار	صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
255/3	یہودیوں کے کسی عمل کا لائق شمار نہ ہونا	34	596/1	یہود و نصاریٰ کافروں میں تقسیم ہونا	13
	نزل قرآن سے ان کے کفر اور سرکشی کا زیادہ ہونا	35	517/1	یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر	14
256/3				یہودیوں اور عیسائیوں نے کس شہادت کو چھپایا	15
257/3	صرف نیک عمل کرنے سے یہودیوں کی نجات	36	562/1		
420/3	یہودیوں کے لگائے ہوئے بہتانوں کی تفصیل	37	879/1	یہود کو سرزنش	16
405/4	یہودیوں میں نیکو کار اور بدکار	38	97/2	یہود کے جرائم پر سزائیں	17
645/6	یہودیوں کی دوبارہ سرکشی	39	179/2	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت	18
647/6	یہودیوں کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا	40	193/2	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت	19
736/8	یہودیوں کا کن امور میں اختلاف تھا؟	41	204/2	غیر یہودیوں کے مال کو حلال سمجھنا	20
	احکام تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہود کی مذمت	42	317/2	مدینہ کے یہودیوں کی ذلت و خواری	21
882/11			317/2	یہودیوں کا ریاست قائم کرنا	22
884/11	یہود کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ	43	493/2	یہودیوں کا اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اعتراض	23
	یہودیوں کا نبی ﷺ کو سلام کی صورت میں بدو عادینا اور آپ ﷺ کا جواب	44	498/2	کا جواب	
780/11			686/2	یہود کی تحریف	24
	یہودیوں کی گستاخیوں کے باوجود ان پر فوراً عذاب نازل نہ کرنا	45	695/2	یہود کا بخل	25
782/11			695/2	یہود کا حسد	26
860/11	یہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت	46	850/2	یہود کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ سرکشی و عناد	27
			851/2	یہود کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی و عناد	28
			851-855 2	چار وجوہ سے یہود کا کفر	29
				سیدنا محمد ﷺ کی نبوت پر یہود کے اعتراض کا جواب	30
			876/2		
			191/3	نبی کریم ﷺ کا یہودی زانی کو رجم کرانا	31
			192/3	یہودیوں کا نبی کریم ﷺ پر ایمان نہ لانا	32
			223/3	یہودیوں کے متعلق قرآن کی اصطلاح	33



تفسیر تبیان القرآن کی بارہ جلدوں میں تکمیل کے بعد فرید بک سٹال کی جانب سے باذوق قارئین کی سہولت کیلئے
مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی کی مبسوط و مفصل تفسیر اور ترجمہ و شہادت کی ایک جلد میں جامع تلخیص

بہ نام

اوار تبیان القرآن

ترجمہ قرآن بہ نام

نور الفکر

تلخیص و مرتب: مولانا حافظ محمد عبد اللہ قادری نورانی زید علمہ

چند خصوصیات

- ☆ متن قرآن مجید کا سلیس رواں زبان میں مکمل ترجمہ،
 - ☆ قرآنی آیات سے مستنبط فقہی مسائل کا مختصر اور جامع تذکرہ،
 - ☆ عقائد اہل سنت و جماعت کی تائید اور ترجیح پر جامع دلائل،
 - ☆ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی (مدظلہ العالی) کے علمی تحقیقات کا بہترین نمونہ،
 - ☆ آیات قرآنیہ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا مستند تذکرہ،
 - ☆ کتب تفسیر و احادیث کے باضابطہ حوالہ جات،
 - ☆ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے میں بہترین معاون اور مددگار،
 - ☆ مدرسین، مقررین، طلبہ اور عوام الناس کی ضرورت کے عین مطابق،
 - ☆ مسرت اور خوشی کے مواقع پر علمی تعاون اور محبت کے اظہار کے لیے خوب صورت تحفہ،
- یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کی ضرورت اہمیت اور افادیت صدیوں تک باقی رہے گی۔ انشاء اللہ العزیز

فون: 092-42-7312173

فیکس: 092-42-7224899

پیش کش: فرید بک سٹال (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

